

إِنَّمَا تَحْسُنُ تَرْكُنَ الدِّينَ كَيْفَ وَإِنَّمَا لَهُ حَسَابٌ مُطْوَنٌ

شَاهِنْدَلْعَلِيٌّ شَاهِنْدَلْعَلِيٌّ

تألیف
علامہ عبداللطیف رحمانی دہلوی طبیعی

پُرُوفِ کیمیست و بکریش

إِنَّ حُنْتَرَلَنَا إِلَّا كُنْتَ وَأَنْتَ لَهُ لَحَافٌ مُظْلُونَ

شانزِ علیان پرست

تألیف

علامہ عبداللطیف رحمانی رحمۃ اللہ علیہ

پروگریسوبکس

۲۰۔ اردو بازار ۔ لاہور

83740

۱۹۸۳ء م ۱۴۰۳

مکتبہ کامام : تاریخ القرآن
صفحات : ۱۲۲
مصطفیٰ عباد اللطیف رحانی : مصنف

طبع : اقبال افسال پرنٹر لاهور
ناشر : پروگریسو بکس - لاهور

تعداد : ایک ہزار
قيمت : 

فہرست مفہومیں تاریخ القرآن


صفو	مضمون	صفو	مضمون
۲۹	اس کی تردید کہ عرب میں الیٰ چیز تھی جس پر لکھا جاتا	۱۰	اوادیہ
۲۹	اسکی تردید کہ حجاج سے پہلے عرب قرطاس زبانتے تھے	۱۲	پیش لفظ
۳۰	قرآن مجید سے قرطاس کا ثبوت	۱۴	مولانا ابوالکام آزاد کی تحریر
۳۱	قرآن کے بارے میں آنحضرت کی ترغیبات	۱۸	تمہید
۳۲	ترغیبات کی بارہ حدیثوں کا خلاصہ	۱۸	بیان شبہات
۳۳	آنحضرت قرآن کی خود تعلیم دیتے تھے	۱۹	بیوت کی تین صورتیں
۳۵	ابوالدرداء نے قرآن حضور سے پڑھا	۲۱	قرآن کا مسلمان متواری ہے
۳۵	اس رسالہ کی سطح تدوین قرآن کے ثبوت میں کہ مقدمہ بنندج	۲۲	واقعات کی جائیج پڑکاں کے تنقیدی اصول
۳۶	پڑھوں تھیں جبکہ زید بن ثابت نے پڑھنا شروع نہیں کیا تھا	۲۲	اس رسالہ کی سطح تدوین قرآن کے ثبوت میں کہ مقدمہ بنندج
۳۶	حضور کا صحابہ کرام کو قرآن پڑھانے کیلئے مقرر کرنا	۲۴	حمداؤ مصلیاً
۳۶	مسلموں کی تعلیم کے لئے حضور کا فاری مقرر کرنا	۲۵	قرآن جن الفاظ کا اور ترتیب پر عہدِ نبی میں تھا اب تک ہے
۳۸	حضور کہ میں بھی قرآن کی تعلیم دیتے تھے	۲۵	قرآن کے تحفظ کا ثبوت مسلمانوں کی عملی زندگی سے
۳۸	آن پھیں قبیلوں کے نام جو مدینہ آکر مسلمان ہوئے	۲۵	صحابہ کا حافظ فطرت اُتھی تھا
۳۸	ولیم میور کی شہادت	۲۵	آن کی قوت حافظ پر ولیم سور کی شہادت
۳۸	حضرت کا برقبیدہ میں علم قرآن مقرر فرما	۲۵	کتابوں کی حفاظت کے اسباب
۳۰	ملک، فوجی عہد سے کیلئے قرآن کی سند خرما تھی	۲۶	تاریخ القرآن کے اہم مفہومیں کیا ہوں گے
۳۰	ایک کم عمر جزل کی تقریب مخفف قرآن کی وجہ سے	۲۶	قرآن کی ضرورت ہر خاص و عام کو ہے
۳۱	امام دہی موسکتا ہے جس کو قرآن زیادہ یاد ہو	۲۶	کتاب کی حفاظت کا عہدہ ذریوں کتابت ہے
۳۱	اس پر این ہشام کی شہادت	۲۶	اکالیس صحابہ کے نام جو مکملہ پڑھنا جانتے تھے
۳۲	اُمر کے شہدار کی تدقیق میں قرآن کی وجہ سے امتیاز	۲۷	عرب میں کتابت کافن کس سے شروع ہوا
۳۲	قرآن کی اشاعت کی ایک وجوہ فصاحت بھی ہے	۲۷	عہدِ نبی میں پہلے عرب میں کتابت کا رواج تھا
۳۳	اپلے عرب بلافت کی پرستش کرتے تھے (حاشیہ)	۲۷	اسیران بدر کا کتابت کی تعلیم کے لئے مقرر ہونا
۳۴	لٹیئہ صور میں الیٰ چیز جس سے کافن کا کام یا جاما تھا	۲۸	عرب میں کافن کا رواج کس نے دیا

صفو	مفسون	صفو	مفسون
۵۶	علم کتابت عام کمال میں اعلیٰ اور اقدم ہے	۳۲	فصحاء عرب نے قرآن سن کر شعر کہنا چھوڑ دیا تھا
۵۸	دریزین کے لاکوں کو کتابت کی تعلیم	۳۲	غالبد بن ولید کا اسلام
۵۹	عبد بن بُرَيْ کی مستورات لکھنا چاہتی تھیں	۳۲	دبار جوش میں قرآن کی بلاغت کی سمجھہ نہائی
۵۹	آنحضرت کا عبرانی کو سیکھنے کا حکم فرمایا	۳۲	قرآن کی فعاحت پر اہل زبان کی حرمت
۵۹	اُن جو بیس صحابیوں کا نام جس کا آپ سیکھنے پڑھنے کا کام یتھے تھے	۲۵	مشرکین چُبپ چُبپ کر قرآن سنتے تھے
۵۹	سے عیسوی سے دوسرا سال پہلے چین میں کافذ کا رواج تھا	۲۵	طفیل درسی کا اسلام
۴۰	ابن بصرہ کا کتب خانہ	۲۵	سویر بن صامت کا اسلام
۴۰	عرب میں بجائے کافذ دوسری چیز ضرور تھی	۳۶	أُسیدا و رسعد قرآن سن کر مسلمان ہو گئے
۴۰	غلیظ اول نے عبد بن بُرَيْ کے کچھ ہی روز بعد قرآن لکھوا رکا	۳۶	کتاب کے محفوظ رکھنے کے چار اسباب
۴۰	حضرت عمر و عائشہ و عبد اللہ بن عمر و حفصہ کے پاس لکھا ہوا قرآن تھا	۳۶	قرآن کے نئے یہ چاروں حاصل تھے
۷۱	حنظل نے ایسی قوم کو دیکھا جو لکھا ہوا قرآن بیچتے تھے	۳۷	حافظہ قرآن فوراً حفظ کر لیتے تھے
۷۱	تابعیہ صحابی کا کام ہی مصحف لکھنا تھا	۳۷	بیرون میں ستر حافظہ شہید کئے گئے
۷۱	غلیظ دوم نے ایسے قرآن کو جیکے ساتھ تفسیر تھی صائم کر دیا	۳۸	جنگ یہاں میں ستر حافظوں کا خصیدہ ہونا
۷۱	حضرت عمر کا باریک خط میں قرآن لکھنے سے منع فرمانا	۳۸	حضرت عبد اللہ ایک رات میں قرآن حتم کرتے تھے
۷۱	حضرت ابن مسعود کا مطلقاً قرآن دیکھنا	۳۹	عبد بن بُرَيْ کے سینتیش حافظوں کا مختصر حال
۷۱	حضرت رکا لکھنے ہوئے معاشرہ کو ملاحظہ فرمانا	۵۲	ابو موسیٰ کی فوج میں تین سو حافظ تھے
۷۱	ام سلمہ کا عبد اللہ بن نافع سے قرآن لکھوانا	۵۲	ان عورتوں کے نام جنہوں نے قرآن حفظ کیا تھا
۷۱	دمشق کے ایک گردہ کا اکارپتے قرآن کو اپنی دیگر وسیع مجموع کرنا	۵۲	اس حدیث کی تشریع کیا جائے سو اسی نے قرآن جمع نہیں کیا
۷۱	عبد بن بُرَيْ میں پوچھتے قرآن کے لکھنے کی ضرورت تھی یا نہیں	۵۲	حفظ قرآن اور جمع قرآن میں فرق
۷۲	حافظت کی ضرورت پر بحث	۵۲	جمع کے معنی پر بخاری کی شہادت
۷۲	حضرت سیفیہ اسلام کے کل ماہات منصب طاہریں	۵۵	اس غسلی پر کچار کے سوا قرآن کسی کو بیان نہ تھا، پانچ تنبیہ
۷۲	کتابوں کی حفاظت کے دو طریقے، سینہ اور سفینہ	۵۹	قرآن کی کتابت
۷۲	حافظت بالخط میں نسیان کا احتمال	۵۹	کتابت قرآن کے اہم مباحث
۷۲	سہو و نسیان لوازم انسان میں سے میں	۵۹	عبد بن بُرَيْ میں آلات کتابت کا ہونا
۷۲	آنحضرت سے سہو و نسیان کا ظاہر ہونا	۵۶	اہل مکہ کتابت جانتے تھے
۷۲	اس پر ابو راؤد کی شہادت	۵۶	صرف قریش میں سترہ کاتب تھے
۷۲	بخاری کی شہادت	۵۶	اُن دس صحابیوں کے نام جو کتابت جانتے تھے

صفو	مضمون	صفو	مضمون
۳	دوسرادا تھے	۶۳	استیعاب کی شہادت (حاشیہ)
۴	تیسرا دا تھے	۶۴	کتاب کی حفاظت کا راجدہ زیر حفظ انہیں ہو سکتا
۵	چوتھا دا تھے	۶۵	سماوات کو قرآن نے یاد کے عناد پر نہیں چھوڑا
۶	چند اور ایسے لوگوں کے نام جو قرآن لکھتے تھے	۶۶	اذا آتَنَا إِنَّمَا مِنْ مُّنْذِنِينَ كی الفسیر
۷	دیکھ کر قرآن پڑھنا حفظ سے بہتر ہے	۶۷	لکھنے کے چند فائدے
۸	حضر قرآن اپنے لئے نہیں لکھاتے تھے	۶۸	یاد سے کس کو فائدہ ہوگا
۹	پورا قرآن نکھل کر حضور کو مسنایا گیا	۶۹	آنحضرت کی بخشش عارقیاً است تک
۱۰	صحابہ حضور کے ارشاد کے موافق لکھتے تھے	۷۰	اس بات کا راجدہ کائنات کو کتابت کا خیال نہ ہوا
۱۱	قرآن کے دو قابلِ لحاظ امر	۷۱	آپ نے صدقہ کے احکام حضرت علی کی کھوادیتے تھے
۱۲	قرآن کس کو کہتے ہیں، قرآن کی تعریف	۷۲	کتابت قرآن پر تفصیلی بحث
۱۳	علام مجzen کو کیسا ہونا چاہیے	۷۳	عبد بن بزی میں قرآن لکھا گیا یا انہیں
۱۴	سورتوں کی آیات میں خاص طرح کا ربط ہے	۷۴	قرآن سے قرآن کے لکھنے جانے کا ثبوت
۱۵	ہر سورت کا موضع جملہ ہے	۷۵	حضرت لکھا کرد وبارہ اصلاح فرمادیتے تھے
۱۶	تمام سورتوں کی ترتیب وحی الہی سے ہے	۷۶	لکھنے وقت آیت کا مقام و ترتیب بلادیتے تھے
۱۷	ترتیب آیات کی حدیثیں	۷۷	اصیا طاکی وجہ سے حدیث لکھنے کی منافع
۱۸	سورتوں کی ترتیب کی حدیثیں	۷۸	حضرت ابوسعید کا حدیث لکھنے سے اکابر
۱۹	مال متعدد کی میں قرآن چھوڑنے کا ثواب	۷۹	حضرت محمد قرآن لکھراتے تھے
۲۰	حضور نے آخری دو ختم زید اور ابن معبدی میں کہتے	۸۰	صحابہ حلقة باندھ کر لکھتے تھے
۲۱	زید نے اپنا لکھا بواز آن اسی آخری ختم کے وقت مُنسیا تھا	۸۱	قرآن ابوسعید نے قرآن یاد کر کے حضور کو مسنایا تھا
۲۲	موجودہ قرآن اسی آخری ختم کی ترتیب ہے	۸۲	حدیث لمیجتمع القرآن غیر اربعہ کا محل
۲۳	اس پر سولانا بحر العلوم کی شہادت	۸۳	استیعاب کی شہادت
۲۴	دوسری شہادت تنزیہ الفرقان کی	۸۴	عبد الدین الصامت لپرورا قرآن عبد بن بزی میں سیکھا تھا
۲۵	تیسرا شہادت امام مأکہ کی	۸۵	صحابہ عرب ہر سفر میں قرآن ماتقدیر کھتتے تھے
۲۶	چوتھی شہادت امام بن عوی کی	۸۶	قرآن بجد ساتھ در لکھنے کے وجہ
۲۷	پانچویں شہادت ابی حصار کی	۸۷	صحابہ ایک ہفتہ میں قرآن ختم کرتے تھے
۲۸	چھٹی شہادت ابو جفر کی	۸۸	اس معمول پر چند شہادت میں
۲۹	ساتویں شہادت امام نووی کی	۸۹	اس کا راجدہ کسب صحابہ یاد سے پڑھتے تھے
۳۰	آنھوں شہادت ولیم سور کی	۹۰	عبد بن بزی میں ناظرانہ خوان بھی تھے
۳۱	نویں شہادت فاضل محمد بن الحسن کی	۹۱	پہلا دا تھا

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۰۳	علام ابن حزم کی رائے	۹۳	قرآن کی سندیں قواتر کی حد سے زیادہ ہیں قرآن کی ترتیب پر علماء ابن حزم کی تحریر ان روایتوں کی تتفق جو سے شبہ کا موقع ملتا ہے
۱۰۳	امام فیض الدین فودی کی رائے	۹۴	اشتباه کی پہلی روایت
۱۰۳	قاضی ابو بکر کی رائے	۹۷	معوذین قرآن سے خارج ہے
۱۰۳	امام فخر الدین رازی کی رائے	۹۷	معوذین کے متعلق ابن سعود کے تین شخصوں کی روایت
۱۰۳	علام سجر العلوم کی رائے	۹۸	پہلی روایت عبدالرحمن کی
۱۰۴	اشتباه کی دوسری روایت	۹۵	دوسری روایت علقم کی
۱۰۵	سورۃ کی ترتیب صحابہ کی رائے پر جوئی ہے	۹۵	تیسرا روایت زربن جیش کی
۱۰۵	اس حدیث پر ترمذی کی رائے	۹۶	در کی پہلی اور دوسری اور تیسرا اور حجری روایت
۱۰۶	عرف قدیم اور شیعہ تھا	۹۶	عبد الرحمن کے علاوہ کسی کی روایت نہیں انہما پستامن
۱۰۶	عرف کے متعلق ایک مذہری روایت	۹۸	كتاب اللہ
۱۰۶	عرف کو رافعی خیطان کہا گیا ہے	۹۸	عبد الرحمن کی روایت کے عدم صحت پر فو دلیں
۱۰۶	عرف کے متعلق امام سلم کا فیصلہ	۹۸	عبد الرحمن اس روایت میں مستقر ہے
۱۰۷	حوف کی روایت پر محققانہ فیصلہ	۹۹	الباصاق اہل کوفہ سے صحیح روایت نہیں کرتا
۱۰۷	معوذین روایتوں سے ثابت ہے کہ قرآن کی ترتیب	۹۹	اعش کی ان سے روایت صحیح نہیں ہوتی
۱۰۸	آنحضرت کی ترتیب ہے	۹۹	اعش شیعہ ہے
۱۰۸	سورۃ برارة اور سورۃ الانفال مستقل سورتیں ہیں	۹۹	اس روایت میں دو فاصلوں کا اجتماع
۱۰۸	پہلی شہارت	۹۹	اس کی حدیث موضوع ہے
۱۰۸	دوسری شہارت	۹۹	حضرت ابن معوذ کی بنیامی کا احتمال
۱۰۹	تیسرا شہارت	۹۹	طران کی روایت کو معوذین قرآن میں سے ہے
۱۰۹	چوتھی شہارت	۹۹	ابن سعود معوذین سے ناواقف نہ تھے
۱۱۰	صحابہ سات دن میں کس ترتیب سے قرآن ختم کرتے تھے	۹۹	زربن جیش کی روایت کی جانش
۱۱۱	حضرت ابن عباس کی حدیث پر معنوی بحث	۱۰۰	علمقة کی روایت کی تتفق
۱۱۱	اس حدیث کی دریافتیں	۱۰۰	معوذین کی حدیث پر محققانہ فیصلہ
۱۱۱	۱۔ انفال اور برارة ایک مراتق کیوں لکھی گئیں	۱۰۱	ان روایتوں کے عدم صحت پر مبنی زبردست وجہ
۱۱۱	۲۔ قرآن کی ستاً طویل سورتوں کی مراتق ان کو کیوں لکھا گیا	۱۰۲	معوذین کا روایت متوارتوہ سے ثبوت
۱۱۱	حضرت عثمان کا جواب	۱۰۲	عاصم، حزہ، کسانی، خلف کی متواری سند
۱۱۲	جواب عا	۱۰۲	اختباہ کی روایات کے عدم صحت پر جنبد جیہ علام کی رائے
۱۱۲	جواب عا	۱۰۲	۱۰۳
۱۱۳	اس جواب پر تأمل اور حضرت عثمان کی تجزیہ		

صفو	مضمون	صفو	مضمون
۱۲۲	خلافتِ ثلاٹ کا مختصر حال	۱۱۳	الفال اور برآورہ کے باہم مشابہ ہولے پر بحث
۱۲۳	ہبیر فاروق میں ایک لاکھ سے کم نسخے قرآن کے نہ تھے	۱۱۴	بسم اللہ سورہ قوبہ میں کیوں نہیں لکھی گئی
۱۲۴	زہری کی حدیث کی شہادت	۱۱۵	اشتباه کی تیسری روایت
۱۲۵	یہ حدیث جر آحاد سے صرف زہری کی روایت ہے	۱۱۶	اس آیت کے متعلق چند ضروری باتیں
۱۲۶	زہری حدیث میں اپنا کلام ملاتے تھے، اس پر المعتز کی شہادت	۱۱۷	پہلی خلافت دربر سین میں ہبیر گیارہ روزہ ری
۱۲۷	زہری کے بیان میں اختلاف ہے اور دوسری صحیح	۱۱۸	جگ بیارہ سلسلہ ہبیری کے آخر میں واقع ہوئی
۱۲۸	روایت کے خلاف ہے	۱۱۹	اس میں شہرہ قرار میں سے سالم شبید ہوئے ان میں ستر قواری تھے
۱۲۹	حدیث بخاری کے معارف اس قتبہ کے تردی کے خلاف	۱۲۰	اس میں شہرہ قرار میں سے سالم شبید ہوئے
۱۳۰	استیصال میں زہری کی مخالفت کا بیان	۱۲۱	زید بن ثابت نے آنحضرت کے عہد میں قرآن جمع کیا تھا
۱۳۱	یہ روایت یا تو بے اہل ہے یا دریانی راوی کی غلطی ہے	۱۲۲	عثمان، علی، ابو عذریف، سالم نے حضرت کی حیات میں
۱۳۲	کنزِ المال کی حدیث اور کشف حقیقت	۱۲۳	قرآن جمع کیا
۱۳۳	عبد بن بُرَّ میں دس شخصوں نے پر اقران جمع کیا تھا	۱۲۴	حضرت کے خود قرآن لکھا یا اور محاابتے لکھا
۱۳۴	یکف یقفل شیش الدین فعلہ رسول اللہ کی نسبت مذکو	۱۲۵	اگر عبد بن بُرَّ میں قرآن جمع نہ ہوتا تو مسلمانوں کا پہلا
۱۳۵	نیز لو یقفل علیہ رسول اللہ، خود غلط ہے	۱۲۶	کام جمع کرنا ہوتا
۱۳۶	ظیف الداول کا جمع کردہ قرآن بیت المال کا ہو گا	۱۲۷	جگ بیارہ کے بعد قرآن کس نے جمع کیا
۱۳۷	ظیف الداول نے اس کو بیت المال میں جمع نہیں کیا	۱۲۸	مشورہ کرنا حضرت ابو بکر کی عاتی تھی
۱۳۸	حضرت ابو بکر کے پاس بیت المال کی کیا کیا چیزیں تھیں	۱۲۹	کسی کتاب کی صحیح نقل کے لئے کتنے اہتمام کی ضرورت ہے
۱۳۹	ایک خالی ہبہ نامہ کا اُر	۱۳۰	زید نے خلافت صدیق کے نواہ گزرنے کے بعد جمع قرآن
۱۴۰	سورہ برآورہ کا آخری حصرف ابو فزیہ کے پاس نکلا	۱۳۱	کام شروع کیا
۱۴۱	زہری کی روایت میں چوبیائیں غلطیں	۱۳۲	ابی تمام قرآن کے سردار ہیں
۱۴۲	اور روزمرہ کے تجربہ کے خلاف ہیں	۱۳۳	فاروق اعظم کے اہتمام میں تعلیم قرآن کا مختصر نہر
۱۴۳	ایک محبوب بلت زبان نہ جو شہزادات کا زان گفتار کرتا	۱۳۴	حضرت عمر نے قرآن کی تعلیم جری تاہم کی تھی
۱۴۴	نقد بخاری بھی اس خبر کے آگے ماند	۱۳۵	ابوالدرداء کے طبق دس میں سول سو سے زیاد طلبہ ہوتے تھے
۱۴۵	خوفت عثمانی میں قرآن کا جمع ہونا	۱۳۶	ابن مسعود کے طبق دس میں چار بزرگ طلبہ ہوتے تھے
۱۴۶	اس حدیث میں پانچ باتیں	۱۳۷	حضرت فاروق نے قرآن کی کتابت کے لئے درست تاہم کیا
۱۴۷	اس پر تنقیحات	۱۳۸	خطیہ اول نے قرآن جمع کیا مگر شائع نہ کیا
		۱۳۹	شائع نہ کرنے کی وجہ
		۱۴۰	حضور کی فضائل کے وقت اسلام کی اشاعت کیا جائی گئی



مقدمة



پیش لفظ

علامہ مفتی عبداللطیف رحمنی (حمد لله تعالیٰ)

ولادت: ۱۲۸۳ھ (۱۸۶۴ء) میں ہوئی۔ تاریخی نام محمد منظور

وفات: عصر کے بعد جمعرات کے دن، ۹ ماہ جمادی الآخرہ ۱۳۳۷ھ مطابق، ۱۰ ستمبر ۱۹۵۹ علی گڑھ میں ہوئی۔ تمنا نے کہا ہے ہے

پر سید چون تمنا ہاتھ برلنے سالش گفتا۔ مقیم جنت عبد الطیف مفتی

$$\frac{۱۹+۴۱+۵۳+۲۰+۵۳}{۱۳۳} = ۹$$

تمنا نے عبد الطیف میں لام کو مشدود رکھ کر ایک لام محسوب کیا ہے۔

آپ کا مولدا اور وطن فضل گرا ہے ضلع بجسور ہے۔ چونکہ ایک تدت اپنے والد مفترم کے ساتھ سنبھل میں رہے، اس وجہ سے بھی شهرت ہوئی۔

آپ نے مولانا احمد حسن کا پیوری اور مولانا الطف اللہ علی گڑھ سے علوم و فنون کی کتابیں میں مؤخر الذکر کے ارشد تلامذہ میں سے تھے۔ تعلیم اور تفہیم میں آپ کو کمال حاصل تھا۔ حدیث شریف اور فقرہ میں قوی الاستعداد تھے۔

مولانا الطف اللہ علی گڑھ سے پڑھنے کے بعد کعبۃ الامال مولانا فضل رحمن گنج مراد آبادی کے آستانہ عالی پر حاضر ہوئے اور طریقہ عالی نقشبندیہ، مجددیہ، رُز بیریہ میں بیعت ہوئے اور حضرت مولانا سے حدیث مسلسل بالاؤلیتہ حدیث الرحمۃ شفی اور حدیث شریف کی اجازت عاتر مامل کی حضرت مولانا کو حضرت شاہ عبدالعزیز محدث سے اجازت تھی۔ اس بیعت اور بارک استماع و اجازت کی بیکت سے آپ پر فتح باب ہوا اور انشہ تعالیٰ نے آپ کو روشن ضمیر اور صاحب بعیرت کیا۔ روایت کے ساتھ جب دریافت کا بھی انضمام ہو جاتا ہے، علم کی شان پکھا دی جی ہوتی ہے۔

لئے اس پیش لفظ کے مراجع دیکھ فریں ہیں۔

(۱) انوار ابیاری شرح اردو مسیح البخاری جلد اول قسط سوم ص ۲۳ (۲) ترجمۃ اخواط جلد ۸ ص ۲۹ (۳) حیات علی ۱۳۳۷

(۴) سیرت مولانا سید محمد علی منیری ص ۲۷ (۵) حیات سلیمان ص ۲۱ (۶) حیات شیل ص ۲۳ (۷) صدریار جنگ ص ۲۷ و مک ۲ (۸) تذکرہ قاریان ہند جلد ۲ ص ۲۹ (۹) کتاب تاریخ القرآن از عبدالصمد صارم (۱۰) مجلہ عمارت جلد ۲ (۱۱) حضرت مفتی کی نواسی ڈاکٹر سید روزان کارقد (۱۲) اس ماجزہ کی بیانیں۔

مجھ سے حضرت مفتی صاحب کی ملاقات خانقاہ شریف (درگاہ حضرت شاہ ابوالغیر) میں ہوئی۔ آپ نے فرمایا حضرت مولانا الطف اللہ کے بیشتر تکمیلہ علم سے فارغ ہو کر، گنج مراد آباد جا کر حضرت مولانا فضل رحمان سے بیعت ہوا کرتے تھے، چنانچہ میں بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، بیعت ہوا، حدیث مسلسل بالا ولیہ حدیث رحمت سُنی اور اجازت عامت حاصل کی، پھر آپ نے حدیث رحمت مجسہ کو سُنائی اور اجازت عامت سے سرفراز فرمایا۔

مسلسلات اگرچہ بہت ہیں لیکن حضرات انہا ابتدا حدیث رحمت ہی سے کرتے ہیں تاکہ اللہ کی رحمت شامل حال رہے۔

حضرت گنج مراد آبادی کی رحلت کے بعد مفتی صاحب مولانا سید محمد علی مونگیری کی صحبت سے کافی عرصے مستفید ہوئے اور ۱۳۲۳ھ میں آپ ہی کے ساتھ گنج کے واسطے روائی ہوئے اور پھر کہ مکرمہ میں آپ کے اشارے اور درسر صولتیہ کے ہبہ تم کے اصرار پر دو سال تک مدرسہ میں درس دیا۔

ابتداء میں آپ نے منوٹھلے رائے بریلی میں پڑھایا۔ پھر آپ ندوہ کے مفتی مقرر ہوئے اور جب ندوہ نے اپنا دارالعلوم کھولا، ماہ شوال ۱۳۳۴ھ (فروری ۱۹۱۶ء) میں دہان کے صدر درس مقرر ہوئے۔ اور حجاز سے واپسی پر خانقاہ رحمانیہ واقع مونگیر میں قیام کر کے تالیف و تصنیف میں مشغول ہوئے۔ حضرت امام اعظم کے حالات میں "ذکرۃ اعظم" تالیف کیا، اس کا تاریخی نام "شوایہ اعظم" ہے۔ یہ رسالہ ۱۳۳۲ھ (۱۹۱۵ء) میں چھپا ہے۔ پھر آپ نے کتاب "تاریخ القرآن" تالیف کی۔ عبد الصمد صارم نے اپنی کتاب "تاریخ القرآن" میں لکھا ہے کہ حضرت مفتی عبداللطیف کی کتاب ۱۹۱۹ء میں چھپی ہے یعنی ۱۳۳۴ء میں۔ یہ دونوں کتابوں اگرچہ مختصر ہیں لیکن کام کی باتوں سے پڑھیں۔

۱۳۳۵ھ (۱۹۱۶ء) میں آپ کا تقدیر دولت آصفیہ کی عثمانیہ یونیورسٹی میں ہوا۔ مجلہ معارف کی جلد آٹھ شمارہ چھ میں کتاب "صرف لطیف" اور "خوب لطیف" کا تذکرہ ہے۔ معارف کا ہر شمارہ ۱۳۳۴ھ (۱۹۱۷ء) کا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے یہ درس لے یونیورسٹی کے طالبان علم کے حسب احوال تحریر فرمائے ہیں۔

صفر ۱۳۳۶ھ (ستمبر ۱۹۱۶ء) میں استاذی مولانا محمد عمر رحمان اللہ کی بیاض سے مفتی صاحب کا تصنیف کردہ انیس صفحات کا مبادی علم منطق کا رسالہ نقل کیا۔ یہ رسالہ حضرت استادی نے مسوی میں اپنی بیاض پر نقل فرمایا تھا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ دوسرے علم میں بھی آپ نے مختصر رسائل لکھے ہوں گے۔

ان رسائل سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے پیش نظر یتربو اول (اعتربو اکارشاد مبارک تھا) آپ نے یونیورسٹی کے طالبان علم کے لئے ثانیہ کافی کو غیر ملزم سمجھتے ہوئے صرف لطیف اور خوب لطیف

تایف فرمان۔

حیدر آباد کے دوران قیام میں آپ نے جامع ترمذی کی شرح "الشرح اللطیف" کے نام سے اور تراجم صحیح بخاری کی شرح "لطف الباری" کے نام سے لکھی ہے، یہ دونوں کتابیں مکمل ہو چکی ہیں اور ان کے مخطوطے محفوظ ہیں۔

آپ کی وفات سے غالباً دو سال پہلے علی گڑھ جا کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ آپ بزرگ کا شفقت سے پیش آئے اور الشرح اللطیف کی ایک چلد مطالعہ کے واسطے غایت کی۔ تقریباً بون گھنڈ اس کے مطالعہ میں مصروف رہا، افسوس یہ ہے کہ اس کے متعلق یادداشت نہیں لکھی البتہ اتنا یاد کر کر شرح مختصر ہے اور بہت مفید، اگر یہ کتاب چھپ جائے اب علم میں ہندستان کے علماء کی منزلت میں اضافہ ہو۔

اس کتاب کے سلسلہ میں علامہ سید احمد رضا بخاری حفظ اللہ وابقاہ کی ایک تعلیق نظر پری ہے اس کو لقل کرتا ہوں، تحریر فرمایا ہے :-

محفوظ و محترم حضرت مولانا مفتی محمد فضل اللہ صاحب (محتشی الأدب المفرد للبخاری) نے نہایت عظیم الشان اعانت یہ فرمائی کہ حضرت المحدث العلام مولانا مفتی فضل اللطیف رحمان صاحب (مصنف تذکرہ عظم دغیرہ) کی شرح ترمذی شریف قلمی استفادہ کے لئے عنایت فرمائی حضرت مفتی صاحب نے ترمذی شریف پر نہایت جامع و مختصر تعلیقات محدثانہ و محققانہ طرز سے تحریر فرمادی ہیں، جو درس ترمذی شریف کے لئے نہایت مفید ہیں، دارالعلوم دیوبند جیسے علمی اداروں کا فرض ہے کالیسی گرانقدر تصانیف کی اشاعت کریں۔ بہر حال میں حضرت مولانا ناظم فضیلہم کی عنایت والطاف کا بہت منون ہوں بلے

آپ کی علمی چار کتابیں ہیں، ان میں سے دو چھپی ہیں اور وہ بھی ناپید، نہ تذکرہ اعلیٰ دستیاب ہے تاریخ القرآن، اتفاق سے اس کا تذکرہ رفیق محترم حافظ جمیل الرحمن خاں سے کیا۔ آپ کو قرآن حکیم کے تراجم اور مطالب سے شغف ہے۔ حضرت شاہ عبدال قادر کا اردو ترجمہ اور حضرت مولانا فضل الرحمن عین مزاد آبادی کا ہندی ترجمہ اکثر دیشہ مطالعہ کرتے رہتے ہیں۔ آپ نے بیان کیا تاریخ القرآن "کہیں دستیاب نہیں ہوتی البتہ پارہنگ لابریری اور آزاد بھون انڈین کو نسل فارکلپنر ریٹیشن لابریری میں موجود ہے، اور میں نے داں بیٹھ کر اس کتاب کو نقل کیا ہے اور اکپنے اپنا تحریر کر کر نسخہ بھجو کو مطالعہ کے واسطے دیا۔ آپ نے یہ بھی بتایا کہ صفو ایکسوس، گیارہ اور بارہ میں عربی

لئے العارابیاری خرچ اور دسیح البخاری جلد اول، قسط سوم متنا

لئے آپ کاں سمجھ کے پاس گی مرلوی قطب الدین کے رہنے والے ہیں اور اب دو چار سال سجنوبہ الہی بھجو مدد پر قیام ہے۔

عبارت کے ترجمہ کی جگہ خالی تھی۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے ترجمہ کی خالی جگہ اور حاشیہ پر اس کتاب کے متعلق اپنی رائے لکھی ہے اور میں نے آپ کی رائے نقل کری ہے۔

علماء اعلام نے فرمایا ہے: **فَقُلْ أَخْيَرُكُمُ الظَّالِمُونَ لَا يَخْلُو عَنِ الْحِكْمَةِ** "حکیم کا کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ الشریف العزت حکیم مطلق ہے۔ اس کے ہر کام میں حکمت اور صلحت ہے تاہیخ القرآن کا نسخہ بہت تلاش کرایا۔ نہ صرف دہلی میں بلکہ دوسرے شہروں میں بھی کہیں دستیاب نہ ہوا اور نہ کسی سے مستعار طرا۔ حافظ جیل الرحمن کا قلمی نسخہ ملا اور اس میں مولانا آزاد کی رائے ملی۔

حافظ جیل الرحمن نے یہ بھی بیان کیا کہ مولانا آزاد نے کتابوں پر دلچسپ انداز سے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے۔ ایک مستشرق کی کتاب پر لکھا ہے:-

برسوں کی جی ہوئی اُس کے دل کی سیاہی اُس کے قلم کی نقش سے بچی اور بُری طرح بچی =
اور ایک کتاب پر تحریر کیا ہے :-

"مولوی صاحب کا دماغ تو کچھ مہذب معلوم ہوتا ہے لیکن دل تو زرا گزار ہے"

مولانا آزاد کی یہ آراء جو انہوں نے اپنی خصوصی کتابوں پر لکھی ہیں اُن کے ضمیر کی آواز ہے جو ہر قسم کے اغراض سے پاک ہے۔ اب میں مولانا کی وہ تحریر کہ رہا ہوں جو آپ نے حضرت مفتی کی کتاب تاریخ القرآن کے صفات ایک سو دس گیاں اور بارہ پر تحریر کی ہے۔ ناظرین ملاحظہ فرمائیں، اس تحریر سے صاف طور پر نایاب ہے کہ مولانا نے دلیق نظر سے اس کتاب کا مطالعہ کیا ہے اور جناب مؤلف نے جواہم عنوانات منتخب کئے ہیں جیسے:

(۱) قرآن کے تحفظ کا ثبوت مسلمانوں کی عملی زندگی ہو (۲) قرآن کے بارے میں آنحضرت کی ترغیبات۔

(۳) کتاب کے محفوظ رکھنے کے چار اباب (۴) عہدِ نبوی میں سنتیں حافظتی (۵) ابو موسیٰ کی فوج میں تین سو حافظ۔ (۶) قرار بدھ نے قرآن یاد کر کے حضور کو سنا یا (۷) پورا قرآن لکھ کر حضور کو سنا یا گیا۔

(۸) حضور نے قرآن کے آخری دو ختم بوجوہ گی زید اور عبد اللہ بن مسعود کیا تھا (۹) زید نے اپنا لکھا ہوا قرآن اسی آخری ختم کے وقت سنا یا تھا (۱۰) موجودہ قرآن اسی آخری ختم کی ترتیب ہے۔

(۱۱) ان روایتوں کی تتفیع جن سے شبہ کا موقع ملتا ہے۔

جناب مولانا نے ان عنوانات پر حضرت مؤلف کی بحث کو دلیق نظر سے پڑھا اور انکی ثذف نکالی کے قالی ہوئے۔ جناب مؤلف نے ان حقائق کو سامنے رکھا ہے جو قطعی اور لقینی ہیں اور ان تمام شکوہ شبہات کا انداز کر دیا ہے جو بعض اخبار آحاد کی وجہ سے وارد ہو رہے تھے، اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عنایت کرے۔

فَآخِرُ دُخُولِنَا إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

ابوالحسن زید فاروقی

درگاہ حضرت شاہ ابوالخیر، شاہ ابوالخیر مارگ، دہلی ۶

جمعہ ۲۴ ربیعہ سال ۱۴۰۲ھ / ۲۱ مئی ۱۹۸۲ء

مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی تحریر

تمہرم مصنف کو اسلامی علوم پر ایسا عبور ہے کہ عالمِ اسلام کے علماء جدید بھی شاید نہ سمجھتے ہوں۔ اس رسالے میں انہوں نے قرآن عزیز کی تاریخی بحث علمی عدالتِ عالیہ میں اس انداز سے اٹھائی ہے جس طرح ایک باصلاحیت و کیل مخالف فرقی کے ناپاک ارادوں پر دار کرے اور اس کے پروفیسیونلز کے ہر پیچیدہ موڑ پر سخت گرفت کرے اور اپنے مقدمہ کی تکمیل میں کوئی کسر نہ چھوڑے۔

اشتباه رکھتی روایات کے پس پر دہ جو پس منظر ہے مصنف کی اس پر گہری نظر ہے۔ اس بحث کو دیکھ کر محسوس ہوتا ہے کہ مخفف کا دماغِ علم و دانش کا مخزن ہے۔ کتاب کے اندازِ تکمیل سے یہ نکتہ بھی صاف صاف نمایاں ہے کہ وہ مہینوں لگا آراس عنوان پر عمیق مطالعہ کے ساتھ ساتھ مطہر کرتے رہے ہیں۔ اس تمام عرصہ میں اُن کی زندگی کی کوئی صبح یا شام ایسی نہیں گزری ہوگی جس پر انہوں نے اس مسئلہ کی مثبت اور منفی پہلو پر فہم و تدبیر کے ساتھ نہ سوچا ہو۔ اُن کے قلم سے کامنڈ پر سیاہی نہیں گرتی جو پھیلے اور بڑی جگہ گھیرے اور ذوقِ سلیم پر گرانی کا باعث بنے۔ یہاں اُن کے قلم کی نوک احتیاط کا دامن تھام کر احتیاط سے صحیح صحیح واقعہ نگاری کرتی ہے۔ کیونکہ مصنف نے عنوانات اہم مقرر کئے ہیں جن سے یہ امرِ خوبی روشن ہو گیا ہے کہ وہ روشن دماغ ہی نہیں روشن ضمیر بھی ہیں، لہذا ضربِ دہیں لگاتے ہیں جہاں نشیب ہے۔

بہر حال اس رسالے میں جو حاجات ہیں وہ سب مستند کتابوں کے ہیں۔ ہر موضوع کے تحت کار آمد گرا اختصار کے ساتھ تقریباً سمجھی سیمیٹ لئے ہیں اور کوئی بات غیر ضروری نہیں۔ ایک ایک طریقہ دے رہی ہے کہ جو کچھ پیش کیا گیا ہے لیمان دا لازم طور پر پیش کیا گیا ہے۔

تَارِيخُ الْقُرْآن



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ

تمہید

قرآن کی تدوین اور ترتیب کے متعلق قدما رکی کوئی تصنیف میری نظر سے نہیں گذری۔ البته بعد کے حضرات نے اس کے متعلق جو کچھ لکھا ہے ان تحریر دل کو بس نے بغور دیکھا یہیں ان سے اُن شکوک اور خیالات کا ازالہ نہیں ہوتا جن کے ازالہ کے لئے یہ تخلیف اٹھائی گئی۔ ممکن ہو کہ پہلے حضرات نے یا بعد میں کسی نے کوئی ایسی تحریر لکھی ہو جو تشقی بخش ہوا اور جس سے اُن تام شہرات کا ازالہ ہو جاتا ہو جو بعض احادیث صحیحہ کی بنابر خود خود پیدا ہوتے ہیں یا ان کا پیدا ہونا لازمی ہے یا مخالفین ان کو پیش کرتے ہیں مگر چونکہ ایسی کوئی تحریر میری نظر سے نہیں گزری اس لئے مجھے اس کی ضرورت محسوس ہوئی کہ قرآن کے متعلق واقعات کو ظاہر کر دوں۔ جو احادیث اور آثار قرآن کی تالیف دغیرہ کے متعلق ہیں اُن سے جو خیالات اور شہرات پیدا ہوتے ہیں وہ یہ ہیں :-

- (۱) قرآن آنحضرت کی زندگی میں یکجا لکھا ہوا نہیں تھا۔ آپ کے بعد غلیقہ اول نے ایک جا کر دیا۔
- (۲) انجیل اور قرآن دونوں اس امر میں یکساں ہیں کہ آنحضرت اور حضرت مسیح کے بعد کے لوگوں نے انھیں مرتب اور جمع کیا۔
- (۳) دوچار صحابہ کے سوا کوئی پورے قرآن کا حافظ حضرت کی زندگی میں نہیں تھا۔
- (۴) قرآن کا بہت بڑا حصہ تلف ہو گیا یا کردیا گیا کیونکہ قرآن سات حروف پر نازل ہوا اور قرآن موجودہ میں ایک ہی حرف ہے۔
- (۵) قرآن کی بعض سورتیں بہت بڑی تھیں یہیں لیکن وہ مختصر کر دی گئیں۔
- (۶) بعض سورتیں قرآن سے نکال دی گئیں۔
- (۷) قرآن جس طریقے سے جمع کیا گیا اس میں بہت زیادہ یہ خال ہو سکتا ہے کہ قرآن کا کوئی حصہ

لکھنے سے رہ گیا ہو۔ چنانچہ خلیفہ اول کے عہد میں بعض آیتیں لکھنے سے رہ گئی تھیں پھر خلیفہ سوم کے وقت میں لکھی گئیں۔

(۸) قرآن کے آخر کی دوسری میں حضرت عبداللہ ابن مسعود کے نزدیک قرآن میں داخل نہیں لہذا ان کا قرآن سے ہونا یقینی نہیں۔

(۹) قرآن کی یہ موجودہ ترتیب ایسی نہیں جس پر تمام کا اتفاق ہو کر زندگ حضرت ابی ابن کعب حضرت علی اور حضرت ابن مسعود (رضی اللہ عنہم) وغیرہ کے قرآن کی ترتیب اس کے خلاف تھی۔

ان شبہات کے اٹھانے کے لئے اس وقت تک جو کتاب میں شائع ہوئی ہے ان تمام میں اس مر کے ثابت کرنے کی پوری کوشش کی گئی ہے کہ قرآن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں مرتب لکھا گیا تھا اور اس وقت بہت سے ایسے لوگ موجود تھے جن کو پورا قرآن یاد تھا۔

غاباً ان حضرات کے خیال میں ان شبہات کے اٹھانے کی صرف ایک یہی صورت تھی اور بغیر اس کے ان شبہات کا اٹھانا ممکن نہیں تھا۔ لیکن یہ خیال کسی طرح بھی صحیح نہیں ہے کیونکہ اگر ہمارے پاس ایسی شہادتیں بھی موجود ہوں جس سے پورے قرآن کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں لکھا جانا معلوم ہو یادو چار کے سوا بہت سے حفاظ قرآن کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں موجود ہونا ظاہر ہوتا ہو۔ اور اسی کے ساتھ تمام وہ شبہات میں جن کی وجہ سے یہ شبہات ہوتے ہیں معتبر گواہوں کی ہوں تو ایسی حالت میں بھی قرآن میں اس قسم کے شبہات کی کنجائش ناممکن ہے۔ یہاں اس بات کا معلوم کر لینا ضروری ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جن حضرات نے خود جن باتوں کو بلا واسطہ نہیں ہے یا آپ کو کرتے ہوئے دیکھا ہے ان حضرات کے نزدیک ان امور کا خبوت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا یقینی ہے جس میں کسی قسم کے شک و شبہ کی کنجائش نہیں۔ یہ حضرات ان باتوں سے اگر کسی ایک امر کا بھی انکار کریں گے تو ان کا یہ انکار اُن کو حدودِ اسلام سے باہر کر دے گا۔ البتہ حضرات اس شرف سے محروم ہیں ان کے لئے ثبوت کی تین صورتیں ہیں :

(۱۰) تواتر۔ اس تدریگواہ نہ ہوں کے بیان سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا یا کرنا ثابت ہو جس کے بعد کسی قسم کا شک و شبہ باقی نہ رہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اُس کا ثبوت متيقّن اور قطعی ہو جائے۔

(۱۱) آحاد۔ اس تدریگواہ نہ ہوں بلکہ دو ایک گواہوں سے ثابت ہو اور ظاہر ہے کہ ایسے امور یقینی اور قطعی الثبوت نہیں ہو سکتے بلکہ اس میں شک و شبہ کا موقع ہو سکتا ہے۔

(۱۲) توارث و تعامل عامہ۔ یعنی دفعہ و قول اس قسم کا ہو جس پر ہم نے تمام اپنے بڑوں کو

عمل کرتے ہوئے یا کہتے ہوئے بلا کسی اختلاف کے دیکھا یا مشنا ہوا دراہی طرح سے اُن حضرات نے اپنے پہلوں کو دیکھا ہر یا مشنا ہو یہاں تک کہ سلسلہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو جاؤ رہا س طریق سے ثابت ہیں وہ انور بھی اول ہی کی طرح قطعی اور یقینی ہیں۔

اسلام میں اس طریقے سے بہت سے امور ثابت ہیں۔ مثلًا پانچ وقت کی نماز۔ نمازوں میں کہت کی تعداد۔ ارکانِ حج۔ زکوٰۃ کے اركان و شرائط وغیرہ وغیرہ۔ ان چیزوں کا ثبوت گواہ احادیث سے بھی ہے لیکن ان احادیث پر ان کا ثبوت موقوف نہیں۔ اگر یہ احادیث نہ ہوتیں تو بھی ان کے ثبوت میں کوئی فرق نہ آتا۔ ہمارے اس بیان سے یہ ثابت ہو گیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جو امر پہلے اور دوسرے طریقوں میں سے ایک طریقے سے بھی ثابت ہو وہ قطعی اور یقینی ہے۔ تمام مسلمان بلا امتیاز اور استثناء اس امر پر مشق ہیں کہ قرآن کا سلسلہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک متواتر ہے۔ مسلمانوں میں جس قدر بھی فرقے ہیں ان میں سے ایک کو بھی اس سے اسکا نہیں بلکہ تمام مسلمانوں کا یہ سلمہ عقیدہ ہے اسی کے ساتھ حقیقت واقع بھی اسی طرح سے ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک قرآن کا سلسلہ متواتر ہے یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نے کراسن وفات تک ہر عہد میں قرآن کے آنحضرت سے راوی اور بیان کرنے والے اس قدر رہے ہیں جن کی وجہ سے اس کی صداقت پر ہر انسان مجبور ہو جاتا ہے اور اس امر کے باور کرنے کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں کریں گے بلکہ اور بیشی کے یہ دہی کتاب ہے جس کے متعلق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب الہی ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ یہاں تک کہ قرآن کا یہ تواتر اُس کاظرۃ امتیاز اور خاصتہ اور لازمہ ہو گیا۔ اسی لئے قرآن کی معرفت کی تقریب میں یہی وصف بیان کیا جاتا ہے۔ چنانچہ عامہ علماءِ اسلام قرآن کی تعریف اس طرح کرتے ہیں وہ کلام الہی جس کا سلسلہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک متواتر ہو۔ اس کے سوا قرآن کے متعلق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے توارث اور تعامل عامہ بھی ہے یعنی ہر عہد والوں نے اپنے قبل کے عہد والوں کو اسی قرآن کو پڑھتے ہوئے سنایا ہے۔ تک کہ سلسلہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو جاتا ہے۔ جس حالت میں کہ اس قرآن میں تواتر اُس توارث اور تعامل عامہ دونوں ہیں تو پھر اس قرآن کی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک مندا اور اس قرآن کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثبوت ان دو چیزوں سے زیادہ یقینی اور قطعی ہے جو محض متواتر ہیں یا محض متواتر ہیں۔

اس موقع پر اس امر کا بیان بھی ضروری خیال کرتے ہیں کہ واقعات کی دو قسمیں ہیں عمومی اور خصوصی۔

واقعات عمومی وہ ہیں جن کا ظہور منتظر عام پر اس طرح سے نمایاں ہو کہ اس کا علم بلا کسی

رکاوٹ کے بھرپور کو ممکن ہو۔ جس طرح شاہراہ کے چڑا ہے پرجکہ وہاں مجمع کشیر ہو کسی کے قتل کا وقوع یا مسجد جامع میں کسی واعظ کا بیان اس قسم کے واقعات کا ثبوت ایک دوسرے بیانات سے نہیں ہو سکتا تا اوقتیکا ایک جماعت کشیر اس کی شہادت نہ دے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر مطلع پاک صن ہو تو اس حالت میں ایک دوسری شہادت چاند کے متعلق ناکافی ہوتی ہے۔
واقعاتِ خصوصی وہ ہیں جو منظیر عام پر اس طرح نایاب نہ ہوں۔ اس قسم کے واقعات کے ثبوت میں دوسری شہادت بھی کافی ہے۔

قرآن کی تبلیغ چونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عام طور سے کی ہے اور خدا کی طرف سے آپ اسی کے لئے مامور بھی تھے۔ آپ قرآن اہل اسلام اور کفار تمام کے مجمع میں بلا تکلف نہ لے اور اس کی تعلیم دیتے اس لئے قرآن واقعاتِ عمومی سے ہے اور اسی وجہ سے اہل اسلام کے یہاں اس کے ثبوت میں جماعت کشیر کی شہادت ضروری ہے ایک دو شہادت کا اعتبار نہیں۔ اگر کسی آیت یا سورہ کے قرآن ہونے پر ایک دو شہادتیں ہوں تو ان شہادتوں کی وجہ سے یہ آیت یا سورۃ قرآن نہیں ہوگی۔

واقعات کی جائج پرتوں کے تنقیدی اصول

علماءِ اسلام نے واقعات کی تنقید کے لئے چند اصول مقرر کئے ہیں۔ ان کے یہ بھی اصول ہیں:

(۱) جن واقعات کا ثبوت تواتر یا توارث عامہ سے ہو ان کے خلاف میں ایک دو شہادتیں ہرگز قابلِ ثائق نہیں بلکہ اس قسم کی شہادتیں خود اپنی کمزوری کا ثبوت دیتی ہیں۔

(۲) واقعات عامہ کے ثبوت پر ایک دو شہادت ہوں تو وہ بھی کسی طرح وثائق کے لائق نہیں اور اس قسم کی شہادتیں مشتبہ ہیں۔ یہ تنقیدی اصول اس قسم کے نہیں ہیں کہ جو اہل اسلام ہی سے مخصوص ہوں بلکہ ہر عقلِ سلیم رکھنے والا شخص بھی ان اصول کے مانند پر فطرتًا مجبور ہے اور انھیں اصول سے ہمیشہ تنقید واقعات میں کام لیا جاتا ہے۔ اب ہم ان شبہات دشکوک کی جو قرآن پر بعض احادیث اور تاریخی بیانات کی بناء پر کئے جاتے ہیں ان اصول پر تنقید کرتے ہیں۔
ابھی ہم بیان کر چکے ہیں کہ قرآن کا سلسلہ آنحضرت تک متواتر ہے اور نیز تواریخ عامہ اور تعالیٰ بھی رکھتا ہے۔

جن احادیث کی بناء پر شبہات کئے جاتے ہیں اگر ان تمام حدیثوں کو صحت اور قبولیت میں اعلیٰ درج کی ماں بھی لیا جائے مگر یہ ضرور ہے کہ وہ متواتر نہیں ہیں۔ ان تنقیدی اصول سے نتیجہ ظاہر ہوا کہ یہ تمام احادیث چونکہ ایک امر متواتر کے خلاف ہیں اس لئے ہرگز اعتماد اور وثائق کے

لائق نہیں بلکہ ان کا امر متواتر کے مخالف ہونا خود ان کی کمزوری اور ضعف کی خہادت ہے۔ اس کے سوا بھی اُن احادیث سے قرآن کی ترتیب اور اس کی کمی بیشی ثابت نہیں کر سکتے۔ یعنی قرآن کے لئے ایک دو شہادت کافی نہیں تاً و فتیکہ تو اترنہ ہو کیونکہ قرآن واقعاتِ عامہ سے ہے اور اُنہاں نہیں تنقیدی اصول کی بنی پر متقدمین نے ان احادیث کے جواب دینے کی طرف توجہ نہیں فرمائی ہیں سے قرآن پر شبہات کئے جاتے ہیں۔ یہ امر نہایت واضح ہے کہ اہل اسلام نے احادیث اور قرآن موجودہ دونوں کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا اور ان دونوں کا سلسلہ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوتا ہے لیکن قرآن کے لینے کے ذریعے جس قد مضبوط اور مستحکم اور قیینی ہیں احادیث کا وہ درج نہیں ہے خواہ وہ حدیث کسی درج کی ہو بلکہ اگر زیارت تنقیح سے کام لیا جائے تو مجھے اس امر کے اقرار میں کچھ بھی باک نہیں کہ احادیث متواترہ کا بھی وہ درج نہیں جو قرآن کا ہے۔ اب ایسی حالت میں اُن احادیث سے جو قرآن موجودہ کی ترتیب (خواہ وہ آیات کی ہو یا سورتوں کی) اور قرآن کی مقدار اور اس کی تالیف کے مخالف ہیں کوئی اثر نہیں ہو سکتا بلکہ قرآن اپنی قوت اور مضبوطی کی وجہ سے خود ان احادیث ہی کو مجرد حج اور ضعیف کر دے گا جو حضرت احادیث کی وجہ سے قرآن پر شبہات کر کے اس کی توفیق کو متزلزل کرنا جاتا ہے ہیں اُن کو یقین کرنا چاہیئے کہ قرآن کا اسناد اور سلسلہ ایسا نہیں ہے جس میں اس قسم کی احادیث وغیرہ سے شک و شبه کی گنجائش ہو۔ پس تمام اُن احادیث کا جو قرآن کے مقابل ہیں۔ یہی ایک جواب ہے بلکہ یہی واقع ہے اور اس کے بعد کسی مسلم کو اس کی ضرورت باقی نہیں رہتی کہ اس قسم کی تمام احادیث پر کوئی تنقیدی نظر ڈالی جائے اور فرد افراد ایک حدیث کی صحت و سُقُم یا اُن کے معنی کا انٹھار کیا جائے۔ یا یہ ثابت کیا جائے کہ یہی موجودہ قرآن تمام وکمال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک عہد میں لکھا ہوا موجود تھا اور بہت کثیر تعداد ان صحابہ کی تھی جن کو پورا قرآن یاد تھا۔ مگر بعض مخالفین ان اصول کو نظر انداز کر کے بعض احادیث کی بنی پر قرآن کے متعلق شبہات پیدا کرتے ہیں اس لئے میں نے یہ ایک رسالہ لکھا ہے جس سے دلائل کی روشنی میں ناظرین کو ان حدیثوں کے متعلق تفصیلی کیفیت معلوم ہو جائے گی۔ کہ مخالفین جن حدیثوں کو قرآن شریف کے مقابلہ میں پیش کرتے ہیں کیا وہ قدر و قیمت رکھتی ہیں۔

اس رسالہ کی سطح قرآن شریف کی تدوین و ترتیب کے ثبوت میں کسی قدر بلند ہے۔ مجہڈ اس سے معلوم ہو سکتا ہے کہ اس کتاب میں مخالفین کے جو قوی سے قوی شہادات میں یا ہو سکتے ہیں، سب بیان کر دئے گئے ہیں اور موقعِ دلائل میں ناجائز حسن ظن اور عصیت سے دامن بحث کو یک قلم بچا یا گیا ہے۔ ہر اعتراض کو نہایت بے تعجبی سے صاف لفظوں میں تحریر کر کے اس کا جواب متعقاد

اصول پر اہل نقد اور صاحب بصیرت کے سامنے پیش کر دیا گیا ہے۔ ہر امر اور ہر خیال کی بنا ایسی ترقی دیلوں پر رہ گئی ہے جو کمزوریوں سے پاک ہے۔ تنقید عبارات اور تنقیح خیالات ایسے اصول کے ماتحت کی گئی ہیں جو علمی دنیا کا مسئلہ ہے۔

قرآن کی تدوین اور ترتیب کی بنا پر آغاز رسالہ میں تفصیل بحث کی گئی ہے۔ عرب میں کاغذ کا رواج کب سے ہوا اور عہدِ نبوی میں اس کا استعمال ہوتا تھا۔ لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ اور حلقہ بگوشانِ بارگاہِ رسالت میں ایسے خدام تھے مسلمانوں کو لکھنے پڑھنے کی تعلیم دی جاتی تھی اور بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تحریر کا کوئی خاص اہتمام کیا تھا یا قرآن کی حفاظت کے لئے کوئی خاص طریق آپ نے اختیار فرمایا تھا۔ تاریخی حیثیت اور احادیث صحیح سے اس طرح ثابت کر دیا گیا ہے جس کو متعدد سے منتعصب شخص بھی اگر انصاف کا دل لے کر تحقیق کی نظر سے دیکھے گا تو اس کا تحقیق طلب دلِ یقین کی روشنی سے منثور ہو جائے گا۔ المختصرۃ ترمذ الفین کے وہ خیالات اور شبہات جو ترتیب صدقیۃؐ کے متعلق پیش کرتے ہیں، خاری راہ بن کر ہمارے دامن بحث کو الجھا سکے۔ وہ تو ہمات یا وقوع اختراءات جو ترتیب مصحف عثمان رضیؐ کے متعلق مخالفین اسلام نہیات اہمیت دے کر پیش کرتے ہیں۔ ناقابل عبور دلدل بن کر ہمارے پائے استدلال کے اقسام روک سکے، بلکہ شبہات اور اختراءات کے جتنے بادل سامنے آتے گئے... دلائل و واقعات اور صحیح تحقیقات کے وزنی جھونکوں سے کائی کی طرح پھٹتے گئے اور یہ اچھی طرح ثابت ہو گیا کہ ہمارے مخالفین نے آج تک جو کچھ قرآن شریف کے مقابلے میں پیش کیا ہے وہ اس قابل نہیں ہیں کہ دلائل اور تحقیقات کی روشنی میں صحیح ثابت ہو سکیں۔ پس آخر میں ہم اپنے ان اجنب کے ہاتھوں میں جو اہل نقد اور صاحب بصیرت ہیں یہ کہتے ہوئے اس رسالہ کو نیتے ہیں کہ

تو نیز بربرِ امام آکر خوش تماشائے است

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
حَامِدًا وَمُصَلِّيًّا

مسلمانوں نے اپنی کتاب قرآن پاک کی ایسی حفاظت کی کہ مخالفین کو بھی مجبور کیا اور کرنا بڑا کام کر تمام مذاہب میں اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جس کا قانون یعنی آسمانی کتاب رسالت مآب کے مبارک عہد سے آج تک بلا کمی بیشی۔ اور رد و بدل سے محفوظ ہے اور آئندہ رہے گا کیوں کہ قرآن ہی ایک ایسی کتاب ہے جس کی حفاظت کا خدا تعالیٰ نے وعدہ فرمایا اور ذمہ دیا۔ بجز قرآن کوئی آسمانی کتاب ایسی نہیں جس کی حفاظت کا خدا تعالیٰ نے اپنے ذمہ دی ہو۔ اس وقت یہ کلام پاک جن الفاظ اور ترتیب سے ہمارے سامنے ہے اسی طرح بعدہ رسالت مآب کے مقدس عہد میں تھا۔ جن الفاظ اور ترتیب سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا وہی بدستور اس وقت تک ہیں۔ ہمارے اس بیان کی تصدیق کے لئے اس وقت کے مسلمانوں کی حالت بھی اگرچہ روشن اور کافی ثہادت ہے کیونکہ آج تیرہ صدی کے بعد چودھویں صدی میں جبکہ مسلمانوں میں وہ مذہبی جوش نہیں ہے جو ہر فرقے میں اپنی پیدائش کے وقت ابتدائیں فطری طور سے ہوا ہوا کرتا ہے اور وہ محرك بھی نہیں ہے جو اپنی بر قوت کی تاثیر سے ان کے دلوں میں اور خیالوں میں مذہبی روح اور حرکت پیدا کرتا ہے لیکن اس پر بھی آج مسلمانوں کی یہ حالت ہے کہ حفاظت قرآن اس کثرت سے ہیں کہ لاکھوں سے تجاوز ہو کر کروڑوں تک پہنچے ہیں اور مسلمانوں کی بہت کم ایسی آبادی ہو گی جہاں حفاظت نہ ہوں اور قرآن کے نسخوں سے تو نایبی کوئی نصیب اور منحوس گھر مسلمان کا خالی ہو۔ قرآن کا تھوڑا بہت روزانہ پڑھنا اور تلاوت کرنا ہر مسلمان اپنا فرض سمجھتا ہے اور اُن کے مذہب میں یہ داخل ہے کہ وہ روز مرہ کی عبادت میں سے پڑھیں اور رمضان میں تو یورا قرآن تراویح میں سننا اور پڑھنا اُن کے مذہب میں داخل ہے اسی لئے مسلمان اپنے بچوں کو قرآن یاد کرتے ہیں اور یہ بچتے کم و بیش اسے تین چار سال میں یاد کر لیتے ہیں۔

ایس میں شک نہیں کہ پیغمبر اسلام اور ان کے ساتھیوں میں اپنے مذہب کی محبت اور جوش اور ان کے دل، دماغ، خیال، رُگ پٹھوں میں ان کے جدید مذہب کا جواہر ہو گا وہ ان کے بعد والوں میں ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اگر تمہارے دل میں اس ہمارے بیان کے باور کرنے میں تاریخی کا کوئی پردہ مانع ہو تو اس کے روشن کرنے کے لئے ہر جدید فرقے کے اول لوگوں کی حالت کو دیکھو اور تابعوں میں اس کا مطالعہ کرو۔ اس کے سوابھی پیغمبر اسلام اور ان کے ساتھیوں کی حالت بھی ہمارے اس بیان کے لئے مضبوط گواہ ہے۔ اب اس وقت کا نہ بھی اثر جوش، ذوق، شوق اور دلولہ اور ابتدائے اسلام کے اثر کو تو نو اور اس کے بعد انصاف سے اپنے دل میں سوچو کر قرآن کے حفاظت کی جو تعداد اس وقت کے مسلمانوں میں ہے اس وقت مسلمانوں میں ان کی تعداد کی رو سے یہ حفاظت زیادہ ہوں گے یا کم۔ اسی کے ساتھ یہ بھی خیال کرو کہ قرآن تیسیں سال میں پورا ہوا۔ اس وقت کے یاد کرنے والوں کو تیس سال کی مدت تھی اور ان کا حافظہ بھی اور ملکوں کے لوگوں سے فطرتیاً فوی تھا۔ جس کی وجہ سے اتنی طویل مدت میں اُنھیں اس کا یاد کرنا اور لکھنا ہی ایسا نہیں آسان تھا۔ بلا قصد بھی اس قدر مدت میں اس سرزین کے لوگوں کو اس کا یاد ہونا ممکن تھا۔ چنانچہ ولیم میور سیرت محمدی میں لکھتے ہیں۔ قوت حافظ اُن کی انتہائی درجہ پر تھی اور اس کو وہ لوگ قرآن کی نسبت کمال سرگرمی سے کام میں لاتے تھے۔ اُن کا حافظہ ایسا مفسُوط تھا اور اُن کی محنت ایسی قوی تھی کہ جب روایات قدیم اکثر اصحاب پیغمبر کی حیات میں بڑی صحت کے ساتھ تمام وحی کو حفظ پڑھ سکتے تھے (الفروقات صفحہ ۲۹)

إن واقعات سے اگرچہ یہ بات یقیناً ثابت ہے کہ کتابوں کی حفاظت کے جو زرائع اور اسباب میں یعنی سینہ اور سفینہ، ان دونوں طریقوں سے پہلوں نے بھی قرآن کی حفاظت کی جب کہ اس وقت بھی ان دونوں طریقوں سے حفاظت ہے۔ لیکن بعض روایتوں سے چونکہ ان لوگوں کے اس خیال کی تائید ہوتی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن پورا مرتب رسول خدا کے مقدس زمانہ میں لکھا ہوا نہ تھا اور صحابہ میں دوچار کے سوا کوئی پورے قرآن کا حافظہ نہ تھا۔ اس لئے میں پہلے یہاں ثابت کروں گا کہ (۱) آپ کے عمد میں پورا قرآن لکھا گیا اور متعبد نسخے لکھے ہوئے تھے۔ (۲) جو ترتیب قرآن کی اس وقت ہے یہ وہی ہے جو رسول خدا نے قائم فرمائی۔ (۳) صحابہ کرام میں حفاظ قرآن بہت تھے۔ (۴) اس کے بعد وہ روایات لکھوں گا جن میں قرآن کے جمع کا ذکر ہے۔ (۵) اور جن روایات میں لوگوں کو شبہ ہوا ہے اُن روایات کی درایت اور روایت اور واقعات کی رو سے بھی ایسی تتفییع اور تحقیق کی جائے گی جس سے ان شبہات کا ازالہ ہو جائے اور اصل امر روشنی میں آجائے۔ اس سے اسکا نہیں ہو سکتا کہ قرآن مقدس مسلمانوں کا دستور العمل ہے جس کی

طرف ایک نیقہ اور رادنی مسلمان کو سبی اسی قدر احتیاج ہے جس قدر کہ امیر اور اعلیٰ کو ہے۔ تمام مسلمان اپنی عبادتوں اور معاملوں اور بامی میں جو اور اخلاق و سلوک میں یکساں محتاج ہیں اور مسلمان اپنے مذہب کے قائم رکھنے اور مذہبی زندگی کے بسرا کرنے میں قرآن ہی کے محتاج ہیں اور قرآن ہی اُن کے مذہب کی روح ہے اور یہی اسلام کی صداقت کی اعلیٰ اور کامل دلیل ہے اسی لئے رسولؐ خدا نے صرف قرآن ہی سے اشاعتِ اسلام فرمائی۔ یہ وہ بات ہے جس کا ہر مسلمان کو اقرار ہے اور اُن کا مذہب اور مسلمانوں کا طرزِ عمل اس پر گواہ ہے۔ اب اس احتیاج اور ضرورت کی وجہ سے مسلمانوں پر یہ لازمی تھا کہ وہ قرآن کی پوری حفاظت کریں۔ اور یہ ظاہر ہے کہ کسی کتاب کی حفاظت کا ذریعہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ نہایت اہم سے اور کالِ صحت سے لکھا کر محفوظ رکھی جائے۔ یہ ذریعہ ایسا نہیں جس کو ہر ایک شخص تھا ہو۔ اب جب یہ معلوم ہو گیا کہ قرآن کی حفاظت کی مسلمانوں کو بلے انتہا حاجت تھی اور کامل و ثائق حفاظت میں لکھوانے اور یاد کرنے کے سوا نہیں تھا۔ اسی کے ساتھ یہ بھی ضروری تھا کہ متعدد نقلیں متعدد مقامات پر رہیں جن میں تغیر و تبدل اور فدائُ ہونے کا دھرم بھی نہ رہے۔ کیا ان واقعات سے یہ فیصلہ سہل اور یقینی نہیں کہ حضور اقدس اور صحابہ نے حفاظتِ قرآن کے لئے اس کو نہایت اہم اور صحت کے ساتھ لکھوا یا ہو۔ خصوصاً ایسی حالت میں جبکہ کتب سابق کی تحریف و تغیر کا نمونہ بھی اُن کے سامنے موجود تھا۔ اس لئے بھی قرآن کے لکھوالي کی اُن کو اور زیادہ ضرورت محسوس ہوئی۔ اور کوئی امر بھی ایسا نہ تھا جس کی وجہ سے لکھوا یا نہ جانا بالکھوا نادشوار ہوتا۔ کیونکہ آپ کے عہد میں بہت لوگ صحابہ میں ایسے تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے جن میں سے اکتا لیسے کے نام جو تاریخ سے ہمیں معلوم ہوئے ہیں، ہم یہاں لکھتے ہیں:

- (۱) حنظله بن ربيع (۲) عمرو بن رافع (۳) رافع بن مالک (۴) سعد بن عبادہ (۵) اسید بن حضیر (۶) منذر بن عمر (۷) اوس بن خولی (۸) عبداللہ بن زید (۹) شہر بن سعد (۱۰)
- عبداللہ بن رواحہ (۱۱) سعد بن الرزیع (۱۲) ابو عبس بن جبر (۱۳) عبد الرحمن (۱۴) ابو یوسف مولیٰ عائشہ (۱۵) عبد الرحمن بن حربن عمرو بن زید (۱۶) عبداللہ بن سعید بن العاص (۱۷) نافع بن طریب بن عمرو بن نوفل (۱۸) ناجیۃ الطفاوی (۱۹) ابی بن کعب (۲۰) زید بن ثابت (۲۱) عبداللہ بن سعد بن ابی سرح (۲۲) ابو بکر (۲۳) عمر (۲۴) عثمان (۲۵) علی (۲۶) زبیر بن العوام (۲۷) خالد بن سعید بن العاص (۲۸) ابان (۲۹) سعد بن العاص (۳۰) حنظله الاسدی (۳۱) علاء بن الحضری (۳۲) خالد بن ولید (۳۳) محمد بن سلمہ (۳۴) عبداللہ بن عبد اللہ بن ابی سلوی (۳۵) مفیرہ بن شعبہ (۳۶) عمرو بن العاص (۳۷) معاویۃ بن ابی سفیان (۳۸) جہیم بن الصملت (۳۹) معیقیب بن فاطمہ

(۲۰) عبد اللہ بن ارقم زہری (۳۱) شرجیل بن حسن۔

ان میں انصار اور ہمارین دونوں ہیں اور بعض ایسے بھی ہیں جو اسلام کے پہلے سے لکھا ڈھنا جانتے تھے۔ مورخین اس میں مختلف ہیں کہ عرب میں کتابت اور خطاطی کافن کس سے شروع ہوا۔ بعض کی رائے میں حضرت ایوب علیہ السلام کے وقت میں عرب میں یہ فن تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے عہد سے شروع ہوا۔ بہر حال اس میں شک نہیں کہ اسلام کے کچھ قبل سے عرب میں اس کاررواج ہو گیا تھا اور جناب سرورِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عہد میں اس کو بہت ترقی دی۔ پدر کی جنگ میں جو شر آدمی کفار مکہ سے مسلمانوں نے گرفتار کئے تھے ان میں جس کے پاس اس قدر مال نہ تھا کہ اپنی رہائی کے لئے فدیہ ادا کرتا اُس کی رہائی کا یہ فدیہ مقرر کیا گیا کہ ان میں سے ہر ایک اہل مدینہ کے لڑکوں میں سے دشمن لڑکوں کو لکھنا سکھلانیں۔۔۔ چنانچہ زید بن ثابت نے بھی اسی طور سے لکھنا سیکھا۔

أَسْرَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ بَذِيرَةِ سَبْعِينَ أَسِيْرًا وَكَانَ يُفَادِي بِهِمْ
عَلَى قَدْرِ أَمْوَالِهِمْ وَكَانَ أَهْلُ مَكَّةَ يَكْتُبُونَ وَأَهْلُ الْمَدِينَةِ لَا يَكْتُبُونَ قَسْنَ لَهُ يَكْنُ لَهُ
فِدَاءً وَدُفْعَةً إِلَيْهِ عَشْرَةُ غُلَامٍ مِنْ غُلَامِ الْمَدِينَةِ فَعَلَمَهُمْ فَإِذَا حَذَّ قُوَّا فَهُوَ فَدَاءُهُ
فَكَانَ زَيْدٌ بْنُ ثَابِتٍ مِنْ ثَابِتٍ مِنْ عِلْمَ حَتَّىٰ إِنْ كَانَ الرَّجُلُ مُبِينٌ الْخَطَافُودِيُّ عَلَىٰ أَنْ تُعْلَمَ
تَرْجِمَةٌ: غزوہ بدر میں شر آدمی کفار کے گرفتار ہوئے جن سے بقدر حیثیت خرچ جنگ لے کر رہا
کیا گیا۔ مگر والے چونکہ لکھنا جانتے تھے اور اہل مدینہ اس سے ناواقف تھے اس لئے ان گرفتاروں میں
سے جس کے پاس مال نہ تھا اس کی رہائی کے لئے یہ مقرر کیا گیا کہ وہ مدینہ کے دس لڑکوں کو قلعیم دے۔
پس ایسے لوگوں نے تعلیم دنیا شروع کیا اور جب لڑکے خوب واقف ہو گئے تو وہ چھوڑ دیتے چکتے...
چنانچہ انھیں لڑکوں میں زید بھی تھے۔ الغرض قیدیوں میں گر خوش نویں تھا ان سے مشق خٹکرائی گئی۔
(طبقات ابن سعد قسم اول ج ۲ ص ۱۵)

یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ والے لکھنا جانتے تھے اور ان میں اس کاررواج تھا جناب سرورِ
کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس طرف خاص توجہ تھی کہ مسلمان اس میں ماہر ہوں۔ چنانچہ آپ نے
مدینہ میں عبد اللہ بن سعید بن العاص کو جو خوشنویں تھے اس کام پر مقرر کیا کہ وہ لڑکوں کو لکھنے کی
تعلیم دیا کریں۔ ان واقعات سے ثابت ہوتا ہے کہ عہدِ مبارک میں لکھنے والے تھے۔ البتہ یہ امر بحث
طلب ہے کہ اُس وقت لکھنے کے لئے بھی وہاں کوئی شے تھی یا نہیں کیونکہ کاغذ کا اُس وقت ہاں
رواج نہ تھا بلکہ اس کاررواج فضل بن تیجی بزرگی نے عرب میں دیا۔ جیسا کہ مقدمہ ابن خلدون کے

۳۵۲ میں ہے۔ فَأَشَارَ الْفَضْلُ بْنُ عَبْدِ الصَّابِرِ إِلَيْهِ صَنَاعَةِ الْكَاهِنِ وَصَنَعَهُ اور بعض کی رائے ہے کہ حجاج بن یوسف نے اُسے رواج دیا۔

فہرست ابن ندیم میں ہے

فَأَمَّا الْوَسَاقُ الْخَرَاسَانِيُّ فَيُبَعْلُّ مِنَ الْكِتَابِ يُقَالُ إِنَّهُ حَدَّثَ فِي أَيَّامِ بَنِي أُمَّيَّةَ وَقِيلَ فِي الدَّوْلَةِ الْعَتَاسِيَّةِ وَقِيلَ إِنَّهُ قَدِيمُ الْعَلَى وَقِيلَ إِنَّهُ حَدِيثٌ وَقِيلَ إِنَّ صَنَاعَةَ مِنَ الصَّابِرِ عَمِلُوهُ بِخَرَاسَانَ عَلَى الْمِشَالِ الْوَرَقِ الْصَّابِرِيِّ۔

ترجمہ:- خراسانی کا غذ کتاب یعنی روئی سے بنایا جاتا تھا جو بنو امیر یا عباسیہ کے عہد میں بنایا گیا بعض کہتے ہیں قدیم سے جلا آتا ہے بعض کے نزدیک اس کا رواج قدیم سے نہ تھا یا ایک چینی شخص نے اول خراسان میں چینی کا غذ کی طرح بنایا تھا۔

یکن فضل یا حجاج کے قبل اگر کاغذ کا رواج نہیں تھا تو اس کے یعنی نہیں کہ کوئی شے بجائے کاغذ کے ایسی جس پر لکھا جاسکے ان میں نہ تھی۔ یہ خیال ایسا غلط ہے کہ اس کی غلطی کے لئے کسی خارجی گواہی کی ضرورت نہیں۔ جو شخص عرب کی حالت سے واقف ہے وہ اپنے خیال و ذہن میں خطرے کے طور سے بھی اس کو جگہ نہیں دے سکتا کہ عرب میں لکھنے کی کوئی شے نہیں تھی۔ کیا عرب کے لوگ لکھنا نہیں جانتے تھے۔ باہم معابرے، خطوط، کتابیں نہیں لکھتے تھے۔ ...

رسالت مأب صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر خطوط لکھ کر روانہ فرمائے۔ صاحب مقاصح الافکار نے آپ کے خطوط سے چھتیں خطوط لفظ کئے ہیں۔ حدیثیہ میں صلح نامہ لکھا ہے۔ اہل کترے ایک معابرہ لکھ کر بیت الشیریں لٹکایا سب سعہ معلقہ لکھوا کر خانہ بعبہ پر لٹکایا گا۔ توریت انہیں لکھی ہوئی ان میں موجود تھی۔ اب اگر کوئی شے بجائے کاغذ ان میں نہ تھی تو یہ لکھنا پڑھنا کس طرح تھا۔ اصل یہ ہے کہ اس وقت میں کاغذ کی جگہ دوچیزوں میں متصل تھیں۔ عام طور سے تو جلد استعمال کرتے تھے جو کاغذ کی طرح بنائے جاتے تھے اور اس کو رق کہتے تھے۔ چنانچہ قرآن میں بھی یہ لفظ ہے۔ اس کے بعد مخصوص مقامات میں حریر پر لکھتے تھے جسے مهرق کہتے ہیں۔

لسان العرب میں ہے۔ الْمَهْرَقُ الصَّحِيفَةُ الْبَيْضَاءُ مَا يُكْتَبُ فِيهَا وَقِيلَ ثُوبُ حَرِيرٍ أَبْيَضٌ يُسْكَنُ الصَّمْعُ وَيُصْقَلُ ثُوبٌ يُكْتَبُ فِيهِ الرَّقُّ بِالْفَهْرُ مَا يُكْتَبُ فِيهِ وَهُوَ حَلْدَةٌ رَّقِيقٌ وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى فِي رَقٍ مَّنْشُورٍ۔ مقدمہ ابن خلدون میں ہے۔ وَكَانَتِ التِّبْعَلَاتُ أَوْ الْإِنْتَسَاجُ الْعُلُومُ وَكُتُبُ الرَّوْسَلَى السُّلْطَانِيَّةُ وَالْإِقْطَاعَاتُ وَالصُّلُوحُ

فِي الرِّوْقَى الْمُهِيَاةِ بِالصَّنَاعَةِ مِنَ الْجِلْدِ لِكَثِرَةِ الرِّقَةِ وَقَلَّةِ التَّالِيفِ صَدْرَ الْمَسْلَةِ
فَاقْتَصَرَ وَأَعْلَى الْكِتَابِ فِي الرِّقِ تَشْرِيفًا لِلْمَكْتُوبَاتِ وَمِيلًا بِهَا إِلَى الصِّحَّةِ وَالْإِنْقَانِ
اَنْتَهَى مُلْكَخَصًا مَلْكَهٌ يُعْنِي پَلْيَه زَمَانِ خَطْرُوط، فَيَصِلُهُ فَرَانُ اُورُعُومُ وَغَيْرُه بَارِيكِ جَلْدِرِ لَكْهَتَهُ تَهَهَ.
اوَرِيَه جَلْدِ خَاصِ اَسِي كَامِ كَهَهَ تِيَارِ رِهْتِي تَهِيَسِ، كِيُونِكَاسِ دَقَتِ تَصْنِيفِ وَغَيْرُه زَيَادَه نَتْهَى اَسِي لَهَهَ
اَنِ مِنْ اَسِي كَازِيَادَه اَهْتَامِ اُورِاسِ كَيِ وَقَتِ تَهِيَجِسِ كَيِ وَجَهِ سِهَه اَوَسِي كَيِ صَحَّتِ اوَرِاسِخَاظِ كَاهِه
بَهْتِ خِيَالِ رَكْهَتَهُ تَهَهَ»

صِنَاجَةُ الْطَّرَبِ مِنْ فَاضِلِ نُوفِلِ سِيجِي لَكْهَتَهُ هِيَسِ. وَقَالَ الزَّوْزِنِ اَنْهُمْ كَانُوا يَأْخُذُونَ
الْخَرْقَةَ وَرَطْلُونَهَهَا يَشَهِي فَمُرِي صَلْوَتَهَهَا وَيَكْتُبُونَ عَلَيْهَا دِيْسُمُونَهَا الْمَهْرَقِ يُعْنِي زَوْزِنِي
نَهَهَ كَهَا هَهَ كَاهِلِ عَربِ پَهْلَهِ اِيَهِ كَهِرِهِ كَهِرِهِ پَرِ لَكْهَا كَهَهَ تَهَهَ بَهَهَ دَهَهَ رَوْغَنِ دَهَهَ كَهِرِهِ
تَهَهَ اوَرِاسِ كَوْهِرِقِ كَهَهَتَهُ تَهَهَ. پَهْرِ فَاضِلِ مُوصَفِ اَسِي مَقَامِ پَرِ لَكْهَتَهُ هِيَسِ. لَهُمْ كُنْ عَنْهُمْ اَدَدَهَ
تَصْلِيمُ لِلِّكِتَابَةِ يُعْنِي عَربُونِ مِنْ اِلِيَّ شَهِي نَتْهَى جَنِ پَرِ لَكْهَا جَاتَاً. اوَرِ اَپَنِي اَسِي دَعَوَهَ کَيِ شَهَادَتِ
مِنْ زَيَدِ بْنِ ثَابَتِ کَيِ جَمِعِ قَرْآنِ کَوِيِشِ کَيَا هَهَ کَرِزَيدِنِي خَلِيقَ اَوْلَى کَيِ عَهْدِ مِنْ قَرْآنِ کَوِيِشِ کَيِ
مَكْرُونِ اوَرِ بَحْرُوكِ کَيِ پَتَوَنِ سَهَهَ نَقْلِ کَيَا. خَيْرِ زَيَدِ کَيِ اَسِي وَاقَعَهُ کَيِ تَفْصِيلِ توَابَنِهِ مَقَامِ پَرِ کَيِ جَائِيَ
لِيَکِنْ فَاضِلِ مُوصَفِ سَهَهَهِمِيْنِ تَعْجِبَهُهَهَ کَيِهَا انِ روْشَنِ اوَرِصِحَّ وَاقِعَاتِ کَوِيِچُوزِ کَرِيَکِ
اِيَهِ وَاقَعَهُ سَهَهَ کَيِوںِ اَسْتَدَالِ کَيِا جَوِ خَلَافِ تَحْقِيقِ سَهَهَ کَيِ اوَرِسِلَانِ بَھِي اَسِي غَلَطِ سَهَهَتَهُ هِيَ. کِيِ
فَاضِلِ مُوصَفِ کَوِ مَعْلُومِ نَهِيَسِ کَوِيِشِ بِرِسَالَمِ کَيِ عَهْدِ مِنْ لَكْهَتَهُ کَا بَهْتِ پَجَهِ رَوَاجِ هُوَگِيَا تَهَا اوَرِ
اَسِ صَنْعَتِ کَوِ اَسِ حَقِيقَى مَصَلَحِ نَهِيَتِ تَرْقِي دَهِي اَوَرِ بَاهِمِ مَرَاسِلَاتِ اوَرِمَعاَدَاتِ وَغَيْرِهِ
کَا كَاتِبَتِ کَيِ ذَرِيَهِ سَهَهَ رَوَاجِ تَهَا جَسِ سَهَهَ مَعْلُومِ ہَوَتَهُهَ کَيِ اَدَوَاتِ كَاتِبَتِ اَسِ دَقَتِ بَھِي
مَعْدُومِ نَهِيَهُ. بَلَكِ اَسِ دَقَتِ کَيِ ضَرُورَتِ کَيِ موَافِقِ اَمِيْنِ کَا سَامَانِ اَنِ مِنْ تَهَا. فَاضِلِ مُوصَفِ
پَهْرِ لَكْهَتَهُ هِيَسِ. لَهُمْ تَعْرِفُ الْعَرَبُ فَرَاطِيْسِ الِّكِتَابَةِ اَلَّا مُنْذُ اَسْتَعْلَمَهُ الْجَاجُجُ فَهُوَ
اَوْلُ مِنْ كَتَبِ قِيَمَهَا «يُعْنِي عَربِ نَهِيَتِ حَجَاجِ نَهِيَتِ اَوْلَى قَرَطَاسِ کَا اَسْتَعْمَالِ کَيَا. اَسِ کَيِ پَهْلَهِ
عَربِ قَرَطَاسِ کَوِ جَانَتِ بَھِي نَهِيَهُ» فَاضِلِ مُوصَفِ کَيِ اَسِ بِيَانِ سَهَهَ بَهَهَ تَعْجِبَ کَيِ کَوَنِي
اَنْتَهَانِبِينِ رِهْتِي اوَرِبِهِمِ حِيرَتِ هَهَ کَيِ مَحْقَقِ فَاضِلِ کَيِ قَلْمَنِ نَهِيَ کِيُونِکِ اَسِ کَيِ لَكْهَتَهُ کَيِ
جَرَأَتِ کَيِ. هَمِ نَهِيَسِ سَهَهَتَهُ کَهَهَ اَسِ قَرَطَاسِ کَيِ مَعْنِي فَاضِلِ عِيسَويِ کَيَا لِيَتِ هِيَسِ جَسِ کَيِ اَبْتَدِ اَجَاجِ
کَيِ دَقَتِ سَهَهَ ہَوَنِي. اَهِلِ عَربِ کَيِ نَزَدِيَکِ تَوْجِسِ پَرِ لَكْهَا جَاءَهُ اَوَرِ وَهُهُ اَسِ قَابِلِ ہُوَ اَسِ
قَرَطَاسِ کَهَهَتَهُ هِيَنِ خَوَاهِ دَهِ کَپَرا ہُوَيَا چَمَرَهِ یَا كَاغَذِ. غَرَضِ یَهَهَ کَهَهَ شَهِي جَسِ پَرِ لَكْهَا جَاءَکِ.
اَقْرَبُ الْمَوَارِدِ مِنْ هَهَ کَهِيْسِ. الْقَرَطَاسُ الصَّحِيقَةُ الَّتِي يُكَتَبُ فِيهَا.

لسان المیزان میں ہے۔ **الْقُرْطَاسُ طَامِنٌ الصَّحِيفَةُ الثَّابِتُ الَّتِي يُكْتَبُ فِيهَا**۔ اس کے سوا قرطاس کا لفظ جبکہ خود قرآن میں ہے اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت قرطاس کا استعمال تھا۔ قرآن میں ہے۔ **وَلَوْنَزَلَنَا عَلَيْنَا كِتَابًا فِي قُرْطَاسٍ**۔ دوسری جگہ ہے۔ یہ جعلونہ قراطیس۔ اگرچہ قرطاس کا ابتدائے اسلام میں نہ ہونا ہمارے اس بیان کی کہ ادوات کتابت اُس عہد میں تھے کچھ مخالف نہیں۔ کیونکہ واقعات سے یہ امر معلوم ہو گیا کہ اس وقت میں ادوات کتابت تھے اور ان کا استعمال کیا جاتا تھا۔ مگر چونکہ اس سے فاضل موصوف کی اندر ورنی جذبات پر جن کو وہ تاریخی لباس میں ظاہر کرتا ہے کافی روشنی پڑتی ہے اور آئندہ اس سے مدد ملے گی۔ اس لئے اس کا بیان نامناسب نہیں ہے۔ اب ہمارے اس بیان سے یہ تین باتیں بخوبی واضح ہو گئیں۔

- (۱) رسالت آب کے مبارک عہد میں بہت مسلمان لکھنا جانتے تھے۔
- (۲) ایسی چیزیں بھی اس وقت ملتی تھیں جن پر وہ لکھتے تھے۔
- (۳) قرآن پاک کے لکھنے کی مسلمانوں کو بے انتہا ضرورت تھی اور اس کی کمال استفاظ کی یہی صورت تھی کہ وہ لکھوا یا جائے۔

ان تینوں واقعات سے ہر انصاف پسند اور ذمی شعور کو یہ فیصلہ نہایت ہی آسان ہو جاتا ہے کہ اس وقت کے مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیئے تھا اور ان کو اپنے اس فرض منصبی اور عہدہ مدھبی کی سکدوشی سے کونسا امر مانع تھا جو ان کو اس کے ادا کرنے سے روکتا اور کیا اس عہد کے مسلمانوں نے اپنے فرائض منصبی کے مقابلہ میں جان، مال، عزت، راحت، عزیز و قریب کی قربانیاں نہیں کیں اور کیا سخت سے سخت اور خطرناک اور مہلک مقامات کا بھی انھوں نے نہایت ہمت و استقلال اور صبر و وقار سے مقابلہ نہیں کیا۔ ان واقعات پر اگر ان ترغیبات کا اضافہ کیا جائے جو سرورِ کائنات نے مسلمانوں کو قرآن کے پڑھنے اور پڑھانے کے بارے میں کی ہیں اور جن میں سے ہر ایک ترغیب بجائے خود ہر ایک مسلمان کو اس پر مستعد کر دیتی ہے کروہ تمام قرآن پڑھے اور لکھے اب ان ترغیبات کے اضافے کے بعد اور اس ذوق اور جوش اور شوق کو دیکھتے ہوئے جو مسلمانوں میں اُس مقدس بانی نے بھروسایا تھا یہ خیال نہیں کیا جاسکتا کہ اس وقت مسلمانوں نے تمام قرآن نذیاد کیا ہوا درست کسی نے پورا قرآن لکھا ہو۔ اب میں ان ترغیبات کو لکھتا ہوں۔

آنحضرت کی ترغیبات قرآن کے بارے میں

(۱) إِنَّ أَفْضَلَكُمْ مِنْ تَعْلَمَ الْقُرْآنَ وَعَمِّلَهُ۔ (بخاری عن عثمان رضی اللہ عنہ)

بخاری میں عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے مسلمانوں میں اس کو تمام پروفیلٹ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے۔

(۲) مَثُلُ الَّذِي يَقْرَئُ الْقُرْآنَ كَأَزْنَافَةٍ طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَرِيحُهَا مَطْيُّحًا。 وَالَّذِي لَا يَقْرَأُ
القرآن کا التئمٰن طعمہ طیب ولا ریحہ مجھ لھا۔ (بخاری عن ابی موسیٰ)

بخاری میں ابو موسیٰ سے روایت ہے۔ قرآن پڑھنے والا اس پہل کی طرح ہے جس کامڑہ بھی اچھا ہے اور خوبی بھی۔ اور جو قرآن نہیں پڑھتا وہ کھجور کے بیش ہے مزہ عمدہ ہے مگر خوبی نہیں۔

(۳) يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ إِنَّ قَرْءَهُ فَاسْتَقِ وَسَرْقِلُ مَمَّا كُنْتَ تُرْقِلُ فِي الدُّنْيَا فَإِنَّ
مَنْزِلَكَ عِنْدَ آخِرَةِ تَقْرِئُهَا۔ (احمد۔ ترمذی۔ ابو داؤد۔ نسافی)

مشکوٰۃ میں عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے۔ قیامت میں قرآن کے پڑھنے والے کو حکم دیا جائے گا کہ پڑھو اور بلند درجوں کی طرف چڑھو۔ لیکن قرآن کو ترتیل سے اُسی طرح پڑھتا ہوا جیسے دنیا میں پڑھاتھا اور جہاں تیری قرات پوری ہو وہی تیرامکان ہے۔

(۴) يَقُولُ الرَّبُّ شَارِكٌ وَتَعَالَى مَنْ شَفَلَهُ الْقُرْآنُ عَنْ ذِكْرِي وَمَنْ شَلَّقَنِي أَغْطَلَنِي أَفْضَلَ
مَا أَعْطَى السَّائِلِينَ وَفَضَلُّ كَلَامِ اللَّهِ عَلَى سَائِرِ الْكَلَامِ نَفَضِيلُ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ۔

(ترمذی، داری، بیہقی)

(مشکوٰۃ میں ابوسعید سے روایت ہے) خدا تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو قرآن میں اس تدریش غول ہو جائے کہ مجھ سے دعا تک ذکر کے اور نہ میری یاد تو میں اسے مانگنے والوں سے زیادہ دوں گا۔ خدا کے کلام کو... دوسرے کلاموں پر اُسی قدر فضیلت ہے جو خدا کو دوسروں پر۔

(۵) لَوْجُعَلَ الْقُرْآنَ فِي إِهَابِ ثُمَّ أَلْقَى فِي النَّارِ مَا احْتَرَقَ۔ (داری)

(مشکوٰۃ میں عقبہ سے روایت ہے کہ، قرآن اگر کسی جلد میں رکھا جائے اور وہ آگ میں ڈالی جائے تو جلے گی نہیں۔ یعنی قرآن جس کو یاد ہواں پر قیامت میں آگ اثر نہ کرے گی۔

(۶) تَعَاهَدُوا الْقُرْآنَ فَوَالَّذِي تَفْسِيْرِهِ بَيِّنَهُ هُوَ أَشَدُّ تَفْقِيْرًا مِنَ الْإِبْلِ فِي عَقْلِهَا۔

(مسلم۔ بخاری)

(مشکوٰۃ میں ابو موسیٰ سے روایت ہے) قرآن کی مزاولت کرو کیونکہ قرآن سینوں سے جانے میں اس اونٹ سے تیز ہے جو اپنی بندش سے جھوٹ جائے۔

(۷) وَأَسْتَدِّكُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ أَشَدُّ تَفْقِيْرًا مِنْ صُدُورِ الرِّجَالِ مِنَ النَّعْمَ (مسلم بحدی)

(مشکوہ میں ابن مسعود سے روایت ہے کہ) قرآن کو ووکرتے رہو وہ بینز سے نکلنے میں اونٹ کی تیز ہے۔

(۸) عن عائشة رضي الله عنها مثلَ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَهُوَ حَافِظُهُ مَعَ السَّفَرَةِ الْكَرَامِ وَمِثْلُ الَّذِي يَقْرَأُهُ وَيَتَعَاهِدُهُ وَهُوَ عَلَيْهِ شَدِيدٌ فَلَهُ أَجْرًا. (بخاری تفسیر)

حضرت عائشہ فرماتی ہیں حافظ قرآن جو قرآن پڑھتا رہے وہ معزز فرشتوں کی مثل ہے اور جو قرآن پڑھے اور داومت کرے اور اس کو اس میں دشواری ہو تو اس کو دو چند ثواب ملے گا۔

(۹) إِنَّمَا مِثْلُ صَاحِبِ الْقُرْآنِ مَكْثُلٌ صَاحِبُ الْإِبْلِ الْمُعْقَلَةُ إِنْ عَاهَدَ عَلَيْهِ أَمْسَكَهَا وَإِنْ أَطْلَقَهَا ذَهَبَتْ. (مسلم - بخاری)

قرآن والے کی حالت اونٹ کے مالک کی ہے کہ وہ اگر اونٹ کی گمراہی کرے تو رہے گا اور اگر چھوڑ دے گا تو چلا جائے گا۔

(۱۰) عَنْ إِبْرَاهِيمَ سَعِيدَ قَالَ جَلَسَتِي فِي عَصَابَةٍ مِنْ ضُعَفَاءِ الْمُهَاجِرِينَ وَأَنَّ بَعْضَهُمُ ... لَيْسَتِ تِرْبَعَةٌ مِنَ الْعَرَبِيِّ وَقَارِئٌ يَقْرَأُ عَلَيْنَا إِذْ جَاءَوْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ عَلَيْنَا فَلَمَّا قَامَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَكَتَ الْقَارِئُ فَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ مَا كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ قُلْنَا كُنَّا نَسْمَحُ إِلَيْكُمْ كِتَابَ اللَّهِ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ مِنْ أُمَّتِي مَنْ أَمِرْتُ أَنْ أَصْبِرَ نَفْسِي مَعْهُمْ فَعَلَسَ وَسَطَنَا. (ابوداؤد)

ابوسعید کہتے ہیں ایک روز میں مہاجرین میں جو فقیر تھے، بیٹھا تھا۔ اور بعض جن کے بدن پر کپڑا تک نہ تھا، بعض کے آڑ میں بیٹھے تھے اور ایک قاری ہم پر قرآن پڑھ رہا تھا۔ اسی حالت میں رسول خدا تشریف لائے اور کھڑے ہو گئے۔ قاری آپ کو دیکھ کر چپ ہو گیا۔ آپ نے سلام کیا۔ اور فرمایا کہ کیا کرتے تھے۔ عرض کیا کہ قرآن سنتے تھے۔ فرمایا الحمد للہ الیٰ کی جعل کر اس نے میری اُمت میں ایسے لوگ کئے جن میں بھے بیٹھنے کا حکم کیا گیا اور ہمارے درمیان بیٹھ گئے۔

(۱۱) يَحْمِنُ صَاحِبُ الْقُرْآنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُ يَارَبِّ حَلْمِي فِيلْبِسُ تَاجَ الْكَرَامَةِ ثُمَّ يَقُولُ يَارَبِّ زِدْهَ فِيلْبِسُ مُحَلَّةُ الْكَرَامَةِ ثُمَّ يَقُولُ يَارَبِّ أَرْضَ عَنْهُ فَيَرْضِي عَنْهُ فَيُقَالُ اقْرَا وَارْقَا وَيُزَادُ بِكُلِّ آيَةٍ حَسَنَةً. (ترمذی)

ابوہریرہ سے روایت ہے کہ قیامت میں اہل قرآن جب لائے جائیں گے تو قرآن ان کی سفارش کرے گا اور کہے گا کہ اے خداون کو خلعت عطا فرا۔ اس پر دستار فضیلت ان کے سروں پر باندھی جائیگی پھر قرآن سفارش کرے گا تو اس پر خلعت ملے گا۔ پھر سفارش کرے گا کہ خدا تو ان سے راضی اور خوش ہو۔ اس پر وہ اپنی رضا مندی اور خوش نووی کا اظہار کرے گا اور حکم دے گا کہ قرآن پڑھتا ہوا ترقی کرتا جا اور ہر ایک آیت کے عوض ثواب حاصل کر۔

(۱۲) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اقْرَأُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُعَذِّبُ قَلْبًا وَعَنِ الْقُرْآنِ وَإِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ مَادِبَةً لِلَّهِ فَمَنْ دَخَلَ نَيْمَهُ فَهُوَ أَيْمَنٌ وَمَنْ أَحَبَّ الْقُرْآنَ فَلَيَبْشِرْ. (دارمي)

ابن مسعود فرماتے ہیں آنحضرت نے فرمایا قرآن پڑھو کیونکہ خدا ایسے شخص کو عذاب نہ رے گا جسے قرآن یاد ہو۔ اور یہ قرآن خدا تعالیٰ کی نعمتوں کی جگہ ہے جو اس میں داخل ہوا وہ بے خوف و خطر ہے اور جسے قرآن سے محبت ہے اُس کو بشارت ہے۔

صاحب شریعت اسلامیہ کے ان اقوال سے ثابت ہوتا ہے کہ خدا کے بعد قرآن ہی کامتر ہے۔ اور خدا کی تمام مخلوق میں کوئی شے اُس کے مثل نہیں۔ اس نے اہل قرآن کو تمام مسلمانوں پر فضیلت ہے اور وہ سب سے افضل ہے۔ سرورِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اُس کی مجلس میں بیٹھنے کا حکم ہے۔ اور اس کاظا ہر دباطن نورانی ہو کر لوگوں کے لئے مشعل راہ بن جاتا ہے جس سے خلق مستفید ہوتی ہے۔ اس کو اپنے مقاصد کے لئے دعا کی ضرورت نہیں رہتی بلکہ اُس کو وہ بلا طلب ریا جاتا ہے جو دوسروں کو مانگنے ہے۔ اُس کی نورانیت اس درجہ کو پہنچ جاتی ہے کہ آگ درز نہ بھی اُس پر راضی نہیں کرتی یہ قرآن پاک اس کی ترقی درجات کا خود معیار ہو گا۔ اُس کی درجات کا علو او رکمال اُس کی قرأت کے قدر ہو گا یعنی اُس کو جنت کے درجوں پر چڑھنے کا حکم دیا جائے گا۔ متنبہی اُس کی ترقی کا دہان جہاں اس کی قرأت ختم ہے۔ قرآن کی تلاوت سے اسے خلعت غنایت ہو گا۔ یہ ہیں قرآن پاک کے آخری تناج اور برکات۔ کیا جو قوم اپنے مقدس اور پاک مذہب کی ایسی فریفتہ اور از خود رفت ہو کہ اُس کے مقابلہ میں دنیا کی ہر بڑی سے بڑی شے کمتر اور بے وقت ہو اور اُن کا دلی جوش جنون کی حد تک پہنچا ہو اس وقت کے مسلمان اپنے اوپر قیاس نہ کریں بلکہ اُن کی اُس حالت پر غور کریں کہ انہوں نے اپنا مال جان اولاد اپ کے ارشاد پر قربان کیا تو کیا ایسی قوم کے لئے ان پاک الفاظ اور عددوں نے برائیک کو قرآن کی یاد اور اُس کی تلاوت کے لئے بے اختیار نہ کیا ہو گا جو بہ نسبت جان و مال دینے کے بہت آسان تھا اور کیا اس کے بعد بھی یہ قابل شرم اور نفرت خیال قابل ساعت ہو گا کہ اُس وقت مسلمانوں میں کوئی پورے قرآن کا حافظ نہ تھا۔ اور تمام قرآن تلاوت کے لئے اُن میں لکھا بوا رہ تھا، شرم، شرم! اس کے سوا بھی پیغمبر مسلم نے خود قرآن کی حفاظت اور اس کی تلاوت پر مداومت کی کس قدر تاکید کی۔ جیسا حدیث نمبر ۷، ۸، ۹ سے ثابت ہے۔

قبل اسلام عرب میں اگرچہ کسی قسم کی تعلیم تعلم کا عام رواج نہ تھا مگر پیغمبر اسلام نے ان میں تعلیم کو رواج دیا اور جو نکل قرآن کے سوا اُس وقت مسلمانوں میں کوئی علم و فن نہ تھا اور اس طرف مسلمان ہونے کے لئے قرآن جاننا بھی ضروری تھا اس لئے مسلمانوں میں پہلے قرآن ہی کی تعلیم کا رواج ہوا۔ پیغمبر اسلام خود گوامی محسن تھے اور لکھنا پڑھنا خود ز جانتے تھے۔ جیسا کہ قرآن نے خود ایسی حالت میں رَأَنَ کے مخالفین ہر طرح کی نکتہ چینی میں اور آن کی ہربات پر گہری نظر ڈالنے تھے اور ہم اقوال افعال کو عیب چینی کے خیال سے تلاش کرتے تھے یہ دعویٰ کیا کہ رسول اُتمی ہے۔ لیکن قرآن کے اس دعوے میں کوئہ اُتمی ہیں کسی نے شک نہیں کیا اور نہ اس کو رد کیا بلکہ وہ دعویٰ جو عام طور سے اعلان کے ساتھ موافقت و مخالف کے آگے کیا جائے اور ہر ایک شخص آسمان لے، یہ اس کی صداقت کے لئے مضبوط ضمانت ہے اور جن کو اس دعوے میں کلام اور رد کا حق تھا جب انہیں نے اسے تسلیم کیا تو اب ان کے بعد والوں کو انہیں کی اقتدا کے سوا کوئی راست نہیں ہے۔ اس کے سوا دوسرا استثنکانہ اور لوگوں کو اس کی طرف بلانا اپنی تاریکی یادی سوزش کا ثبوت پیش کرنا ہے گو کبھن ناواقف یادی کے بیار اس پر علیم یا ایسی کوشش کریں مگر ان صفا۔ اور علم کے مقابلے میں بلا شک اُس کو ہزیریت اور فاش شکست ہوگی۔ لیکن اس پر بھی پیغمبر اسلام نے اس قوم کی تعلیم کا خیال کیا اور اس کی اشاعت کی ابتدا اُسی کامل ہمدرد بندی نوع انسان کے ہاتھوں سے ہوئی جن کا نام محمد بے صل انشٰ علیہ وسلم۔ چنانچہ اول آپ نے خود قرآن کی تعلیم دینی شروع کی جیسا کہ قرآن مقدس میں ہے۔ يَعْلَمُهُمَا الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ ابو الدرداء صحابی کا بیان ہے کہ میں نے قرآن رسول خدا سے یاد کی۔

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْلَمُنَا إِلَّا مُسْتَخَارَةً فِي
الْأُمُورِ كَمَا يَعْلَمُنَا السُّورَةُ مِنَ الْقُرْآنِ۔ (بخاری)

ترجمہ:- بخاری میں جابر سے روایت ہے کہ رسول خدا نے ہمیں تمام باقیوں میں استخارہ کے دعا کی تعلیم کی جس طرح قرآن کی سورۃ کی تعلیم دیتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ قرآن کی تعلیم کرتے تھے۔

عَنْ عُمَرِ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَكْمَمَ بْنَ جِرَّاً يَقُرِئُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ عَلَى
غَيْرِ مَا أَقْرَءَ هَا وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْرَءَ نِيَّهَا وَكَذَّبَ أَنَّ أَجْعَلَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَهْمَلَهُ
حَقَّا اَنْصَرَفَ ثُمَّ لَبَثَثَهُ بُرِدَاءَ عَيْنَهُ فَجَعَلَتْ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَلَّتْ إِنَّمَا سَمِعْتُ
هَذَا بِقَرْءَ عَلَى غَيْرِ مَا أَقْرَءَ تَنِيمَهَا۔ (بخاری)

ترجمہ:- بخاری میں ہے کہ عمر بن الخطاب نے ہشام کو سورۃ فرقان پڑھتے ہوئے سنائیں وہ جس

طور سے پڑھتے تھے وہ عمرؓ کے طرز کے خلاف تھا۔ لیکن عمرؓ کو چونکہ رسول خدا نے اسی طرز سے پڑھایا تھا اور ہشام اس کے خلاف پڑھتے تھے اس نے عمرؓ نے چاہا کہ ان کو اُسی وقت روک دیں مگر وہ اس قدر شہرے کو وہ نماز سے فارغ ہو گئے۔ اس کے بعد عمرؓ نے ان کی گردان میں چادر ڈال کر گرفتار کیا اور رسول خدا کے پاس لے جا کر کہا کہ یہ قرآن اس کے خلاف پڑھتے ہیں جیسا آپ نے مجھے پڑھایا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ رسول خدا قرآن صحابہ کو پڑھاتے تھے۔

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ يَقُولُ عَلَيْنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَفَى بَيْنَ كَفَيْهِ مَا يَعْلَمُنِي
السُّورَةُ مِنَ الْقُرْآنِ الْجَيْحَاتُ لِلَّهِ الْأَعْلَمُ۔ (بخاری)

بخاری میں ابن سعوہ سے مردی ہے کہ مجھے رسول خدا نے التحیات کی تعلیم کی جس طرح آپ قرآن کی سورۃ کی مجھے تعلیم دیتے تھے۔

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ كَتَبَ إِذَا تَعْلَمَنَا مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنَ الْقُرْآنِ لَمْ
نَتَعْلَمُ الْعَشْرَ الَّتِي بَعْدَهَا حَتَّى نَعْلَمَ مَا فِيهِ۔ کنز العمال ج ۱ ص ۲۳۷

ابن سعوہ فرماتے ہیں۔ آنحضرت سے قرآن کی دس آیت ہم پڑھتے اس کے بعد کی آیات اُس وقت تک پڑھتے جب تک ان پر عمل نہ کریتے۔

قَالَ خَطَبَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَبْنُ مَسْعُودٍ فَقَالَ دَائِنُهُ لَقَدْ أَخَذْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يُضْعَادَ سَبْعِينَ سُورَةً إِلَّا۔ (بخاری)

ابن سعوہ نے ایک روز صحابہ کے بھرے مجمع میں خطبہ دیا اور کہا میں نے رسول خدا سے نثار اور چند سورتیں یاد کیں۔

عثمان بن ابی العاص کہتے ہیں۔ میں وفد تقویف میں آنحضرت کی خدمت میں حاضر ہوا آپ نے مجھے قرآن پڑھایا۔ (طبقات ج ۲ ص ۱۱)

حضرت ابو بکرؓ فرمائے ہیں۔ آنحضرت پر جب یہ آیت نازل ہوئی من یعلم سوء آی بجزبه الخ۔ تو آپ نے فرمایا۔ اے ابو بکر جو آیت نازل ہوئی ہے وہ کیا تجھے نہ پڑھاؤ۔ عرض کیا ہاں۔ تب آپ نے اُسے پڑھایا۔ ترمذی ج ۲ ص ۲۵۶

ابن عباسؓ فرماتے ہیں یہ دعا مجھے آنحضرت نے اُسی التزام سے پڑھائی جس طرح قرآن پڑھاتے تھے۔ اترمذی ج ۱ ص ۲۰۶

اس سے ثابت ہوا کہ آنحضرت صحابہ کو التزام سے قرآن پڑھاتے تھے۔

حضرت ابوالدرداءؓ، جابرؓ، عمرؓ، ابن سعوہؓ، ابو بکرؓ، عثمانؓ، ابن عباسؓ کے ان بیانات سے معلوم ہوا کہ رسول رکھناتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مقدس کی خود تعلیم فرماتے تھے اور بعض کو تلامیز قرآن بھی

یاد کرایا جیسا... ابوالدرداء رضا کا اقرار ہے کہ میں نے تمام قرآن آپ سے یاد کیا اور آپ نے محض اسی پر اکتفا نہیں فرمایا کہ خود ہی تنہا تعلیم دیں بلکہ لوگوں کی جب کثرت ہوئی اور قرآن کے پڑھنے والوں کی تعداد بہت زیاد ہو گئی اور اس طرف آپ کے اشغال میں بھی زیادتی ہوئی تو ان صحابہ سے بھی جو قرآن آپ سے پڑھو چکے تھے بعض کو تعلیم قرآن پر مقرر رہا یا اور پڑھنے والوں کو حکم دیا کہ ان سے قرآن پڑھیں۔
استقرْ ؕ الْقُرْآنَ مِنْ أَرْبَعَةٍ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ أَبْنِ مَسْعُودٍ وَسَاتِلِمْ مَوْلَى إِلَى حُذَيْفَةَ دَابِيَ بْنِ

کعب و معاذ بْنِ جَبَلٍ۔ (مخادری)

بخاری میں ہے آپ نے حکم دیا۔ ابن مسعود سالم مولی ابو حذیفہ ابن کعب، معاذ سے قرآن پڑھو۔
عَنْ عَبْدَةِ بْنِ نَصَارَةِ قَاتَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْغُلُ فَإِذَا قَدِمَ الرَّجُلُ فَمَهَاجَرَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَفْعَةً إِلَى رَجُلٍ مَذَأْبُلِهِ الْقُرْآنَ فَدَفَعَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا كَانَ مَعِي فِي الْبَيْتِ أَعْشَيْرَ عَشَاءَ الْبَيْتِ وَكُنْتُ أَقْرِبُهُ فَانْصَرَفَ إِلَى أَهْلِ فَرَأَى أَنَّ عَيْنَهُ مَتَّقَنَّا هَدَى إِلَى قَوْسَ الْحَرَارَاجُودَ مِنْهَا عَوْدَادَ لَا أَحَسَّ مِنْهَا عَطْفَانَ فَأَبَتْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَلَتْ مَا تَرَى يَارَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ حَمْرَةُ بْنَ كَتَفَيْكَ إِنْ تَقْدِدُ هَـ۔ (کنز العمل ج ۱ ص ۲۲)

کنز العمال میں عبادہ سے ہے جب کوئی شخص مدینہ میں بھرت کرتا اور رسول خدا کسی کام میں مصروف ہوتے تو ایسے وقت میں اس مہاجر کو کسی صحابی کے متعلق کر دیتے تاکہ وہ اُسے قرآن پڑھائے۔ چنانچہ ایک دفعاً ایک مہاجر کو رسول خدا نے میرے متعلق کیا کہ میں اسے قرآن پڑھا دوں۔ یہ شخص جس کو میں قرآن پڑھاتا تھا میرے ساتھ ہی میرے مکان میں رہتا تھا اور میں شام کا کھانا بھی اُسے اپنے ساتھ کھلاتا تھا۔ اُس نے اپنے لگھ جانے کے بعد خیال کیا کہ میرا اس پر حق ہے اس لئے مجھے اُس نے ایک ایسی کمان بھیر دی جو نہایت عمدہ اور نرم تھی۔ میں رسول اللہ کی خدمت میں حاضر مبوا اور دریافت کیا کہ اس کمان کے متعلق کیا حکم ہے۔ فرمایا جہنم کی آگ ہے۔

ان دونوں حدیثوں سے معلوم ہوا کہ آپ کے سوادو سے وہ صحابہ بھی تعلیم دیتے تھے جن کو آپ نے اس لئے قرر فریانا اور یہ امر بھی ثابت ہے کہ جو شخص اسلام میں داخل ہوتا آپ اُسے ضرور قرآن کی تعلیم خود دیتے یادو سے سے دلاتے جیسا عبادہ کرتے ہیں۔ فَإِذَا قَدِمَ الرَّجُلُ فَمَهَاجَرَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَفْعَةً إِلَى رَجُلٍ مَذَأْبُلِهِ الْقُرْآنَ۔ یعنی جب کوئی مدینہ میں بھرت کر کے آتا یعنی اسلام قبول کرتا تو یہ بغیر خدا ضرور اسے کسی ایسے صحابی کے متعلق کرتے جو اسے قرآن پڑھاتا۔ دیکھو زمانِ سنہ میں قبیلہ عامر کے دس آدمی اسلام میں داخل ہوئے اور لتنے روز مدینہ میں

لئے اس سے ثابت ہوا کہ قرآن کی تعلیم پر اجرت یسا حرام ہے اور نیزا ایسے علماء میں بھی لینا درست نہیں۔

ربے کابی بن کعب سے قرآن پڑھ لیا۔ ابن خلدون میں ہے۔ قدہ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وَقَدْ عَاهَرَ سَنَةً مِنْ سَمَّاضَانِ عَشْرَةَ نَفَرٍ فَأَسْلَمُوا وَتَعَلَّمُوا شَرِائِعَ الْإِسْلَامِ وَأَقْرَأُهُمْ أَبَنَيَ الْقُرْآنَ۔ اور اسی سن میں قبیلہ عامر کے دہن آدمی بھی آئے۔ رسول خدا نے ابی سے فرمایا کہ انہیں ستر آن پڑھاؤ۔ اسی سال بنی حنیف کا قبیلہ مدینہ میں آکر مسلمان ہوا اور اتنے روزوں قیام کیا کہ ابی سے قرآن پڑھ لیا۔ (ابن خلدون میں ہے) قَدِمَ وَقَدْ بَنِي حَنْيَفَةَ فِي سَنَةِ عَشِيرَةِ فَاسْلَمُوا وَاقَمُوا يَوْمًا يَتَعَلَّمُونَ الْقُرْآنَ مِنْ أَبِيهِ وَرِجَالًا يَتَعَلَّمُونَ (ج ۲ ص ۵)۔ یعنی ابی سے لوگ قرآن پڑھتے تھے انہیں میں بنی حنیف بھی پڑھنے لگے۔ قبیلہ کے ستر یا اسی آدمی مدینہ میں آکر مسلمان ہوئے اور اتنے دن تیام کیا کہ قرآن پڑھ لیا۔ سید دحلان مفتی مکملہ اپنی تاریخ کے ج ۲ ص ۱۹ میں بغوی سے نقل ہیں کہ طفیل بن عمر الدوسی کو ابی نے عہد بارک میں قرآن پڑھایا۔ عرب بن معد کریب بنی سے مدینہ منورہ میں آکر مشرق بہ اسلام ہوا اور سعد بن عبادۃ رضی اللہ عنہ کا مہمان ہوا اور قرآن پڑھا۔ پھر آنحضرت نے اس کو میں کا حاکم مقرر کیا۔^{۱۷} منج کے پندرہ آدمی مدینہ میں آکر مسلمان ہوئے اور ایک گھوڑا رسول خدا کو پیش کیا اور قرآن پڑھا اس کے بعد اپنے گھروں کو والپس گئے۔ ہمارے اس بیان سے معلوم ہوا کہ پیغمبر اسلام نے صحابہ میں چند ذی علم صحابہ کو قرآن کی تعلیم کے لئے مقرر کر دیا تھا۔ ان کے علاوہ دیگر صحابہ بھی ضرورت کے وقت تعلیم دیتے تھے جیسا ابھی معلوم ہوا کہ ابن مسعود، ابن معاذ، سالم تو خصوصیت سے مقرر تھے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عام طور سے فرمادیا تھا کہ مسلمان ان سے قرآن پڑھیں۔۔۔

چنانچہ نے ابی نے اکثر کو پڑھایا۔ یہ نہ خیال کر د کہ پیغمبر اسلام کی تعلیم کی طرف یہ توجہ اور بے انتہا کو شش مدینہ ہی سے شروع ہوئی تھی بلکہ جس وقت سے آپ نے اپنا دعویٰ پیش کیا اور جی ہی سے آپ مشرف ہوئے اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے اس کی تعلیم دنیا شروع کی۔ دیکھو عمر رضی اللہ عنہ کو اپنی حالت کفر میں جب یہ معلوم ہوا کہیری ہمیشہ فاطمہ اور سعید چھپرا بھائی جس کی فاطمہ سے مشادی ہوئی تھی مسلمان ہو گئے اور وہ اُن کی تنبیہ کے لئے فاطمہ کے گھر آئے تو دیکھا کہ اس وقت خباب بن الارت ان دونوں کو قرآن کی تعلیم دے رہے تھے۔ اب جب مسلمان مکہ کے قیام میں قرآن لکھتے اور چھپ کر قرآن پڑھتے اور یاد کرتے۔ حالانکہ یہ وقت مسلمانوں کے لئے نہایت خطرناک اور خوف اور بے اطمینان کا تھا تو کیا مدینہ کی قیام میں جوان کے لئے نہایت آزادی اور اطمینان کا وقت تھا اس سے غافل ہو گئے ہوں گے اور نہیز حضرت عمرؓ کے اس واقعہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مسلمانوں نے اول ہی سے قرآن لکھتا شروع کر دیا تھا۔ آنحضرت کی یہ تعلیم قرآن حفص انہیں مسلمانوں سے مخصوص نہ تھی جو مدینہ میں آئیں

۱۷ ابن خلدون ج ۲ ص ۵۶ ۱۸ استیعاب ج ۲ ص ۵۶ ۱۹ ابن خلدون ج ۲ ص ۵۶
۲۰ عرب بن معد کریب عرب کے مشہور شعراء سے تھے۔ ۲۱ ابن خلدون ج ۲ ص ۵۶ ۲۲ ابن خلدون۔

یادہاں مقیم تھے بلکہ جو شہر کا نوں یا قبیلہ مسلمان ہوتا یا مسلمان اُسے فتح کرتے دہاں اتوں پہنچرہ اسلام کیں ایسے شخص کو مقرر کر کے بھیجتے جو انہیں قرآن پڑھائے۔ انصار مدینہ بنوت کے بارھویں سال کیں اگر جب مسلمان ہوئے اور اپنے گھروں کو واپس ہونے لگے تو آنحضرت نے ابن اٹام مکتوم اور مصعب بن عیرکو اُن کے ہمراہ کر دیا تاکہ وہ قرآن کی تعلیم دیں۔ زید بن ثابت بھتے ہیں۔ آنحضرت کے مدینہ میں تشریف آوری کے وقت تک میں نے شترہ سورتیں پڑھ لیں تھیں۔ بعد آنے آنحضرت کے میں نے یہ تمام پڑھی ہوئی سورتیں آنحضرت کو سنائیں جس سے آپ نہایت خوش ہوئے میں اس وقت گیارہ سال تھا۔

سنه میں جب کہ معظلم فتح ہوا تو وہاں معاذ کو آنحضرت لے اس لئے چھوڑ دیا کہ وہ اہل مکہ کو قرآن پڑھائیں پھر سنہ میں جمعۃ الدواع سے واپسی کے بعد میں اور حضرموت کی طرف معاذ کو روانہ فرمایا کہ وہاں کے لوگوں کو قرآن پڑھائیں۔ ابو تمیم جیشانی کہتے ہیں۔ میں نے معاذ سے میں میں قرآن پڑھا۔ قارہ، عضل یہ دو قبیلے جب اسلام لائے تو ان کو قرآن پڑھانے کے واسطے ان چھ صحبائی کو روانہ فرمایا۔ مرتضی، عاصم، غبیب، خالد بن بکر، زید بن دشنا، عبدالاثر بن طارق بن سناہ میں خالد بن ولید کو قبیلہ بنی الحارث کی طرف جو سخران کا ان پڑھ گردہ تھا اس لئے بھیجا کر انہیں قرآن کی تعلیم دیں۔ خالد کے ہمراہ اس قبیلہ کا وفد مدینہ آکر جب واپس ہوا تو عمر دین حزم کو جن کی عمر سترہ سال کی تھی ان کے ہمراہ تعلیم قرآن کے لئے کر دیا گیا۔ وفد بنی سعد میں جو قضاء عکی شاخ ہے ایک لڑکا قرآن کا بڑا عالم تھا۔ عثمان بن ابی العاص و فدیقیف میں آنحضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آنحضرت نے انہیں قرآن پڑھایا اور پھر ابی بن کعب کی خدمت میں رہا اور قرآن پڑھتا رہا۔۔۔ (طبقات حج، ص ۲۷) وفد بہرام مدینہ میں قرآن پڑھ کر واپس گیا۔ کتب تواتر نے ان ۲۵ قبیلوں کے جو مدینہ میں آکر مسلمان ہوئے یعنی دوس، ازو، فروہ جذامی، ہمدان، طارق بن عبد اللہ، تجیب، بنی سعد بیکم، بنو اسد، وفد بہرام، وفد بنی عیش، بنی قنیف، عبد القیس، علی، اشتریین، صدراء، عذراء، ثقیف، علی فرازہ۔ خامد، محارب، خلان، غسان، بنی الحارث، سلامان، سخع۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت اور نیز مصلحت بھی یہ تھی کہ ہر وفد کی واپسی پر ایک ایسا شخص ان کے ہمراہ کر دیا جاتا تھا جو انہیں قرآن پڑھائے اور احکام بنائے۔ اگرچہ یہ بات اُن لوگوں سے پوشیدہ نہیں جنہوں نے آنحضرت کے حالات کا مطالعہ کیا ہے اور یہ امر ایسا ظاہر ہے کہ مخالفین کو بھی اس کے سامنے تسلیم خرم کرنا پڑتا اور اس سے انکار نہ کر سکے۔ چنانچہ فاضل صریح میور عیسائی نے بھی اسے تسلیم کیا ہے اور وہ

۱۔ اب غدوں کاں اب اخیر بخاری۔ ۲۔ تذكرة الحفاظ امث ۳۷۶ استیباب ح ۲۵۵۔ ۳۔ اب غدوں ملہ۔

۴۔ استیباب ۷۷ استیباب ح ۲۵۰ ملہ طبری ح ۳۷۹ ملہ غدوں ح ۲۵۰ ملہ ۷۹ زاد المعاویت۔

اپنے تذکرہ اسلام جلد ۲ صفحہ میں لکھتے ہیں :- کثر ایسا ہوتا تھا کہ ایک معلم ان قاصدوں کے ہمراہ کروا جاتا تھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک عهد میں عرب کی ساری سر زمین اسلام کی روشی سے منور ہو گئی تھی۔ میں، حجاز، سجد، کامبج پر خواہ مرد ہو یا عورت اسلام کے آگے سر اطاعت جھکا چکا تھا۔ عرب کا کوئی قبیلہ ایسا نہ تھا جس کا دل اس کی سُنْہِ رَحْمَةِ نَبِيٍّ کی شاعروں سے چک نہ ٹھا ہو بلکہ اس وقت میں اسلام کے خاقان گوشہوں کی تعداد حدود عرب سے تجاوز کر کے عراق عرب اور شام کی حدود تک پہنچ گئی تھی اور ان حدود پر اپنی فتوح مندی کا نشان بلند کیا تھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہر قبیلہ اور ہر شہر اور ہر قریہ میں اسلام کا مناوی اور قرآن کا معلم مقرر فرمایا تھا جن کا رات دن اور ہر وقت یہی کام اور یہی خیال اور دعوں تھی کہ ناواقفون کو واقعہ اور قرآن کا ماہر بنایا جائے۔

مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَذْسَلَمَ قَدْ اِنْتَشَرَ وَظَهَرَ فِي جَمِيعِ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ
مِنْ مُنْقَطِعِ الْبَحْرِ الْمَعْرُوفِ بِجَرَالِ الْقَلْزُومِ مَارَا إِلَى سَوَاحِلِ الْيَمَنِ كُلُّهَا إِلَى بَحْرِ فَارِسَ إِلَى مُنْقَطِعِ
مَارَا إِلَى الْقَرَاتِ تَحْتَ عَلَى ضَفَّةِ الْفُرَاتِ إِلَى مُنْقَطِعِ الشَّامِ إِلَى بَحْرِ الْقَلْزُومِ وَفِي هَذِهِ الْجَزِيرَةِ
مِنَ الْمَدُنِ وَالْقَرَى مَا لَا يَعْرِفُ عَدَدُهُ إِلَّا أَنَّهُ عَزَّ وَجَلَ كَالْيَمَنِ وَالْبَحْرَيْنِ وَعُمَانَ وَبِحِدْرَ وَجَلَّ
طَيْ وَبِلَادِ مُضَرَّ وَرَبِيعَةَ وَقَضَاعَةَ وَالظَّابِفَ وَمَكَّةَ كُلُّهُمْ قَدْ أَسْلَمَ وَبَمَوْالِيْسِ
فِيهَا مَدِيْنَةٌ وَلَا قَرِيْةٌ وَجَلَّ لِأَغْرَابٍ إِلَّا قَدْ قَرِيَ فِيهَا الْقُرْآنُ فِي الْأَصْلَوْتِ وَعَمِّهُ
الصِّبَيْنَانُ وَالرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ وَكَتَبَ ذَمَاتَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُسْلِمُونَ
كَذَلِكَ لَيْسَ بَنِيهِمْ اِنْتِلَافٌ فِي شَيْءٍ أَصْلَابَلَ كُلُّهُمْ كِلَمَةٌ وَلَحِدَةٌ وَدِينٌ وَاحِدٌ وَمَقَالَةٌ
وَاحِدَةٌ۔ (صفہ جلد ۲۔ مطبوعہ مصر)

یعنی آنحضرت کے عہد محترم میں تمام عرب کا جزیرہ مسلمان ہو گیا تھا اور اس جزیرہ میں بہت شہزادگانوں ہیں جیسے میں، بھریں، عمان، جبل طی اور مضر، ربیعہ، قضاۓ قبلہ عرب کی بستیاں طائف کہ اور ان تمام شہزادروں اوضاعات میں کوئی بھی ایسا مقام نہ تھا جہاں سبجد نہ ہو اور ان تمام مسجدوں میں نمازوں میں قرآن پڑھا جاتا تھا۔ تمام مسلمان اپنے بچوں اور عورتوں کو قرآن پڑھاتے تھے۔ اس وقت مسلمانوں میں کسی قسم کا اختلاف نہ تھا۔ علامہ کے اس بیان سے ثابت ہوا کہ جزیرہ عرب میں بہت سے شہزادگانوں میں پھر ان میں مسلمانوں کی تعداد سمجھ لینا چاہیئے کہ کس قدر ہو گی۔ جزیرہ عرب پانچ صوبوں میں منقسم ہے۔ میں، حجاز، تہامہ، سجد، یامار۔ میں کے مشہور شہروں میں حضرموت، مہرہ، عمان، شجر، بخراں ہے۔ حجاز میں مکہ معظمہ، مدینہ منورہ ہے اور مدینہ کے مشرق میں قبیلہ طی کے دو پہاڑیں جن میں دہ آباد تھے یعنی آجاہ سلسلی۔

آپ کی اس تعلیم کا یہ اثر ہوا کہ کثرت سے لوگ قرآن کے عالم ہو گئے۔

سلہ میں بنی اسرائیل سے ابو براء نجد کا یہودی جب مدینہ میں آیا اور اس نے اپنے ہمراہ معلیمین لے جائے کی درخواست کی تو اس دقت اس کے ہمراہ قرآن کی ایک جماعت جس میں شریاچاہیں آدمی تھے کر دیئے گئے۔ زاد المعاوضہ^{۳۶} میں ہے کہ صحیح یہ ہے کہ یہ نشر آدمی تھے اور ان کے حال میں تھتھے ہیں۔ وَكَانُوا مِنْ خِيَارِ الْمُسِلِمِينَ وَفُضْلًا لِّهُمْ وَسَادَا لَهُمْ وَقَدْ أَرْبَعْمٌ - یعنی نہایت دیندار سرداران اسلام سے تھے جو عالم وقیض اور فارسی تھے۔ ابتدائے ہجرت میں قرآن جانے والوں کی جب یہ کثرت تھی کہ ایک تبیید کی تعلیم کے لئے نشر آدمی آپ نے روانہ فرمادیئے تو اس سے اس امر کا اندازہ نہایت سہل ہو جاتا ہے کہ مسلمانوں میں اس وقت ایسے لوگوں نے کس قدر تعداد ہو گی جو قرآن کے واقف ہوں اور سکھتے سکھتے تک اس میں جو کچھ اضافہ ہوا ہو گا اس کا اندازہ بھی اسی سے ہو سکتا ہے۔ رعل، ذکر آن، عصیۃ، بنو میان آپ کی خدمت میں آئے اور اپنا اسلام ظاہر کیا اور اپنے ہمراہ اپنی قوم کے لئے معلیمین لے جانے کی خواہش کی جو نشر قاری رسول خدا نے ان کے ہمراہ کر دیئے۔ اس کے سوا بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ملکی اور فوجی مناصب اور عہدہ کے لئے قرآن کی سند شرعاً کر دی تھی اور یہ عہدے انہیں سے مخصوص کر دیئے گئے تھے جن کے پاس قرآن کی سند ہو یعنی وہ قرآن جانتا ہو۔ اس کے علاوہ نائب السلطنت اور ولیسا رئے بھی دہی شخص بنایا جاتا تھا جو قرآن جانتا ہو۔ فوج کا جزل آپ اُسی کو مقرر فرماتے جو قرآن جانتا ہوا یاد و صدی سے زیادہ ہو۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَعْثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْثَاهُمْ دُوَّعَدَ فَاسْتَقَرُّ
هُمْ فَاسْتَقَرُّ كُلَّ رَجُلٍ مِّنْهُمْ يَعْنِي مَا هُوَ مَعْنَى مِنَ الْقُرْآنِ فَأَتَى عَلَى سَجْلٍ مِّنْ أَخْدَمِهِمْ
سِتَّاً فَقَالَ مَا مَعَكَ يَا فَلَانَ نَقَالَ مَعِيَ كَذَا وَكَذَا وَسُورَةُ الْبَقَرِ فَقَالَ أَمَعَكَ سُورَةُ الْبَقَرِ
قَالَ نَعَمْ قَالَ أَذْهَبْ فَأَنْتَ أَمِيرُهُمْ فَقَالَ رَجُلٌ مِّنْ أَشْرَافِهِمْ وَإِنَّ اللَّهَ مَا مَنَعَنِي أَنْ أَعْلَمَ
الْبَقَرَ إِلَّا خَشِيَّةً أَنْ لَا أَقُولَ مِمَّا فِي الْقُرْآنِ أَنَّ وَ
اقْرَأْ فُؤُهُ۔ (ترمذی ج ۲)

ترمذی میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا شکر مرتقب فرمایا اور شکر کے ہر سیاہی کا قرآن مُنَا۔ ہر ایک نے جو اسے یاد تھا پڑھا۔ ان پاہیوں میں جو تمام سے عمر میں کہ تھا اس سے فرمایا کہ مجھے کس قدر یاد ہے۔ اس نے چند سورتوں کا نام لیا جس میں سورہ بقر بھی تھی۔ آپ نے فرمایا واقعی تھے تمام سورہ بقر یاد ہے۔ عرض کیا ہے ٹڈ۔ تب آپ نے اسی کو اس فوج کا جزل مقرر فرمایا۔ اس شکر میں سے ایک بزرگ قوم نے عرض کیا کہ میں نے تو سورہ بقر اس خیال سے نہیں یاد کی کہ شاید اس پر عمل دشوار ہو۔ آپ نے فرمایا کہ قرآن پڑھواد رضاواد۔

اس واقعے سے یہ جو معلوم ہوا کہ اُس عہد میں قرآن کی تعلیم ایسی عام ہو گئی تھی کہ فوج کے ہر سپاہی کو کچھ حصہ قرآن کا یاد تھا۔ اُس کی نظر آج بھی با وجود کثرت اسباب اور ذرائع کے موجود نہیں ہے اور چوں کہ اُس وقت قرآن ایسا نام تھا کہ فوجی سپاہیوں کو بھی یاد ہتا تھا اس لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم محض قرآن دانی کی وجہ سے کسی سپاہی کو جزل مقرر نہیں فراستے تھے۔ کیونکہ قرآن سب ہی کو یاد تھا بلکہ اس کے لئے امتحان کی ضرورت پڑی۔ چنانچہ اسی لئے آپ نے ہر ایک سپاہی کا امتحان یا اور بھر جس کو قرآن میں زیادہ پایا اسی کو جزل بنا یا اور اس کے مقابلہ میں عمر کی زیادتی یا قومی شرافت کا لحاظ نہیں کیا گیا بلکہ ایسے سپاہی کو جو عمر میں تمام سے کم تھا محض قرآن کی وجہ سے افسر فوج مقرر کیا حالانکہ اور تمام اس سے بڑے تھے۔ اور ایک شخص ایسا بھی تھا جو سردار قوم تھا چونکہ اُس عہد میں جو طریقہ جنگ تھا اُس کے فنون سے عرب کا ہر ایک شخص واقف تھا اور لوگوں سے ہی اُس کی مہارت اور کمال حاصل کیا جاتا تھا اس لئے یہ خیال نہیں ہو سکتا کہ فوج کی افسری کے لئے قرآن کو معیار قرار دینا بے جوڑ ہے بلکہ فنونِ جنگ میں مہارت اور واتقیت کو معیار بتانا چاہیے کیونکہ اس میں تو عرب کے ہر آدمی کو کمال حاصل ہی تھا۔ ملکی عہدے بھی انہیں سے مخصوص تھے جن کے پاس قرآن کی سند ہو۔ کسی ضلع کا حاکم (کلکٹر) یا صوبہ کا ولی (لفڑٹ گورنر) یا سلطان کا نائب (وزیر) وہی بنیا یا جاتا تھا جس کو قرآن کی وجہ سے فضیلت ہو۔

تاریخ ابن ہشام میں ہے۔ طائف جس میں قبلہ ثقیف تھا اس کا حاکم خثمان بن ابی العاص کو مقرر کیا محض اس وجہ سے کہ اس کو علم کا شوق زیادہ تھا اور قرآن پڑھا تھا۔ مراد، زبید، مدح، ان بنوں قبیلوں کا حاکم فرلوہ مرادی کو صرف اس لئے مقرر کیا کہ اس نے قرآن پڑھا تھا۔ رسول خدا نے یمن و فدر واد کیا اور ان میں سے ایک کہنے والے کو ان کا امیر اس لئے مقرر کیا کہ اُس نے قرآن پڑھا تھا۔ آپ کے عہد میں امامت نماز کا حق بھی صرف سلطان اور اُس کے نائب اور حاکم کا تھا چنانچہ خلیفہ اول کو آنحضرت نے چونکہ اپنے سامنے امام نماز مقرر فرمایا تھا۔ اس وجہ سے آپ کے بعد وہ خلیفہ بنائے گئے۔ نماز کی امامت کے لئے آپ نے یہ قانون مقرر کیا تھا کہ جس کو قرآن زیادہ یاد ہو دیں نماز پڑھائے جس کا مطلب بالفاظ دیگر یہ ہوا کہ جس کو قرآن زیادہ یاد ہو دی جائے۔ قاضی القضاۃ (چیف جیس)؛ قاضی (نج) بھی ایسے ہی لوگ بنائے جاتے تھے جن کو قرآن یاد تھا۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ سے باہر تشریف لے جاتے تو اپنا قائم مقام ایسے ہی شخص کو مقرر فرماتے جو قرآن جانتا ہو۔ اکثر ابن ام مکتم کو جو نابینا تھے مگر قرآن یاد تھا۔ آنحضرت مدینہ لئے ابن خلدون ج ۲ ص ۹۰۔

تھے تمام صحابہ میں سے آنحضرت کا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو امام مقرر کرنا دیں ہے اس امر کی حضرت ابو بکرؓ کو بولا قرآن یاد تھا اور دیگر صحابہ سے آپ اس کے زیادہ واقع تھے۔

میں اپنا نسب بناتے۔ تمام صورہ میں کامعاذ کو جمع مقرر کیا۔ اب ان واقعات کے بعد دیکھئے کہ اسی ت
گورنمنٹ نے ہر شعبہ کے اعلیٰ عہدے کو اپنی قوم سے خاص کر دیا ہے خواہ وہ ملکی ہو یا فوجی یا تعلیمی۔ فوج کا
افسر اعلیٰ یعنی مکانڈرا پنجیف، ملکی اعلیٰ افسر (گورنر جنرل) تعلیمی افسر اعلیٰ (ڈائریکٹر) ان کے قوم کے قوم کے بوا
دوسراءں ہو سکنا۔ البتہ ان کے ماتحتی میں چند عہدہ پر اہل ہند مقرر کئے جاتے ہیں۔ لیکن اس کے
لئے جس سند کی شرط ہے باوجود یہ وہ دوسری زبان ہے اور اُس کے حاصل کرنے میں بھی دس پہنچہ
سال صرف ہوتے ہیں لیکن اس پر بھی لاکھوں کی تعداد میں اس کے سند یافتہ ملک میں موجود ہیں۔ اب
اس پر غور کرو کر جو علم آن کی زبان میں ہو، جس کے لئے زیادہ وقت بھی صرف نہ ہو، جس کی وجہ سے
ملکی، فوجی، تعلیمی، ہر قسم کے منصب کا بلا استثنہ چھوٹے بڑے عہدے کا ہر صیغہ میں مستحق ہو جائے۔
اور ان تمام امور کے سوا بھی مذہبی مقنود اور دینی اعتبار سے بھی بڑے بڑے منصب کا مستحق بنایا
جائے تو ایسے علم کے سند یافتہ کی تعداد اُس وقت ملک میں کس قدر ہوگی اور جس سند کے حامل
کرنے میں زیادہ وقت اور ناقابل برداشت محنت کی ضرورت نہ ہو اور جس سند سے بلا استثناء ہر
دنیادی منصب اور عہدے کا مستحق ہو اور اسی کے ساتھ دینی برکتوں اور آخر دنی فضائل کا بھی
وارث ہو تو ایسی سند کے لئے کتنے دل مائل ہوں گے اور کون ایسا ہو گا جو اس میں کمی کرے گا۔
اور کون ہو گا جو اس کے لئے نہ تڑپے گا۔ ان کے علاوہ بھی ہر طرح کے مناسب اور ترغیب کے
لئے آپ انتیار فرماتے۔ غرروہ احمد میں خہدار کے دفن کرتے وقت آپ نے ایک قبر اور کھن میں
متعدد کو دفن فرمایا اور ان میں اس کا الحاظ رکھا کہ جس کو قرآن زیادہ یاد تھا اس کو دفن میں مقدم
فرمایا۔ (بخاری جنائز)

ایک شخص سے ایک عورت کا نکاح بلا ہر معقول اس نے کر دیا کہ اُس کو قرآن کی کچھ سورتیں یاد
تھیں۔ (بخاری نکاح)

ان سب اسباب و ذرائع کے سوا قرآن پاک میں زبان کی شیرینی، الفاظ کی مناسبت اور
نہایت اعلیٰ بندش، اُس کے جلوں کا اُتار چڑھا دیا سا بلے مثل اور پاکیزہ ہے جس کے شئے سے
اہل زبان کے علماء اور فصیحاء اذیار بے افتیار ہو گئے اور قرآن کے مقناییں جذبات نے ہر دل کو
اپنا ایسا فریفہ اور گردیدہ بنایا کہ فصحاء اور شعرائے عرب نے قرآن سن کر شعر کہنا چھوڑ دیا۔

فاضل توفل سیمی صنایع الطَّرَبِ مَكَ میں تھتے ہیں۔ قالَ صَاحِبُ تذْكِرَةِ الْجَمِيعِ فِي طَبَقَةِ
الْأُقْمَانِ الْعَرَبَ أَقَامَتْ لَسْجُونُ لِهِمْ دِيَرَاتِ الْمَعْلَقَاتِ نَحْوَ مَا يَقُولُ وَخَمْسِينَ مَسَنَةً إِلَى أَنْ ظَهَرَ
إِلَيْهِمْ إِلَيْهِمْ وَأَبْطَلَ الْقُرْآنُ بِسَطْوَةِ فَصَاحِحَتِهِ اعْتِيَارَ الْعَرَبِ لِهِمْ دِيَرَاتِ الْمَعْلَقَاتِ۔ اہل عرب

لہ اہل عرب جس طرح ادا خیار کو سجدہ کرتے تھے اسی طرح فصاحت اور بلاغت کی پرستش بھی اُسی میں روایت تھا و یکو صناجم۔

معلقاتِ بعد کو ڈریہ سوبرسِ سجدہ کرتے رہے۔ جب قرآن نازل ہوا تو اس کی فصاحت نے اُنھیں گرد کر دیا۔ خلیفہ دوم نے ایک بار بیہد بن ربیعہ شاعر سے کہا کہ اپنے کچھ اشعار سنانا۔ اس نے عرض کیا کہ میں نے سورہ بقر اور آل عمران جب سے پڑھی ہے اُسی وقت سے شعر کہنا چھوڑ دیا یہ طبقات ابن سعد کی حج ۲ ص ۳ اور جمہرہ کے ص ۳ میں ہے کہ بیہد نے مسلمان ہونے کے بعد اس پنا پر شعر کہنا چھوڑ دیا کہ قرآن میں اُسے اس سے زیادہ لطف اور لذت ملتی تھی اور اسی لئے اُس نے تمام قرآن یاد کریا تھا۔ طبقات الشعرا میں ہے کہ بیہد سے حضرت عمر بن فز شعر سنانے کی فرمائش کی تو بیہد نے سورہ بقر سے کچھ سننا کر عرض کیا کہ خدا نے بقر، آل عمران کا جب سے مجھے علم دیا اُس وقت سے میں نے شعر کہنا چھوڑ دیا۔ حضرت عمر نے اُس کے وظیفہ میں پانسو کی ترقی کی اور بجائے دہزار کے ڈھانی ہزار کر دیا۔

مددیت اکبر رضی اللہ عنہ نے بحیرت کے ارادے سے جب جبڈ کے سفر کا تصدیق اتنا بن دغدراست کے آپ کو واپس لایا اور خود ان کا ذمہ دار ہو گیا اور کہا کہ آج سے کوئی شخص آپ سے تعارض نہ کرے گا چنانچہ کفار مکہ سے ابن دغمی نے یہ تمام حال کہا کفار نے کہا بہتر لیکن آپ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہہ دیں کہ نماز میں قرآن زور سے نہ پڑھیں کیونکہ قرآن سُن کر ہماری اولاد اور عورتیں بے خود ہو جاتی ہیں اور اس کی فصاحت کا اثر ان کو اپنی طرف کینجے لیتا ہے جس کی وجہ سے ہمیں ان کے مسلمان ہو جانے کا اندیشہ ہے۔

قبل اسلام لانے کے خالد بن ولید نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر درخواست کی کہ قرآن سننے۔ آپ نے آیاتِ ذیل پڑھیں۔ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ
الْفُ�ُوضِيَّ وَيَنْهَا عَنِ الْفُحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ۔ آخر تک اس کو پڑھا۔ اس کے سننے سے خالد بن ولید کے شوق کی حرارت اور بڑھ گئی اور قلب کی لذت نے ہل من مزید کافرہ بلند کیا جس پر غالدنے درخواست کی کہ انہیں آیات کو پھر دو بارہ پڑھ دیجئے۔ آپ نے پھر سنایا۔ اب تو غالدے بے اختیار بول اٹھے۔ وَاللَّهُ أَنَّهُ لَخَلَادَةٌ۔ وَإِنَّ عَلَيْهِ لَطَلَادَةً۔ وَإِنَّ أَسْفَلَهُ لَمَغْدُقٌ وَإِنَّ أَعْلَاهُ لَمُثْمَثٌ۔ وَمَا
يَقُولُ هَذَا بَشَرٌ۔ یعنی خدا کی قسم یہ کلام شیرین ہے اور اس میں حُسن و خوبی ہے۔ یہ سرتاپ اسریز و شادابِ درخت ہے جو نیچے سے ہرا اور اپر سے بھرا ہوا ہے۔ انسان کی توبیہ طاقت نہیں کرایا کلام بول سکے۔

جعشہ میں شاہ جہش کو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے سورہ کہیں عص منانی تو اس نے سُن کر بے اختیار شہزادی کی یہ خدا کا کلام ہے۔ اور مسلمان ہو گیا۔

عقبہ بن ربیعہ نے جوابی قوم کا سردار تھا ایک روز قریش کے مجمع میں کہا کہ تم اگر راضی ہو تو
اکنہضت سے مصالحت کی گفتگو کرو۔ شاید وہ مان جائیں۔ تمام نے باتفاق اسے منظور کیا۔ عتبہ اکنہضت
اکنہضت میں حاضر ہوا اس وقت آپ سجدہ حرام میں تھا۔ بیٹھے ہوئے تھے اور کچھ باتیں ایسی کیں جن
کا منشار یہ تھا۔ آپ اپنی دعوت سے بازاںیں۔ آپ نے اُسے سورہ حج سنائی جس پر وہ متین اور زیخود
ہو گیا اور کفار سے کہا۔ **وَاللَّهِ مَا سَمِعْتُ مِثْلَهُ قَطُّ** **وَاللَّهِ مَا هُوَ بِالشِّعْرِ** **وَلَا يَا السَّعْدُ لِدَيْكَ الْكَهَانَةُ**
یعنی میں نے تو آج تک ایسا کلام سنایا ہی نہیں خدا کی قسم یہ جاد دیا شزاد رکھا نہیں ہے۔ عمر رضی اللہ
عنه نے جو اپنے گھر سے اس ارادے سے نکلے تھے کہ آج سر مبارک کو جدا کر کے لاوں گا۔ جب آپ نے
بہن فاطمہ سے قرآن سننا تو اسلام پر مجبور ہو گئے اور بے اختیار بول اُٹھے کہ یہ کلام عجیب ہے ایسا تو
بھی سنانا نہیں۔ عقبہ اولیٰ میں مدینہ کے جہادیوں کو آپ نے جب قرآن سنایا تو وہ بول اُٹھے،
بے شک آپ نبی ہیں اور یہ کلام اپنی تاثیر میں بے نظر ہے۔ اس قسم کے واقعات اسلامی تاریخ میں
میں بہت ہیں جن سے یہ بات یقینی ثابت ہوتی ہے کہ مخالفین اہل عرب نے جوزبان داں اور
اس کے فاضل اور ادیب فصیح تھے... جسی کو قرآن کی عربیت کے تولے اور اس کی لطافت، خوبی،
عمرگی، شیرینی، دل فریبی، جذب مقناعی کے جانچنے اور اندازہ کرنے اور سمجھنے کا کامل استحقاق
تھا اور انہی کی طبیعت اور ذوق ان امور کے لئے کسوٹی اور ترازو تھی، قرآن کی بلاغت کے سامنے
سر جھکا دیا اور اس میں کلام نہیں کیا اور نیز صحاہی میں بھی ایسی ٹڑی جماعت فصیح اور ادیب اکی تھی جو
اعلیٰ درجہ کے فصیح اور بیلیغ تھے اور کلام فصیح اور غیر فصیح میں فیصلے اور امتیاز کی کامل استعداد اور
ملک راستہ مبدار فیاض نے اُن کو عطا فرمایا تھا۔ جب ان صحابہ اور نیز اُس وقت کے مخالفین نے
جوزبان عربی کے ماہر تھے قرآن کی فصاحت اور بلاغت کو ان یا اور اس پر کسی قسم کا اعتراض نہیں
کیا تو ان اہل زبان کے مقابلہ میں غیر زبان داں کے شکوک کی کیا وقت ہوگی۔ اور وہ سچائی کے میدان میں
کہاں تک متھک نظر آئیں گے یا کسی ایک دو اہل زبان کی مخالفت ایک ٹڑی جماعت کے مقابلہ میں کیا
نہ ہر سکتی ہے اور کب تک مقابلہ میں ثابت قدم رہے گی۔

الحاصل قرآن نے اپنے اُن اوصاف سے بھی تمام اہل عرب کے دلوں کو عمرما اور مسلمانوں
کو خصوصاً اپنا فریفہ اور گرویدہ کر لیا تھا اور اس وقت یہ حالت تھی کہ مسلمانوں کے سوا کفار بھی اسے
شن کرایے بے چین ہوتے کہ یاد کر لیتے تھے۔ ابوسفیان، ابو جہل، عروج بن وصب، افسن بن شریق جو
اسلام اور مسلمانوں کی عداوت اور مخالفت پر بے انتہا تسلی ہوئے تھے اور ان کے رگ دریشے میں اس
کا خون جوش زدن تھا وہ بھی چھپ کر سُننے پر بے اختیار تھے۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ ان تینوں نے

تین شب متواتر چھپ کر اس طرح سے کوئی نہ جانے رسول خدا کا پڑھنا شنا اور ہر روز دن میں اپنے اس فعل پر نفرین اور طامت کی، لیکن رات میں جب پڑھنے کی آواز کانوں میں پڑتی تو بے اختیار ملکتے اور موقع پر جا پہنچتے۔^{۱۷}

طفیل بن عرو و دوسری جوابی قوم میں سردار اور بڑا شاعر اور سیدھار تھا جب مکہ آیا تو اس کے پاس قریش کے چند آدمی آئے اور کہا کہ اے طفیل دیکھو ہرگز اس شخص (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) کے نزدیک نہ جانا اور نہ اس کی بات سننا، اس کے ساتے سے بھاگنا، اس کا کلام ایسا ہے کہ آدمی اسے شن کر مفتون ہو جاتا ہے، اُس کے ہوش و حواس باقی نہیں رہتے۔ لیکن طفیل نے ان کی بات رسمی اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے اُسے جب قرآن سنایا تو بے اختیار کہا۔ وَاللَّهُ مَا سِمِعْتُ قُلْاً أَحَنَّ مِنْهُ۔ خدا جانتا ہے میں نے تو اپنی عمر میں کبھی اس سے بہتر کلام کسی کا نہیں سنایا اور ایمان لے آیا۔ کہ میں عیان آئے۔ رسول خدا نے ان کو قرآن سنایا۔ جب انہوں نے قرآن سنایے اختیار اس پر ایمان لے آئے۔^{۱۸} سوید بن حامیت جس کا نام — عرب کے اہل کمال کی فہرست میں تھا اور اپنے عہد میں ہر اعتبار سے شہرت کے تحنت کا مالک تھا جب مکہ آیا اور رسول خدا اس کے پاس آئے تو آپ سے کہا کہ جس طرح کا کلام تمہارے پاس ہے ویسا ہی میں جانتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تیرے پاس کیا ہے۔ کہا لقان کے نصائح۔ فرمایا پڑھو۔ جب اُس نے سنایا تو آپ نے اُس کی تحسین کی اور فرمایا۔ میرے پاس اس سے بھی اعلیٰ ہے جس کو خدا نے اُتا را ہے۔ سوید نے کہا سنائیے۔ تب آپ نے سنایا۔ سوید نے کہا واقعی یہ عمدہ ہے اور ایمان لا یا^{۱۹} سید بن حضیر اور سعد بن معاذ بر مصعب بن عیبر نے جب قرآن پڑھا تو وہ ایمان لے آئے۔^{۲۰} نابغہ جدیدی جو عرب کے مشہور شعراء اور ارباب کمال میں تھا۔ جب مسلمان ہوا تو قرآن کی تعریف میں کہا۔ قرآن فصاحت و بلاغت کا جملکتا ہوا روشن ستارہ ہے۔^{۲۱} عمرو بن مسلم نے سات سال کے سن میں جبکہ وہ کفر کی تاریکی میں چھپے ہوئے تھے اور ایک ایسے پانی کے چشم پر جر لوگوں کا گذر گاہ تھا، مقیم تھے محض آنے جانے والوں سے شن کر کچھ قرآن یاد کر دیا تھا۔^{۲۲} کیا اس سات برس کے پچھے کا قرآن یاد کرنا کسی جوش مذہبی اور حسن عقیدت کا کر شمرہ تھا۔ اس کی تصدیق تو ان کے کفر کی حالت سے کرو یا کسی دنیا کی طبع سے تھا۔ نہیں نہیں بجز اس کے اور کیا آہما جا سکتا ہے کہ قرآن کی خوبی اور عمدگی نے اس پچھے کے دل پر اپنا خاص اثر کر کے اپنا سیدیا اور فریفت بنایا اور اس کے دل میں اس قدر ذوق و شوق ہو گیا کہ جو اس راست سے گذرتا وہ اُس سے شن سن کر یاد کر لیتا جس طرح آجبل بھی چھوٹے پچھے کلام کو شن من کے اپنے شوق سے یاد کر لیتے ہیں۔

^{۱۷} ابن ہشام حج اصل ۱۳ ۲۷ہ ابن ہشام ح اصل ۱۳
۲۷ہ ابن ہشام ح اصل ۱۴۔ تاریخ طبری ح ۲۱۳۲ ۲۵ہ ابن ہشام ح ۲۷۵۶ ۲۷ہ آنماں ۲۷۵۶ مبتدا ۲۷ہ بخاری سنواری۔

الغرض کسی کلام اور کتاب کے یاد کرنے اور لکھنے اور پاس محفوظاً رکھنے کے چار بہبہ ہو سکتے ہیں:
 ۱۱) اُس کے یاد کرنے میں کوئی مذہبی ثواب ہوا اور ندہبہ کی طرف سے اس کی تائید ہو۔ اگر کسی کتاب
 میں یہ خصوصیت ہو تو تنہا اسی کی وجہ سے وہ کتاب مرغوب اور پسندیدہ ہو جاتی ہے اور لوگ
 اُسے لکھنے میں اور محفوظ رکھنے میں۔

۲) کسی کتاب یا کلام کی یاد میں دنیاوی نفع یا عہدہ کی امید دلانی جائے تو اس وجہ سے بھی وہ یاد
 کی جاتی ہے جیسے آج کل نصاب امتحان کی کتابوں کی یاد میں طلبکس قدر محنت شاہاذ ہے۔

۳) کسی کے متعلق دنیاوی ضرورت ہو یا اخلاقی یا مذہبی یعنی وہ قانون تہذیب ہو یا مذہبی تو اس
 کو بھی یاد کر لیتے ہیں اور اس کی نقلیں کرتے ہیں۔

۴) جو کلام نہایت عده اور خوب ہو خصوصاً جبکہ وہ زبان اور معنی دونوں کے حسن سے آراستہ ہو اور
 بلاغت و فصاحت کے اعلیٰ زینہ پر ہو تو ایسا کلام بھی عام و خاص کی زبان پر ہوتا ہے اور عالمگیر
 شہرت اور قبولیت عام کی وجہ سے ہر شخص کے کافوں تک پہنچ جاتا ہے اور ملک کے ہر کسی کاں
 کو یاد ہو جاتا ہے۔

یہ چار وجہ ایسی ہیں کہ ان میں سے ہر ایک کلام کے یاد کرنے اور لکھنے کے لئے مستقل اور کافی دلیل
 ہے اور اس وقت اس کی ہزاروں شالیں شہادت میں پیش کی جاسکتی ہیں۔ اب جس کلام اور کتاب
 میں یہ چاروں ایسیں جمع ہو جائیں یعنی عہدہ مبارک میں قرآن پاک دنیاوی عہدوں کے لئے سند تھانہ بی
 ثواب میں کوئی عمل اس کا ہمسر نہ تھا۔ اخلاقی، تہذیبی، مذہبی قانون ہی فصاحت و بلاغت میں بھی اعلیٰ
 ہے۔ تو کیا ان تمام وجہوں کا ایک جگہ جمع ہو جانا قرآن کے لکھنے اور یاد کرنے کے لئے روشن دلیل نہیں
 اور کیا اتنے اسباب کے جاننے کے بعد بھی اس وقت میں قرآن کے لاکھوں حفاظات کے ہونے میں
 شبہ ہو سکتا ہے اور کیا یقطعی نہیں کہ اس سے بہت زیادہ تعداد میں اس وقت اس کے لئے ہو گے
 جن واقعات کی تصدیق کے لئے آن کے علل اور اسباب کی شہادت ہو تو ایسے واقعات کے
 یقین کے لئے اور ان کے باور کرنے کے لئے ہر قلب سیم اور ہر فہم مستقیم مستعد اور آمادہ
 پایا جاتا ہے اور ان واقعات کی بنیاد ایسے بلند مفہوم پہاڑ کی چٹان پر فائم ہے جہاں کسی قسم
 کی تاریکی، بطلات، کھروی کے شک و شبہ کا گرد و غبار بھی نہیں پہنچ سکتا اور نہ کسی قسم کا تزلزل
 اس میں پیدا کر سکتا ہے بلکہ یہ شبہات اور توہمات جب اس چٹان سے ٹکراتے ہیں تو خود ہی
 پاش پاش ہو کر تاریخنگوں کی طرح اڑ جاتے ہیں۔ عہدہ مبارک میں قرآن کی یاد کرنے اور لکھنے کے
 ثابت میں ان اسباب کی شہادت کے بعد اگرچہ اس امر کی ضرورت نہیں رہتی کہ آن حفاظت قرآن کا
 نام نامی بتایا جائے جن کو عہدہ اول میں قرآن یاد کھا اور ایسی طرح قرآن کے جو نئے اس وقت میں مرتب

لکھے ہوئے تھے اُن کے بتانے کی بھی حاجت نہیں لیکن مزید اطہinan اور انہمار واقعہ کے لئے ہم یہاں مناسب سمجھتے ہیں کہ اول حفاظۃ قرآن کی فہرست دیں اُس کے بعد قرآن کے اُن نسخوں کا پتہ بنائیں جو اپنے کے عہد میں لکھے گئے تھے۔

حفظۃ قرآن

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے علاوہ اُن ترغیبات کے جو قرآن کے تلاوت اور پڑھنے کے متعلق فرمائیں حفظۃ قرآن کے متعلق خصوصیت سے کیں۔

کتاب بخاری کی تفسیر میں ہے، جو شخص قرآن کا حافظ ہوا اور وہ قرآن تلاوت کرے وہ ملائکر کرام کے ہم پر ہے۔ آپ کے اس ارشاد کی تعمیل اور اپنی تکمیل کے لئے صحابہ میں اکثر کو قرآن کے حفظ کا خیال تھا اور قرآن کا جو حصہ نازل ہوتا تھا اُسے وہ حفظ کر لیتے تھے۔ زبدۃ البیان فی رسوم مصاحف عثمان میں ہے۔ کَانَ دَأْبُ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ مِنْ أَوَّلِ نُزُولِ الْوَحْيِ إِلَى أَخِيرِ الْمُسَارَعَةِ إِلَى حِفْظِهِ یعنی تمام زمان نزول وحی میں اول سے لے کر آخر تک صحابہ کرام کی یہ عادت اور معمول رہا ہے کہ وحی اور قرآن کا جو حصہ نازل ہوتا اُس کو فوراً حفظ کر لیتے۔ اسی وجہ سے صحابہ میں ہزاروں کی تعداد تھی جن کو قرآن حفظ تھا۔ چونکہ آپ کے مقدس عہد میں بہت کثرت سے حفاظۃ قرآن تھے اور مسلمانوں میں اس کا عام رواج تھا۔ ہر مسلمان کے لئے قرآن کا حفظ لازم تھا اور مسلمان اور حافظۃ قرآن ان دنوں کے ایک ہی معنی تھے۔ یہ دنوں بمنزلة الفاظ متراوہ کے ہو گئے تھے۔ اس لئے اُس وقت کے رواج کے موافق کسی مسلمان کی حالت کے بیان میں یہ نہیں کہا جاتا تھا کہ وہ حافظۃ قرآن ہے بلکہ حفظۃ قرآن کے لئے محضر مسلمان ہونا کافی تھا۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کے حالات میں اُن کے حفظ کی صفت کو اکثر میں جھوڑ دیا ہے حالانکہ اُن میں اکثر بلکہ تمام ہی قرآن کے حافظ تھے۔ اس کثرت کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ غزوہ أحد میں شہداء و اُمراء کو آنحضرت نے جب دفن کیا تو چونکہ ایک قبر میں کئی شہید آپ دفن کرتے تھے اس لئے آپ دفن سے پہلے دریافت فراتے کہ ان میں زیادہ قرآن کس کریاد ہے۔ ترمذی میں ہے۔ فَكَثُرَ الْقَتْلَى وَقَلَّتِ الشَّيَّابُ قَالَ فَلَكُفُنَ الرَّجُلُ وَالرَّجُلُ وَالثَّلَاثَةُ فِي الْغُوْبِ الْوَاحِدِ ثُمَّ يُدْفَنُونَ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ قَالَ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُ عَنْهُمْ أَيُّهُمُ الْكَثُرُ قَرآنًا فَيَقُدِّمُهُ إِلَى الْقِبْلَةِ (بخاری ص ۱۲) یعنی شہداء زیادہ تھے اور کفن کم اس لئے ایک ایک کفرے میں دو دو اور تین تین بھی رکھے گئے اور ایک قبر میں دفن کئے گئے۔ دفن کے وقت آنحضرت دریافت فرماتے کہ ان میں قرآن میں زیادہ کون ہے۔ جو زیادہ ہوتا اُسی کو قبده کی جانب مقدم کرتے۔ یہاں سے کہیں باتیں معلوم ہوئیں:

(۱) آنحضرت کے اس دریافت فرمانے سے کہ ان میں قرآن کا زیادہ حافظاً کون ہے معلوم ہوا کہ شہدائے احمد میں قرآن سب کو یاد تھا مگر فرقہ صرف ہی تھا کہ کسی کو زیادہ کسی کو کم ورنہ آپ محض کی زیادتی ہی کے دریافت فرمانے پر اکتفا نہ فرماتے بلکہ یہ بھی دریافت کرتے کہ ان میں کس کو یاد ہے اور کس کو نہیں یاد ہے۔

(۲) دوسرے قرآن ایسا عام ہو گیا تھا اور اس طرح سے وہ اسے پڑھتے پڑھاتے تھے کہ آپس میں ایک دوسرے کی حالت سے پورے واقف تھے۔ آپ کے عہد میں محض بیر معونة میں ستر حفاظ جو قرآن کی تعلیم کے لئے جا رہے تھے شہید کئے گئے۔ یہاں یہ امر قابل توجہ ہے کہ ایک چھوٹی سی جماعت کی تعلیم کے لئے مسلمانوں سے ستر حفاظ کا جانا کیا اس امر پر روشن نشان نہیں کہ اس وقت مسلمانوں میں حفاظات کی ایسی کثرت تھی جو ایک قبیلہ کے لئے ستر حفاظ تیار ہو گئے اور اسی کے ساتھ جب یہ خیال کیا جائے کہ اس وقت میں اکثر قبیلوں اور ملکوں اور قبیلوں میں حفاظت قرآن روزانہ روزانہ کئے جاتے تھے اور ہر مسلمان قبیلہ اور شہر میں آپ تعلیم کے لئے حفاظ قرآن روزانہ روزانہ فرماتے تھے۔ تو ایسی حالت میں جب ایک مقام کو اس قدر حفاظ روزانہ لکھے گئے تو دیگر قبائل اور شہروں اور خود مدینہ میں کس قدر حفاظ ہوں گے اور پھر آئندہ کی ضرورت کے داسطے بھی ضرور ایک کافی تعداد میں ہو گی درجنہ کافی تعداد نہ ہونے پر ہرگز بیر معونة کے موقع پر ستر حفاظ مدینہ سے روانہ نہ کئے جاتے اور نیز دیگر ممالک اسلام اور قبائل میں بھی ضرور اسی نسبت سے حفاظات کی تعداد ہو گی۔

سلام میں سبیلہ یا می اور مسلمانوں کا جب مقابلہ ہوا تو اس میں مدینہ کے ہباجرین اور افسار دونوں ملکر تین ٹو شہید ہوئے جس میں ستر آدمی وہ تھے جو قرآن کے حافظ تھے مورخین اسلام نے تو صحابہ کے حالات میں اس بنابر حفظ قرآن کو نہیں لکھا کہ اس وقت میں قرآن کا یاد کرنا بہت عام تھا اور یہ عام ہونے کی وجہ سے قابل ذکر و صفت ہی نہیں رہا تھا اور نہ یہ کوئی خاص اور انتیاری وصف سمجھا جاتا تھا۔ لیکن چونکہ بعض ناواقفوں کو اس سے یہ خیال ہوا کہ صحابہ میں حفاظ قرآن بہت کم تھے بلکہ اس قدر تھے جو انگلیوں پر شمار کئے جاسکتے ہیں اور نیز بعض روایات بھی ایسی ہیں جو اپنے ظاہری معنی کی رو سے اس خیال کی تائید کرتی ہیں۔ اس لئے میں یہاں چند حفاظ صحابہ کا نام لکھتا ہوں تاکہ انہیں معلوم ہو کہ ان کا یہ خیال سچائی اور واقعیت سے کہس قدر دُور ہے اور یہ روایات اپنے ظاہری معنی کی رو سے صحیح نہیں۔

(۳) عبداللہ بن عمرو بن العاص نے رحلہ میں انتقال کیا۔ اتعیاب میں ہے۔ کان فاضلا حافظاً عالمًا قَسَّ الْكِتَابَ۔ عالم فاضل حافظاً ہیں۔ قرآن پڑھاتھا۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں۔ صحابہ میں محمد سے زیادہ ان کے سوا کسی کو حدیث یاد نہ تھی۔ ان کو چونکہ رسول خدا نے احادیث کے لکھنے کی اجازت

دی تھی اس لئے یہ لکھتے تھے اور میں لکھتا نہ تھا۔ یہ رات بھر عبادت کرتے دن کو روزہ رکھتے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس سے منع فرمایا اور ایک رات میں یہ ختم قرآن نماز میں کر لیتے تھے۔ اس سے بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کیا اور فرمایا کہ سات دن میں ختم کیا کرو۔ رات میں جس قدر آن کو پڑھنا ہوتا وہ دن میں اُسے پڑھتے اور کسی کو شناختیے تاکہ رات کو سہولت ہو۔ انہیں عبداللہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے حافظ کی شکایت کی تھی کہ مجھے آپ کی احادیث یاد نہیں رہتی ہیں بھول جاتا ہوں اگر اجازت ہو تو میں انھیں لکھ لیا کروں۔ آپ نے بعض انھیں کو حدیث کے لکھنے کی اجازت دی۔ اس لئے ان کے سوا صحابہ میں کسی نے حدیث نہیں لکھی۔ عبداللہ کو جو تمام یہ ضعیف الحفظ تھے جب پورا قرآن یاد تھا تو کیا درستے صحابہ نے جن کا حافظ قوی تھا یاد کیا ہو گا اور جب کہ قرآن تھوڑا تھوڑا بتدریج ۲۳ سال میں اسی لئے نازل ہوا تاکہ یاد میں آسانی ہو۔ چنانچہ قرآن کے بتدریج نازل ہونے اور ایک بارہ نازل ہونے میں خود قرآن نے بھی یہی مصلحت بیان کی ہے۔ قرآن ایک میں ہے۔ **لَوْلَا نَزَّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لَنْ يَكُنْتَ بِهِ نُؤَدِّكَ وَرَتَلَنَا هُنْ تَرْتِيلًا** (فرقان۔ رکوع ۲ جز ۱۹) یعنی کافروں نے اعتراض کیا کہ تمام قرآن ایک دفعہ ہی کیوں نہ نازل ہوا تو خود قرآن ہی نے اس کے جواب میں کہا کہ تھوڑا تھوڑا اس لئے نازل ہوا تاکہ یاد ہو جائے۔ خیشمہ ایک روز عبداللہ کے یہاں گئے تو دیکھا کہ وہ قرآن شریف کھولے ہوئے اُس میں تلاوت کر رہے ہیں۔ دریافت کیا تو کہا کہ رات کو جو تہجد میں پڑھوں گا اُس کا درد کر رہا ہو۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ ان کے پاس پورا قرآن لکھا ہوا بھی تھا۔

(۲) قیس بن مصطفیٰ قیس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ میں کتنے روز میں قرآن ختم کیا کروں۔ فرمایا پندرہ راتوں میں۔ عرض کیا حضرت میں اس سے کم میں بلا مشقت پڑھ سکتا ہوں۔ فرمایا ہر ہفتے میں۔ پھر عرض کیا کہ اس سے کم میں پڑھ سکتا ہوں۔ فرمایا بس اس سے کم میں نہیں یہ۔

(۳) سعد بن المذر بن اوس۔ سعد نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ تین روز میں قرآن ختم کرنے کی اجازت فرمائی۔ فرمایا اگر ہو سکے تو بہتر ہے۔

(۴) عبداللہ بن عمر بن الخطاب۔ نبی میں ہے۔ ابن عمر کہتے ہیں کہ مجھے قرآن یاد تھا اور ایک رات میں اُسے ختم کیا کرتا تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا تو آپ نے منع کیا اور ایک ماہ میں ختم کا حکم دیا۔

لئے بخاری نھائی قرآن ۳۷ طبقات ابن سعد ۳۷ استیعاب ج ۲ ص ۵۶۔ کنز العمال ج ۱ ص ۲۲۔ تاریخ افغانستان مذاہب ای۔ ۳۷ نسخ ابشاری، اسد الغاب۔ ۳۷ نسخ ابشاری ج ۹ ص ۳۷۔

(۸) عقبہ بن عامر الجبھی۔ یہ فقہار صحابہ میں بڑے علماء اور فاضل تھے۔ انہوں نے تمام قرآن اپنے ہاتھ سے لکھا تھا۔ ان کا لکھا ہوا قرآن مصر میں خود یونس نے دیکھا ہے۔ انھیں بھی پورا قرآن یاد تھا۔
(تذکرۃ الحفاظات ج ۱ ص ۲۳)

(۹) ابوالدرداء۔ فقہار صحابہ میں تھے۔ بڑے علماء فاضل تھے۔ دمشق میں قرآن کا درس دیتے تھے۔ انہوں نے قرآن رسول خدا سے یاد کیا تھا۔ **أَحَدُ الَّذِينَ جَمَعُوا الْقُرْآنَ حِفْظًا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ** تھے۔ اللہ علیہ وسلم پڑا خلاف۔ (مفتاح السعادہ ج ۱ ص ۲۵) قرآن کے ان حافظوں میں سے جنہوں نے آنحضرت کے عہد میں قرآن حفظ کیا تھا، ابوالدرداء بھی ہیں۔

(۱۰) قیسم داری۔ یہ اہل کتاب کے علماء میں سے تھے۔ ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ دیتے تھے۔ خلیفہ دوم نے اپنے عہد میں رمضان میں مردوں کے لئے انھیں امام مقرر کیا تھا۔ تراویح بھی پڑھاتے تھے۔ وہ تہجد میں ان کا معمول تھا کہ سات رات میں قرآن ختم کرتے تھے۔

(۱۱) معاذ بن الحارث الانصاری۔ یہ قاری ہی کے نام سے مشہور ہیں۔ خلیفہ دوم نے انھیں بھی رمضان میں تراویح پڑھانے کے لئے مقرر کیا تھا۔ وہ

(۱۲) عبد اللہ بن سائب۔ یہ بھی قاری کے نام سے مشہور ہیں۔ لکھ مغلزی میں قرآن کا درس دیتے تھے۔ اہل مکہ نے ان سے قرآن پڑھا۔

(۱۳) سلیمان بن ابی حشر۔ یہ بھی حافظ قرآن تھے۔ خلیفہ دوم نے انھیں رمضان میں عورتوں کو قرآن سنانے کے لئے مقرر کیا تھا۔ اور خلیفہ سوم نے اپنے عہد میں مردوں عورتوں کا امام انھیں کو رمضان میں تراویح کا مقرر کیا تھا۔

(۱۴) ابی بن کعب۔ تذکرۃ الحفاظات میں علماء فاضل میں ان کے متعلق جو لکھا ہم بھی انھیں کے الفاظ لکھتے ہیں۔ **أَقْرَدُ الْعَصَابَةَ وَسَيِّدُ الْقُرْآنِ**۔ قرآن علی الشیعی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قاریوں کے سرپرست۔ صحابہ میں قرآن کے زیادہ واقف۔ رسول خدا سے قرآن پڑھا۔ انھیں کو رسول نہ اصلی شد علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری امت میں قرآن کا قاری ابھی سے زیادہ کوئی نہیں ہے۔ آپ کے عہد میں قرآن کا درس دیتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے عہد میں رمضان میں قرآن سنانے کے لئے انھیں بھی مقرر کیا تھا۔ وہ تہجد میں آٹھ رات میں ختم کرتے تھے۔ (طبقات قسم ۲ ج ۳ ص ۵۹)

(۱۵) زید بن ثابت۔ ذہبی نے اپنے تذکرہ میں ان کے متعلق لکھا ہے۔ **مِنَ الرَّاسِخِينَ فِي الْعِلْمِ كَتَبَ الْوَحْيَ وَحَفِظَ الْقُرْآنَ دَأْتَقْتَهُ** (ج ۱ ص ۲) یہ علماء راسخین سے ہیں۔ کاتب وحی تھے قرآن حفظ تھا۔

لہ تہذیب التہذیب ج ۱ ص ۲۳ تہذیب الحفاظات ج ۱ ص ۲۳
لہ طبقات ابن سعد ج ۱ ص ۲۳ طبقات قسم ۲ ج ۳ ص ۵۹ لہ تہذیب التہذیب ج ۱ ص ۲۳
لہ استیاب ج ۱ ص ۲۳ استاذاب ج ۱ ص ۲۳ طبقات ج ۱ ص ۲۳ لہ طبقات ابن سعد ج ۱ ص ۲۳

(۱۲) معاذ بن جبل۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عبید میں ان کو قرآن کا معلم مقرر کیا اور عاصم طور سے یہ کہہ دیا کہ ان سے قرآن پڑھو۔ میں میں قرآن کی تعلیم پیٹئے ان کو بھیجا اور نیز وہاں کا قاضی بھی ان کو مقرر کیا اور پہلے وقت دریافت فرمایا کہ فیصلہ کس طرح کرو گے۔ معاذ نے عرض کیا۔ قرآن سے، اگر قرآن سے حکم نہ معلوم ہو گا تو پھر اپنے اجتہاد سے فیصلہ دوں گا۔ اس سے ثابت ہوا کہ قرآن انھیں یاد تھا۔ ورنہ یہ کہنا کہ فیصلہ قرآن سے دوں گا اور اگر قرآن میں نہ ہو تو رائے سے کروں گا بلکہ قرآن یاد کئے کیونکہ صحیح ہو گا۔ دوسرے ان کو قرآن کا مدرس بنانا بھی اسی وقت صحیح ہو گا جبکہ انھیں قرآن یاد ہو۔ علاوہ اس کے ان کے حافظ ہونے پر تمام کا اتفاق ہے۔

(۱۳) سعد بن عبد بن ثعلب بن انصاری۔ یہ بھی حافظ قرآن ہیں اور یہ فارقی کے لقب سے مشہور ہیں ان کو سعد انصاری کہتے ہیں۔ اسد الغابات میں ہے۔ دھو اول من جمع القرآن من الانصار۔ یہ انصار میں پہلے وہ شخص ہیں جنھوں نے قرآن یاد کیا۔ لہ

(۱۴) مسلمہ بن خلدون الحصامت۔ مجہا ہر کہتے ہیں کہ میں سمجھا تھا کہ مجھے قرآن تمام سے اچھا اور بہتر یاد ہے۔ لیکن سلطنت نے جب صحیح کی نماز میں پوری سورہ بقر پڑھی اور اُس میں کسی قسم کی غلطی نہ کی تو میں سمجھا کہ اُن کو بھی عذر یاد ہے۔ یہ

(۱۵) عثمان بن عفان۔ ابن سیرین کا بیان ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ لیا کرتے تھے۔

أَحَدُ مَنْ جَمَعَ الْقُرْآنَ عَلَى عَرْهَدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَغَرَضُ عَلَيْهِ الْقُرْآنَ الْمُغَيْرَةُ بْنُ إِنِي شَهَابٌ الْمَخْزُوذِيُّ وَابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنُ زَرْبَنْ حَبِيبٌ وَابْنُ الْأَسْوَدِ الْمَخْرَجِيُّ
۱۰۷۶

ترجمہ: مسیحہ ان لوگوں کے جنھوں نے رسالت آب کے زمانے میں قرآن جمع کیا تھا حضرت عثمان بھی ہیں۔ اُن کو مغیرہ، ابو عبد الرحمن، زربن حبیب اور ابوالاسود درملی نے قرآن سنبھالا۔

(۱۶) عبد اللہ ابن مسعود۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عبید میں بھی ان کو قرآن پڑھانے پر مقرر فرمایا تھا۔ سعادی کی دستور الاعلام میں ہے۔ ابن مسعود و الصحاہی الجیلیں الکثیر
المناقب احمد القراء الأربع عشر و علماء الصحابة یعنی ابن مسعود جیلیں القدر صحابہ میں سے ہیں جو بڑے کمالات کے جامع ہیں مسجد جودہ حفاظ اقرآن کے ایک بھی ہیں۔

رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں قرآن کا جو دو رکیا تھا۔ اس میں شرک تھے عزفات میں کوفہ کا ایک شخص خلیفہ روم سے تھا اور کہا کہ کوفہ میں ایک شخص ہے جو اپنے یاد سے قرآن پڑھاتا ہے۔

۱۰۷۷ استیعاب ج ۱۰۷۷ تہذیب التہذیب، ج ۱۰۷۷ استیعاب ج ۱۰۷۷ شہ بخاری مناقب۔

یا نقل کرتا ہے اس پر خلیفہ دوم نے نہایت غضبناک ہو کر فرمایا وہ کون شخص ہے اُس نے عرض کیا
ابن سعید اس نام کو شن کر خلیفہ دوم کا غصہ فرد ہو گیا یہ
یہاں سے معلوم ہوا کہ خلیفہ دوم کے عہد میں قرآن کے یاد سے پڑھانے کا رواج نہ تھا بلکہ دیکھ کر
پڑھا جاتا تھا یا محض یاد سے قرآن لکھنے کا رواج نہ تھا۔

(۱۸) سالم مولیٰ ابی مذیفہ۔ انھیں بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عہد میں قرآن کا علم
مقرر کیا تھا۔ مورخین نے حفاظت قرآن کی فہرست میں ان کا نام بھی لکھا ہے۔

(۱۹) **أَبُوبَكْر الصدِيقُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ نَصَرَ الْإِمَامُ أَبُو الْحَسِنِ الْأَشْعَرِيَ عَنِ حِفْظِهِ
الْقُرْآنَ وَاسْتَدَلَ عَلَى ذَلِكَ بِدَرِيْلِ لَا يُرَدُّ وَهُوَ أَدْهَمُ صَحْوَةٍ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ
قَالَ يُؤْمِنُ الْقَوْمُ أَفْرَاهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ وَأَكْثَرُهُمْ قُرَآنًا وَتَوَاتَرَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ
قَدَّمَهُ لِلْإِمَامَةِ وَلَمْ يَكُنْ لِيَامُرْ بِأَمْرِ شَيْءٍ يُخَالِفَهُ بِلَا سَبَبَتْ.**

ترجمہ:- ابو بکر الصدیق رض۔ امام ابو الحسن اشعری نے حضرت ابو بکر صدیق رض کے حافظ قرآن ہونے
کی تصریح کی ہے کیونکہ اکنہ نہیں نے تا انون مقرر کیا تھا کہ جس کو قرآن زیادہ یاد ہو وہ نماز میں امام ہو۔
پھر اکنہ نے دیگر ایسے صحابہ کی موجودگی میں کہ جنھیں قرآن یاد تھا حضرت ابو بکر رض کو نماز کا امام
مقرر فرمایا تو اس سے ظاہر ہے کہ حضرت ابو بکر رض کو پورا قرآن یاد تھا۔

(۲۰) **عَلَى بْنِ ابِي طَالِبٍ رَغْنَى اللَّهُ عَنْهُ عَرَضَ الْقُرْآنَ عَلَى الشَّبِيْعِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَصُوْمَنَ الَّذِيْنَ حَفِظُوا الْقُرْآنَ أَجْمَعَ بِلَا شَيْءٍ عِنْدَنَا وَقَدْ أَبْعَدَ الشَّعَبِيِّ فِي قَوْلِهِ أَنَّهُ لَمْ
يَحْفَظْهُ قَالَ يَحْيَى بْنُ أَدْمَ قَلْتُ لِابْنِ بَكْرٍ بْنِ عِيَاشٍ يَقُولُونَ أَنَّ عَلِيًّا لَمْ يَقْرَأْ الْقُرْآنَ فَقَالَ
أَبْطَلَ مَنْ قَالَ هَذَا.**

ترجمہ:- علی بن ابی طالب حضرت علی نے تمام قرآن اکنہ نے پڑھا اور منجمد ان کے
جنھیں پورا قرآن یاد تھا یہ بھی میں امام شعبی کو اس شخص پر نہایت ہی حیرت ہے جو کہتا ہے کہ حضرت
علی کو پورا قرآن یاد نہ تھا۔ یہی بن آدم کہتے ہیں کہ میں نے ابو بکر بن عیاش سے دریافت کیا کہ لوگ کہتے
ہیں کہ حضرت علی کو قرآن یاد نہ تھا کہا کہ یہ قول باطل ہے۔

ترمذی کی جلد ثانی میں ہے کہ حضرت علی نے اکنہ نے اکنہ نے سو و حفظ کی شکایت کی اور عرض
کیا کہ قرآن مجھے یاد نہیں رہتا۔ اکنہ نے ایک دعا بتلائی۔ بعد میں حضرت علی پھر ما فڑ ہوئے اور عرض
کیا کہ پہلے چار آیت بھی یاد نہیں ہوتی تھیں اور اب اس دلکے پڑھنے کے بعد سے چالیس آیات اس
طرح سے نہایت عمدہ یاد ہو جاتی ہیں کہ گویا قرآن میرے سامنے رکھا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ

حضرت علی نے قرآن یاد کیا تھا۔

(۲۱) تَعْمِلُونَ الْخَنَّابَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَبُو الْعَالِيَّةُ دَسَّسَ صَحِيحَهُ قِرَاءَتُ الْقُرْآنَ عَلَى عَمْرَأَرْبَعَ مَرَّاتٍ لَمَّا أَبْوَالَعَالِيَّهُ كَہتَهُ بِہِ مِنْ كَمْ نَفَعَ حَضْرَتُ عُمَرٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَوْچَارَ بَارَ قُرْآنَ سَنَا يَا۔

(۲۲) طَلْحَوْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (۲۳) سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (۲۴) حَذِيفَةُ بْنُ الْيَمَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (۲۵) أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (۲۶) عَبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (۲۷) أَبُو حَمِيرٍ مَعَاذُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

(۲۸) مُجَمِعُ بْنُ حَارِشَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (۲۹) فَضَالَةُ بْنُ عَبِيدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ۔

(۳۰) أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَفْظَ الْقُرْآنَ وَعَرْضَهُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (مفتاح ج ۱ ص ۵۵)

ابُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ۔ تمام قرآن حفظ کیا اور آنحضرت کو سنا یا۔

(۳۱) عَزِيزُ بْنُ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (۳۲) سَعْدُ بْنُ عَبَادَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (۳۳) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (۳۴) أَبُو الْيَوبِ الْأَنصَارِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (۳۵) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ذَوِ الْجَوَادِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (۳۶) عَبِيدُ بْنُ مَعَاوِيَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابَتٍ (۳۷) أَبُوزَيْدَ فَهْرَسَتِ إِبْنَ نَدِيمٍ۔

ان کے علاوہ اُس وقت کے حفاظات کا پتا اس سے چلتا ہے اور صحابہ میں حفاظات قرآن کی تعداد پر اس سے کافی روشنی پڑتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے سردارانہ شکر کو لکھا کہ ہر شخص اپنے اپنے یہاں کے حفاظات قرآن کی فہرست مرتب کر کے بھیجے تاکہ میں ان کے مرتبہ کے موافق بیت المال سے ان کا وظیفہ مقرر کروں اور بارا در اسلامیہ میں انھیں تعلیم قرآن کے لئے بھیجنوں۔ حضرت موسیٰ اشعری نے تنہا اپنے یہاں سے تین سو سے کچھ اور پہلی کی فہرست دی۔ (کنز العماں ج ۱ ص ۲۱)

نساء (۱) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا (۲) حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا (۳) ام سلمہ رضی اللہ عنہا (۴) ام ورقہ بنت نوفل رضی اللہ عنہا۔ ابو داؤد میں ہے۔ وکانت قد قرآن (باب امامۃ النساء) یعنی ام ورقہ نے پورا قرآن پڑھا تھا۔

نمبر ۱۹ سے آخر تک کے نام۔ ابن حجر نے بخاری کی شریت میں اور علامہ عینی نے شرح بخاری میں اور اتقان میں علامہ سیوطی نے مع حوار نقل کئے ہیں۔ علامہ ذہبی طبقات القراءی میں لکھتے ہیں۔

فَامَّا مَنْ حَفِظَهُ كُلَّهُ مِنْهُمْ وَغَرَّصَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَاءَ مِنْ بَعْبَادِ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّدَّ بُوَالْقَرَائِبِ وَأَنْتَصَبُوا لِلَّادَائِبِ فَكَانَ مِنْ جُمِلَتِهِمْ سَبْعَةُ أَمْمَةٍ أَعْلَامَهُ دَارَتْ عَلَيْهِمْ أَسَانِيدُ الْقُرْآنِ۔ یعنی صحابہ میں جن کو پورا قرآن یاد تھا اور آنحضرت کو بھی انھوں نے تمام سنا یا تھا وہ جیلیں القدر صحابہ کی ایک ایسی جماعت تھی جو قرآن کو پڑھاتی تھی میջے

اُن ہی کے قرار بعد بھی ہیں جن کی سند سے آج تک قرآن تمام بلا اسلامیہ میں پڑھایا جاتا ہے۔

علام رذہبی کے جو فین تاریخ خصوصاً رجال کے بڑے ماہر ہیں اور صحابہ کے حالات سے بڑے داقف ہیں اور تذکرۃ الحفاظ ان ہی کی ہے۔ اس کلام سے ثابت ہوا کہ صحابہ میں بہت سے صحابی رہ تھے جو قرآن کے حافظ تھے اور محض حافظ ہی نہ تھے بلکہ آخر پرست کو بھی پورا قرآن سنا یا تھا اور پھر انہی سے تمام دنیا میں قرآن شائع ہوا آج جو قرآن پڑھا یا جاتا ہے یہ وہی ہے جو ان صحابہ نے پڑھایا ہے اور ان کو آخر پرست نہیں۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ تمام قرآن آخر پرست ہی کے عہد میں مرتب تھا۔ امام بخاری وغیرہ نے جو انس سے یہ نقل کیا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ابی بن کعب، معاذ، زید، ابو زید۔ ان چار کے سوا کسی نے قرآن جمع نہیں کیا تھا اور دوسرا بیان انس سے یہ بھی ہے کہ ان چار نے قرآن جمع کیا اور بھائے ابی کے بعض نے انس سے ابوالدردار کا نام نقل کیا ہے۔ یہ بیان ظاہر میں ذہبی کے اس بیان کے مخالف ہے کہ صحابہ میں علاوہ دیگر صحابہ کے ایک گماعت صحابہ کی ایسی تھی جنہیں پورا قرآن حفظ کیا اور انہوں نے آخر پرست کو پورا قرآن سنا یا ہی تھا، جن میں سات قرار بسہ بھی ہیں اور نیز ہماری اس تحقیق کی بھی مخالف ہے کہ صحابہ میں حفاظ قرآن بہت تھے۔ اس میں شک نہیں کہ یہ روایت انس کی صیحہ ہے مگر یہ روایت اس تحقیق کے مخالف ہرگز نہیں ہے۔ ہاں اگر اس روایت میں، یہ ہوتا کہ ان چار نے قرآن حفظ کیا تھا تو البتہ مخالف تھے مگر اس روایت میں تو یہ ہے کہ ان چار نے جمع کیا تھا اور جمع کے معنی لنت میں لیکھا اور لکھا کرنے کے ہیں۔ بخاری میں ہے۔ اَنَّ عَلَيْنَا جَمْعَةً وَقُرْآنَهُ تَالِيفٌ بَعْضُهُ إِلَى بَعْضٍ فَإِذَا قَرَأَهُ فَأَتَبَعَهُ قُرْآنٌ وَفَإِذَا جَمَعْنَاهُ وَالْفَنَاهُ فَأَتَبَعَ قُرْآنَهُ مَأْجُومَهُ فِيهِ وَيُقَالُ لَنِسَ لِشِعْرٍ وَقُرْآنٌ أَعْلَى تَالِيفٍ۔ اسی نے حضرت عثمان یا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو جامع القرآن مشہور کرتے ہیں۔ انس کے اس کلام کا حاصل مرف یہ ہے کہ ان چار نے عہد مبارک میں قرآن کو لکھ کر جمع کیا تھا۔ جیسا اسی حدیث میں انس کے اس کہنے سے ثابت ہوتا ہے کہ ابو زید کے مرنے کے بعد چونکہ ان کی اولاد میں کوئی نہ تھا اور میں اُن کا رشتہ دار تھا اس نے اُن کا قرآن مجھے ترک میں بلا اور میں اس کا وارث ہوا۔ حدیث بخاری کے الفاظ یہ ہیں:-

قَالَ مَاتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَخَرَجَ مُجْمِعُ الْقُرْآنِ عَلَيْهِ أَسْبَعَهُ أَبُو الْدَرْدَاءُ وَمَعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَأَبُو زَيْدٍ۔ قَالَ وَلَخَنَ وَرِشَنَةً۔ لِيُعْنِي أَخْبَرَتْ كَانَتْ قَالَ ہوا اور ان چار کے سوا کسی نے قرآن جمع نہیں کیا تھا۔ ابوالدردار، معاذ، زید، ابو زید۔ اور ابو زید کے قرآن کا وارث میں ہوا جو انس کے اس کلام سے یہ سمجھتے ہیں کہ ان چار کے سوا کسی کو قرآن یا رسم تھا ان کو امورِ دل پر غور کرنا لازم ہے تاکہ وہ اپنی غلطی پر متنیت ہوں اور اس نخش غلطی سے محفوظ رہیں۔

(۱) جمع کے معنی ضم اور تالیف کے ہیں۔ جو کتابت کے ہم معنی ہے مخفظاً اور یاد کے البتہ حفظاً

پر جمع کا استعمال مجاز ہے نہ حقیقت اور اصل یہ ہے کہ ہر لفظ کے معنی اول حقیقی لیں گے۔ ہاں کسی وجہ سے حقیقی معنی کا لینا صیحہ نہ ہو تو دوسرے مجازی معنی لے سکتے ہیں یہاں کوئی وجہ ایسی نہیں کہ معنی حقیقی جمع کے نہ لیں۔ بلکہ معنی حقیقی نہ لینے میں یہ روایت غلط ہوگی۔ کیونکہ حفاظۃ قرآن صحابہ میں چار کے سوابہ بت تھے جیسا کہ علامہ ذہبی بیان کرتے ہیں۔

(۲) اگر جمع کے معنی یہاں حفظ کے لئے جائیں اور کہا جائے کہ حافظۃ قرآن چار تھے تو اس وقت میں انس کا یہ کہنا غلط ہوگا جیسا ہمارے اس بیان سے واضح ہے اور یہ خیال ممکن ہے کہ انس کو ان چار کے سوا کی یاد کا علم نہ ہو۔ اور انس ٹھنے اپنے علم کے مطابق ان چار کا نام یا تو اس کے متعلق صرف یہ کہنا کافی ہو گا کہ انس کے اس بیان میں کوئی ایسا لفظ نہیں جس سے یہ معلوم ہو کہ انس کو اپنی معلومات کی حکایت اور بیان مقصود ہے نہ ایک دلائقیات کا ظاہر کرنا مقصود ہے اور اگر اس قسم کے معنی کی مورخ کے کلام میں گنجائش ہو اور تاریخ کے یہی معنی ہوں کہ مورخ اپنے علم اور معلومات کو ظاہر کرے تو پھر کبھی کسی مورخ سے تاریخی غلطی ممکن نہیں۔ ہاں یہ ممکن ہے کہ یہ روایت غلط ہے یہم کی جادے اس لئے کہ حفاظۃ قرآن کا چار سے زیادہ ہونا ایسا یقینی اور مفہوم طہر ہے کہ اس میں کسی قسم کے احتمال اور شک شبه کی راہ باقی نہیں۔

(۳) انس کا ابو زید کے متعلق یہ کہنا دَمْخُنُ دَرِشَنَاهُ یعنی ہم اس کے قرآن کے وارث ہوئے اس امر کی روشن ثابتی ہے کہ انس کی غرض یہ ہے کہ ان چاروں نے عہد مبارک میں تمام وکال قرآن لکھ کر جمع کیا تھا اور ابو زید کے لکھنے ہوئے قرآن کے انس وارث ہوئے۔ کیونکہ انس ابو زید کے زمانہ دا تھے۔ اس لئے ابو زید کا لکھا ہوا قرآن انس کو ملا اور ان کے ترک کے وارث انس ٹھہرئے اور یہ اس لئے کہ ابو زید کے بعد کوئی اُن کا وارث انس سے قریب تر نہ تھا۔ انس کے اس کلام کے اگرچہ یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ انس ابو زید کے وال کے وارث ہوئے نہ قرآن کے لیکن اس صورت میں انس کا یہ کلام پہلے کلام سے بے تعلق ہوگا اور اس جملہ کو پہلے کلام سے کوئی رابطہ نہ ہوگا اور وراثت قرآن اگر مراد ہو تو اس میں چاروں کے لکھنے پر شہادت ہوگی اور جمع کے معنی کی توضیح ہوگی کہ اس کے معنی لکھنے کے میں نہ یاد کے۔ اور انس کا یہ مقصود ہو گا کہ ان چاروں شخصوں میں سے ایک مجھ تک بھی پہنچا تھا جس کو میں نے پکشہ خود دیکھا جس سے غرض روایت کی توثیق ہے۔ پھر ظاہرا اور مرتبط کلام اور معنی سے گزینہ کر کے ایسے معنی لینا جو بے تعلق اور غیر مفہد ہیں اس کی کوئی وجہ نہیں۔

(۴) ابن کعب، ابن مسعود، سالم مولیٰ ابی حذیفہ، عبداللہ بن عمر و بن العاص وغیرہ اُن حفاظۃ میں ہیں جن کا نام حفاظۃ کی فہرست میں سُنہرے حروف میں مولیے قلم سے سرفہرست تھا۔ مدینہ والوں میں کوئی ایسا نہیں ہو سکتا جو ان کے اس کمال سے ناواقف ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عامہ اعلان

دے دیا تھا کہ پہلے انہیں سے لوگ قرآن پڑھیں اور اُنہوں نے اپنے کا خطاب بھی آپ عز و جل کے تھے اور اُنہیں کے اس خطاب سے بھی کوئی نادائقت نہ تھا۔ انس رضوی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص خادم اور ہر وقت کے حافظ باش تھے تجھے تجھے کہ اُنہیں سے واقعہ نہ ہوں اور ایسا کہیں کہ ان چاروں کے سوا کوئی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک عہد میں حافظ قرآن نہ تھا۔

(۵) انس کا یہ بیان مختلف ہے۔ قتادہ نے اپنی روایت میں چار شخصوں کا نام لیا ہے ان میں ابی ہیں لیکن ثابت کی روایت میں بجائے ابی کے، ابو الدردہ ابی ہیں۔ دوسرے قتادہ نے اپنی روایات میں انہیں چار میں حصہ نہیں کیا؛ اب اب نے حصہ کیا ہے۔ دونوں روایتیں بخاری میں موجود ہیں۔ باقی انس کا ان چار کو خاص کرنا اور یہ کہنا کہ انہی چار نے قرآن لکھا تھا حالانکہ اور بھی صواب ایسے تھے جنہوں نے پورا قرآن لکھا تھا۔ اس کی مفصل بحث آئندہ معلوم ہوگی۔

قرآن کی کتابت

یہاں میں امر قابل بحث ہیں۔ (۱) قرآن کے لکھوانے میں جن امور کی ضرورت تھی وہ آلات اُس وقت تھے یا نہیں (۲) رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں یہ امر ضروری تھا یا نہیں کہ مسلمان قرآن کو تمام و کمال لکھتے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم خود تمام قرآن کو لکھوادیتے (۳) رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اس وقت کے مسلمانوں نے قرآن کو لکھایا لکھوایا تھا یا نہیں۔

پہلا امر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں آلات کتابت کا ہونا۔ کتابت میں دو امر کا ہونا ضروری ہے۔ اول ایسے اشخاص جو لکھنا پڑھنا جانتے ہوں دوسرے وہ شے جس پر لکھنا جاسکے۔ عرب میں گو کتابت کافن کم تھا اور اس کا زیادہ رواج نہ تھا لیکن اب مکہ میں کچھ لوگ اس کو ضرور جانتے تھے اور اور جگہوں سے یہاں اس کا رواج زیادہ تھا۔ طبقات ابن سعدج اقسام ۲ ص ۳۷ میں ہے کہ اب مکہ کتابت جانتے تھے۔ اور اب مدینہ واقعہ نہ تھے۔ علام شبیل کے الفاردق میں ہے کہ صرف قریش میں ۷۰۰ آدمی لکھنا جانتے تھے۔ غیر مسلمانوں میں بہت سے وہ لوگ تھے جو اسلام کے پہلے سے لکھنا پڑتا جانتے تھے۔ یہاں طبقات ابن سعد سے بعض کے نام ہم بھی لکھتے ہیں۔

(۱) ابو بیس بن حیرا مسم عبد الرحمن یکتب بالعربيۃ قبل الاسلام و کانت الکتابۃ فی العرب قلیلاً۔ طبقات قسم ثانی ج ۳ ص ۳۷۔ یہ اسلام کے پہلے ہی سے لکھنا جانتے تھے حالانکہ اس وقت اس کا رواج کم تھا۔

(۲) و كان أبا يكتب في الجاهلية قبل الاسلام و كانت الكتابة في العرب قليلاً۔ طبقات قسم ثانی ج ۳ ص ۴۹۔ ابی، اسلام کے پہلے سے لکھنا جانتے تھے جسکا اس کا رواج کم تھا۔

(۳) سعدُ بْنُ الرَّبِيعٍ يَكْتُبُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَتِ الْكِتَابَةُ قَلِيلًا طبقات قسم ثانی ج ۲ ص ۴۷
سعد اسلام کے قبل سے لکھنا جانتے تھے جبکہ اس کا روایج کم تھا۔
(۴) شهْرُونُ سَعِيدٌ يَكْتُبُ بِالْعَرَبِيَّةِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَتِ الْكِتَابَةُ فِي الْعَرَبِ قَلِيلًا۔۔۔
طبقات قسم ثانی ج ۲ ص ۴۸ شہر اسلام کے پہلے سے لکھتے تھے جبکہ اس کا روایج کم تھا۔
(۵) عبدُ الشَّرِيفِ زَيْدٍ يَكْتُبُ بِالْعَرَبِيَّةِ قَبْلَ إِسْلَامٍ طبقات قسم ثانی ج ۲ ص ۴۹ ابن زید اسلام کے پہلے سے لکھتے تھے۔

(۶) اوس بن خولی يَكْتُبُ بِالْعَرَبِيَّةِ قَبْلَ إِسْلَامٍ طبقات قسم ثانی ج ۲ اوس اسلام کے قبل سے لکھنا جانتے تھے۔
(۷) المُنْذَرُ بْنُ عَمْرٍو يَكْتُبُ بِالْعَرَبِيَّةِ قَبْلَ إِسْلَامٍ طبقات قسم ثانی ج ۲ ص ۵۰ منذر اسلام کے قبل سے لکھنا جانتے تھے۔
(۸) أَسِيدُ بْنُ حُضَيْرٍ يَكْتُبُ بِالْعَرَبِيَّةِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ طبقات قسم ثانی ج ۲ ص ۵۱۔۔۔
اسید کفرہی کے وقت میں لکھنا جانتے تھے۔
(۹) سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَكْتُبُ بِالْعَرَبِيَّةِ طبقات قسم ثانی ج ۲ ص ۵۲
سعد کفرہی میں لکھ لیتے تھے۔

(۱۰) رَافِعُ بْنُ مَالِكٍ مِنَ الْكَشْلَةِ وَكَانَ الْكَاملُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ الَّذِي يَكْتُبُ وَمُحِينُ الْعَوْمَ
وَالْأَرْقَى وَكَانَ رَافِعٌ كَذِيلُ وَكَانَتِ الْكِتَابَةُ فِي الْقَوْمِ قَلِيلًا۔ طبقات قسم ثانی ج ۲ ص ۵۳
علاوه ان دس کے اور بھی صحابہ میں بہت سے تھے جو لکھنا اسلام کے پہلے سے جانتے تھے جن میں غلطًا
اربعہ بھی ہیں۔ اب اس کے بعد یا مر بھی قابل لحاظ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر رب میں اول جو
مازل ہوا تھا اس میں یہ بھی ہے۔ اقْرَأْهُ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَمَ بِالْقَلِيمِ عَلَمَ الْإِنْسَانَ فَالَّمَ يَعْلَمُ
یعنی خدا ایسا کریم ہے جس نے تحریر کے ذریعہ سے وہ باتیں بتلائیں جن کا اس کو علم نہ تھا۔ یہاں
مسلمانوں کو سب میں پہلے اس انعام پر توجہ دلائی گئی کہ اُن کو لکھنا بتلایا جس سے صاف ظاہر ہے
کہ انسان کے تمام کمالات میں یہ اعلیٰ اور مقدم ہے اور اسی آیت سے یہ بھی قطعاً ثابت ہے کہ
مسلمانوں کو سب میں پہلے اسی کو حاصل کرنا چاہیئے اور وہ تحریر کو اور وہ سے پہلے حاصل کریں۔
ہجرت کے قبل مکہ میں مسلمانوں نے اس حکم کی تعمیل کی یا نہیں اگرچہ تاریخی صفات اس کے جواب
میں ساکت ہیں لیکن جبکہ ہم معلوم ہے کہ لکھنا پڑھنا ایسا کمال ہے کہ ہر انسان میں فطرتی اس کا
ذوق اور میلان ہے اور مکہ میں ایسے آدمی خود اہل اسلام میں بھی تھے جو اس کو جانتے تھے۔ پھر ایسی صورت

لئے رافتے ہو، کمال سے تھے اور اس وقت کاں دشمن شمار کیا جاتا تھا اسرا جو لکھنا جانتا ہوا دریغہ اور تیراندازی میں کاں رکھتا ہوا۔

میں مذہب کی طرف سے بھی جب مسلمانوں کو اس کا حکم ملے تو اب ہمارے پاس کوئی مند ایسی نہیں ہے جس کی رو سے یہ کہا جائے کہ مسلمانوں نے اس طرف توجہ نہیں کی خصوصاً جبکہ خود تاریخ ہی ہمیں بتاتی ہے کہ مسلمانوں نے باوجود کشاکشی اور سخت رُکاوٹ اور مصائب برداشت کرنے کے اپنی مذہبی امور کی کامل پابندی کی۔ جو لوگ واقعات پر ان کے اسباب دلل کی راہ سے پہنچتے ہیں اور فی الحقيقة پر راستہ نہایت پُر امن اور پلا خوف و خطر ہے جس سے منزلِ مقصود بہت قریب ہو جاتی ہے۔ ایسے لوگوں کے لئے یہاں یہ راستہ کھلا ہوا ہے اور یہاں سے وہ اس امر پر نہایت آسانی سے پہنچ سکتے ہیں کہ ہلام لے اپنے مکہ کی زندگی میں ضرور ایک جماعت ان لوگوں کی تیار کی جن کو لکھنا پڑھنا آتا ہو۔ مکہ کی زندگی کو اسلام کے لئے نہایت بے اطمینانی اور خطرے کی تھی جس میں ایک محر کے لئے بھی وہ بخوب اور امن میں نہ تھے اس لئے وہ اس کو اگرچہ پوری ترقی نہیں دے سکتے تھے اور وہ کسی ضابطے میں اس کو لا سکتے تھے۔ مگر یہ بھی ناممکن ہے کہ بالکل وہ اس سے غافل رہے ہوں اور اس کی جانب سے بے اعتمانی کی ہو۔ اس کا پتہ ہمیں اس سے بخوبی چلتا ہے کہ میں ابتداء ہی میں یہ رواج ہو گیا تھا کہ مسلمان قرآن کی تعلیم لکھ کر دیتے تھے اور تھے ہوئے قرآن کو لوگ پڑھتے تھے۔ دیکھو فاروقِ عظیم رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے میں موَزِّعین لکھتے ہیں کہ ان کے بین اور بہنوئی کو ایک صحابی تھے ہوئے قرآن سے تعلیم دے رہے تھے۔ مگر جس وقت سے اسلام نے اپنی جگہ بدالی اور بجا ہے کہ مدینہ میں اپنادار الخلافہ قرار دیا اُس وقت سے چونکہ بتدریج اس نے امن اور اطمینان کی زندگی میں قدم رکھا۔ اور رفتہ رفتہ ان کا خوف و اندیشہ اطمینان اور امن سے برتاؤ گیا اسی لئے صاحبِ شریعت اسلام نے یہاں پہنچ کر تعلیم کتابت کا بھی با ضابطہ انتظام فرمایا اور عبد اللہ بن سعید بن العاص کو جن کا خط اچھا تھا اور عمدہ لکھتے تھے اس کام پر مقرر کیا کہ لوگوں کو لکھنا بنا یہیں۔

غزوہ بدھیں کفار مکہ سے جن کو مسلمانوں نے گرفتار کیا تھا کچھ نے تو اپنی طرف سے فدیہ دیا اور اس طرح انہوں نے رہائی حاصل کی لیکن جن کے پاس کچھ دینے کو مال نہ تھا ان کی رہائی کے لئے یہ قرار بات کہ ان میں جو عمدہ لکھنا جانتے ہیں ان میں سے ہر ایک مسلمانوں کے دین دشی لڑکوں کو اپنے ذمہ لے اور انہیں لکھنے کی تعلیم دے اور خطاطی سکھا ہے۔ چنانچہ اسی تجویز کے مطابق ہر ایسے شخص نے جسیں فن میں کمال اور ملکہ تامہ تھا اپنے ذمہ دشی دشی بچوں کو یا اور اس کی انھیں تعلیم دی اور انہوں نے اپنے متعلقہ کام کو انجام کو پہنچا دیا تو ہم کر دئے گئے۔ مجملہ ان لڑکوں کے جنمھوں نے اُسی وقت میں خطاطی سیکھی تھی زید بن ثابت بھی ہیں لیے۔ اور اس وقت مسلمانوں نے اس درجہ اس میں ترقی کی کہ عورتوں کو بھی لکھنے کی تعلیم دینے لگئے۔ ابو داؤد میں ہے۔ عَنِ الشَّفَاعَةِ نَبَّأَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَتْ دَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ مَسَّئَ اللَّهَ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا عِنْدَ حَفْصَةَ فَقَالَ لِي أَلَا تُعْلَمُ مِنْ هَذِهِ رُقْيَةٍ لِنَمْلَةٍ مَا عَلَمْتُهَا الْكِتَابَةَ۔

(کتاب الطب) شفا عبد اللہ کی لڑکی کہتی ہیں کہ آخرت میرے پاس تشریف لائے اور میں حضرت حضرت کے پاس تھی اور مجھ سے فرمایا کہ تو نے اس کو ہٹلہ زخم کا رقمی یعنی دعا کیوں نہ بتا دی جس طرح کہ اس کو لکھنا سکھا یا ہے۔ اب خیال کرو کہ آپ کے عہد ہی میں اس قدر اس میں ترقی ہوئی کہ مردوں کے علاوہ عورتیں بھی اس کو جانتی تھیں اور ان میں بھی اس کا رواج ہو گیا تھا۔ اور عربی کے علاوہ بھی ... دوسری زبانوں میں لکھنا پڑھنا سیکھا تھا۔ چنانچہ انہیں زید کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے عانی کے لکھنے پڑھنے کے سچھنے کو فرمایا اور سوا ان لوگوں کے جن کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دیا تھا اور لکھنا سکھا یا تھا اور بہت سے ایسے لوگ بھی سدان ہوئے تھے جو پہلے سے لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔

شل علماء یہود اور فصاری کے غرض کہ اس وقت مسلمانوں میں بہت بڑی جماعت وہ تھی جو بخوبی لکھ پڑھ سکتی تھی اور اس میں پوری مہارت تھی۔ ابن عبد البر نے استیعاب کی پہلی جلد ص ۲ میں ایسے جو میں لوگوں کے نام لکھے ہیں جن سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم لکھنے پڑھنے کا کام لیتے تھے۔ ابی بن کعب، زید بن ثابت، عبد اللہ بن سعد، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، زبیر بن العوام، خالد، آبان، سعید، حنظله، علاء، خالد بن ولید، عبد اللہ بن رواحة، محمد بن سلمہ، عبد اللہ بن عبد اللہ بن سلویں، مغیرہ بن شعبۃ، عمر بن العاص، معاویہ بن سفیان، جہنم بن الصلت، معیقیب بن فاطمہ، شریل بن حنفیہ، عبد اللہ بن ارقمہ الزہری۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جن سے آخرت صلی اللہ علیہ وسلم لکھنے کا کام یا کرتے تھے اور کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ ان کے علاوہ بھی ایسے ہوں جو لکھنا جانتے ہوں۔ اب قرآن نہ لکھنے کے لئے یہ غذر نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص اس وقت لکھنا نہیں جانتا تھا کیونکہ اس وقت ان کی کافی تعداد تھی۔ رہا آلات کتابت میں سے دوسری شے یعنی وہ چیز جس پر قرآن لکھا جاتا وہ بھی اس وقت میں تھی یا نہیں اس میں شک نہیں کہ کافی اس وقت عرب میں رائج تھا۔ کاغذ کے ایجاد کی ابتدا تاریخ سے معلوم نہیں ہوتی مگر زیادہ موڑھیں کا خیال ہے کہ عیسوی سال کے دو سال قبل چین میں اس کا رواج پائیا ہے اس کے بعد چین ہی سے تمام دنیا میں ہنسپا۔ سب سے پہلے چین سے عرب میں آیا اور فضل بن یحییٰ بر مکی۔ یا جماں بن یوسف کی رائے سے عرب میں بنایا گیا اور پھر عرب سے دیگر بلاد میں گیا۔ بہر حال کاغذ زمانہ بتوت اور خلافت راشدہ میں تھا اور یہ جو فہرست ابن ندیم میں ہے کہ محمد بن احراق نے اپنے ایک دوست کے کتب خان میں یحییٰ بن یعمر کے ہاتھ کے کچھ خوبی مسائل کا غذر پر لکھے ہوئے دیکھے اور یہ وہ مسائل تھے جن کا ابوالاسود دبلی نے جمع کیا تھا۔ اس کی نسبت اول تو محمد بن احراق کا یہ خیال ہے کہ وہ چینی کا غذر پر تھا۔ دوسرے یہ صحابہ کے بعد میں ہے کیونکہ یحییٰ بن یعمر صحابی نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ اگر

لہ کاغذ پر ہی میں ہے کہ شمشاد میں کاغذ عرب میں آیا اور یہ نہاد جماں بن یوسف کا ہے۔

یہ ثابت بھی ہو جائے کہ صحابہ کے عہد میں کاغذ تھا تو وہ ہمارے لئے اور زیادہ مفید ہے جس سے کاغذ کا ہونا آنحضرت کے یا صحابہ کے عہد میں ثابت ہو گا اور اگر ان بھی لیا جائے کہ کاغذ اُس وقت میں نہ تھا تو کیا اس سے یہ کہا جاسکتا ہے کہ اس وقت کوئی دوسری شے بھی ایسی نہ تھی جو کاغذ کا حام دستی۔ تاریخ سے جو واقعہ ہیں وہ جانتے ہیں کہ چین کے سوانح میں غظیم اشان کتب خانہ عہدِ نبوی کے قبل اور اُس وقت میں بھی تھے اور خود عرب میں بھی قوریت دانجیل یہود و نصاریٰ کے پاس لکھی ہوئی تھی عرب میں لکھنے کا رواج تھا۔ باہم خط و کتابت کا سلسہ جاری تھا۔ چنانچہ فہرست ابن ندیم میں ہے۔ قالَ فَهَذِهِ اسْحَاقُ كَانَ مَدِينَةً
 الْحَدِيْثَةَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُكَيْمٍ وَيُعْرَفُ بِأَبْنِ أَبِي بَعْرَةَ جَمَاعَةُ الْكُتُبِ لِتَعْزِيزَهُ
 لَمْ أَرْ لِأَحَدٍ مِثْلَهَا كَثْرَةً تَحْتَوْيُ عَلَىٰ قَطْعَةٍ مِنَ الْكُتُبِ الْعَرَبِيَّةِ فِي النُّحُوقِ وَاللُّغَةِ وَالْأَدَبِ
 وَالْكُتُبِ الْقَدِيمَةِ فَأَخْرَجَهُ مُطْرَأً كَمِيرًا فِيهِ نَحْوٌ ثَلَاثَةَ رَطْلٍ جُلُودٌ نَلْجَانٌ وَصِكَاكٌ
 وَقُرْطَاسُ مِصْرٍ وَسَرَاقٌ صِينِيٌّ وَسَرَاقٌ تِهَامِيٌّ وَجُلُودُ دَادِمٍ وَدَرْقٌ خُرَاسَانِيٌّ فِيهَا تَعْلِيقَاتٌ
 مِنَ الْعَرَبِ وَقَصَائِدٌ مُفَرَّدَاتٌ مِنْ أَشْعَارِهِمْ وَشَعْرٌ عَنِ النُّحُوقِ وَالْحِكَمَيَاتِ وَالْأَخْبَارِ وَالْأَسْمَاءِ
 وَالآسَابِ وَغَيْرَ ذَلِكَ مِنْ عُلُومِ الْعَرَبِ وَرَأَيْتُ فَإِيْدُلَّ عَلَىٰ أَنَّ الْغَوْغَنَ أَبِي الْأَسْوَدِ مَا هَذَا
 حِكَمَيَّةً وَهِيَ أَرْبَعَةُ أَوْرَاقٍ أَحْسَبَهُمَا مِنْ دَرْقِ الصِّينِ تَرْجُمَتُهَا هَذَا فِيهَا كَلَامٌ فِي الْفَاعِلِ
 وَالْمَفْعُولِ مِنْ أَبِي الْأَسْوَدِ بِخَطِّيْبِيْنِ بْنِ بَعْرَةِ صَدَقَةٍ محمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ ایک شخص محمد بن حسین
 نامی جوابن بعرہ کے نام سے مشہور تھا اور کتابوں کے جمع کرنے کا بہت شائق تھا اس کے پاس ایک ایسا
 کتب خانہ تھا کہ اس قدر کثیر کتابیں میں نے کسی دوسرے کے کتب خانہ میں نہیں دیکھیں جن میں نہ کوئی نہ
 ادب اور کتبِ قدریہ کا حصہ بھی تھا جب میں اس کا کتب خانہ دیکھنے گیا تو اس نے ایک صندوق کتابوں
 کا ایسا نکالا جس میں قریب چارہن کے کتابیں مختلف اشارہ پر لکھی ہوئی تھیں۔ کچھ تو جلد پڑھ کچھ مصری
 کاغذ پر کچھ ہرن کی جلد پڑھ کچھ تھامی اور خراسانی اور اراق پر۔ ان میں بعض عرب کے تعلیقات تھے
 اور بعض قصائد مفردہ اور کچھ نحوی مسائل اور کچھ تاریخ وغیرہ اور بھنی بن بیعر کے احمد کے نحو کے جند
 مسائل کاغذ پر لکھے ہوئے دیکھئے۔ غالباً یہ چین کا کاغذ تھا۔ اس کے سوامی یہ بات قابلِ لمحاظا ہے کہ
 رہنمہ میں مجاج لے کاغذ کو استعمال کیا۔ اس کے قبل عہدِ نبوت سے لے کر ۵۰۰ھ تک اس کا پتہ
 نہیں چلا کہ فلاں ارلبع نے اپنے وقت میں لکھنے کے واسطے کسی ایسی شے کی ایجاد دیا استعمال کیا ہو جو
 زمانہِ نبوت میں نہ تھی بلکہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ بھلئے کاغذ اس وقت تک برابر دی شے مستعمل تھی جو
 پہلے سے رائج تھی اور اس وقت عرب میں ایسی شے موجود تھی جس پر کاغذ کی طرح لکھا جاسکے۔ کیونکہ علیم
 اول نے عہدِ نبوت کے کچھ ہی روز بعد قرآن لکھوا یا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس بھی قرآن لکھا تھا۔

عبداللہ بن عمرو۔ اور حفصہ ام المؤمنین کے پاس بھی تھا۔ ۷۔ حنظہ رکھتے ہیں کہ میں طاؤس کے ہمراہ اُس قوم پر گزر جو قرآن کو سمجھتے تھے۔ اس پر طاؤس نے انا لشہ پڑھا۔ فاروق اعظم کے پاس بھی قرآن تھا۔ ۸۔ ناجیۃ الطفادی صحابی کا یہی کام تھا کہ وہ مصحف لکھا کریں۔ ۹۔ ایک شخص نے قرآن میں ہر ایک آیت کے ہمراہ اُس کی تفسیر بھی لکھی۔ خلیفہ دوم نے اس مصحف کو ضائع کرایا۔ خلیفہ موصوف نے نیز ایک اور دوسرے شخص کو دیکھا کہ قرآن باریک قلم سے لکھا ہے اُسے تنبیہ کی اور فرمایا کہ قرآن کی عظمت چاہیے۔ عقبہ بن عامر صحابی کا لکھا ہوا قرآن ابن یونس نے مصر میں دیکھا ہے۔ ۱۰۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے ایک مصحف مطلقاً دیکھا تو فرمایا قرآن کی بہتر زینت تلاوت ہے۔ ۱۱۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مصاحف لٹکے ہوئے دیکھتے تو فرمایا تعبیں یہ فریب نہ دیں خدا یہی شخص کو عذاب نہ دے گا جسے قرآن یاد ہے۔ ۱۲۔ حضرت علی کرم اللہ علیہ السلام نے فرمایا مصحف کو باریک قلم سے لکھ کر جھوٹا نہ کرو۔ عبداللہ بن نافع سے حضرت ام سلمہ نے قرآن لکھا۔ ابوالدرداء صحابی کے ہمراہ خلافت عمری میں دمشق سے ایک گرو آیا تاکہ وہ اپنا لکھا ہوا قرآن، ابی، زید، علی وغیرہ اہل مدینہ کو دکھائیں۔ ۱۳۔

اب اگر کوئی شے کاغذ کے سوا عرب میں نہ ہوتی تو پھر اس قدر کثرت سے مصاحف کا لکھا جائے کیونکہ ممکن تھا۔ اصل یہ ہے کہ اس زمان میں چھڑے یا کپڑے پر روغن دے کر بجاۓ کاغذ کے استعمال کرتے تھے۔ جیسا کہ علام ابن خلدون مغربی نے اپنی تاریخ کے مقدمہ میں لکھا ہے۔ اب اس امر میں کسی قسم کا سشبہ نہیں ہے کہ عبد رب نبوت میں لکھنے والے اور وہ شے جس پر لکھا جائے موجود تھی اور لکھنے والے بھی ایک دو نہیں بلکہ سیکڑوں کی تعداد میں تھے اور وہ مصحف بھی جن پر لکھنے تھے بخشت ملتے تھے۔ اور یہ خیال کر صحف اگرچہ اس وقت میں تھے لیکن عرب میں ان کا رواج نہ تھا۔ خلفاء کے زمانے میں جب فتوحات ہوئیں اور مسلمان دوسرے ملکوں میں گئے تو وہاں سے صحف لائے اور عرب میں ہوں بھی تو ممکن ہے کہ وہ اس قدر قیمتی ہوں جسے مسلمان اپنے افلوس کی وجہ سے استعمال نہ کرتے ہوں۔ گو ایک ناداقف کو یہ خیال ہو یکن جس نے تاریخ دیکھی ہے وہ کبھی ایسا الغر خیال نہیں کر سکتا۔ کیونکہ ظاہر ہے کہ خلیفہ اول نے اپنے عبد میں ابتداء ہی میں قرآن کو صحیفوں میں لکھوا یا اور اُس وقت تک مسلمان کسی ایسے نئے ملک میں داخل نہیں ہوئے تھے جہاں پہلے سے اُن کی آمد درفت نہیں تھی بلکہ اُس وقت

۱۴۔ ملاقات قسم ۲۲ ج ۲۲ ص ۲۲ ۱۵۔ ملاقات قسم ۲۲ ج ۲۲ ص ۲۲ ۱۶۔ ملاقات قسم ۲۲ ج ۲۲ ص ۲۲
 ۱۷۔ استیاب قسم ۲۲ ج ۲۲ ص ۲۲ ۱۸۔ استیاب قسم ۲۲ ج ۲۲ ص ۲۲ ۱۹۔ یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ خلیفہ دوم کے ہدایہ اس تدریج ہو گیا تاکہ قرآن کے سواتفسیر بھی لکھتے تھے اور لکھنے کے لئے کافی شے اُس وقت میں موجود تھی۔ ۲۰۔ ذہبی ج ۲۲ ص ۲۲
 ۲۱۔ کنز العمال ج ۲۲ ص ۲۲ اس واقعہ سے نہایت واضح طور سے یہ امر و وثائقی میں آجائا ہے کہ انحضرت کے عہد میں بہت سے صحابہ نے قرآن لکھنے تھے گر لکھنے کے سوا اپنے یاد اور حفظ کی تاکید بھی فرماتے تھے۔ کنز العمال ج ۲۲ ص ۲۲
 ۲۲۔ کنز العمال ج ۲۲ ص ۲۲ ۲۳۔ کنز العمال ج ۲۲ ص ۲۲ ۲۴۔ کنز العمال ج ۲۲ ص ۲۲

تک انہیں ملکوں میں داخل ہوئے تھے جن میں قبل سے عربوں کی آمد و رفت اور تجارت وغیرہ تھی۔ اور یہ بھی معلوم ہے کہ بحیرت کے بعد سے بہت سے ملک اسلامی سایہ میں پناہ لے چکے تھے اور اب مسلمانوں کی ایسی حالت نہیں رہی تھی کہ وہ صحیفوں کی قیمت نہ رکھتے ہوں بلکہ میں کہہ سکتا ہوں کہ صحابہ میں بعض وہ بھی تھے جو بڑے مالدار تھے اور ابتداء ہی سے اسلام کے حامی اور ناصر تھے جنہوں نے تنہا مسلمانوں کی ایسی امداد کی کہ اس وقت بھی بڑے سے بڑے مالدار سے ناممکن ہے۔

دوسری امر رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں یہ ضروری تھا یا نہیں کہ رسول قدما اور نیز مسلمان قرآن کو پورا نکھلتے۔

قرآن مسلمانوں کے اعتقاد میں آسانی کتاب ہے جس پر ان کے مذہب کی عمارت قائم ہے۔ اسلام کا دار و مدار اور اس کی بنیاد قرآن ہے۔ یہی قرآن رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا زندہ نشان ہے اور اسلام کی حقایقت کا روشن آفتاب۔ اسلام کے احکامات اور بدایات کا سرچشمہ اور منبع قرآن ہی ہے اور اسی کی تبلیغ کے واسطے آپ دنیا میں بھیجے گئے اور اسی کی اشاعت اور تعلیم آپ کا اصل منصب اور کام تھا۔ اس لئے رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم اور نیز ہر ایک مسلمان کا فرض اُولیٰ یہ تھا اور یہ کہ قرآن کی پوری اور کامل حفاظت کرے۔ کیونکہ اسلام کی موت و حیات اور اس کا بقاصر قرآن کی حفاظت پر مخصر ہے۔ قرآن کی حفاظت اسلام کی حفاظت ہے اور قرآن کی موت اسلام کی موت ہے اور مسلمان دنیا میں جس قدر چلے چھوٹے وہ قرآن کی وجہ سے۔ اگر وہ اپنے مذہب کی اشاعت کر سکتے ہیں تو قرآن کی وجہ سے اگر ان کے ہاتھ میں صداقت کا کوئی نشان ہے تو وہ قرآن ہے۔

اب ایسی ص. ت میں یہ ناممکن ہے کہ عہدِ اول کے مسلمانوں نے قرآن کی حفاظت میں کسی قسم کی کمی کی ہو اور قرآن کی حفاظت کے جواباً دوسائی ہیں اُن میں سے کسی کو چھوڑا ہو۔ کیونکہ موافق اور مخالف دونوں کو یہ اقرار ہے اور تاریخ بھی اس پر گواہ ہے کہ اپنے مذہب کی حفاظت اور حیات میں جو کارنیاں مسلمانوں کے ہیں اور جان و مال، راحت و آرام کی جس قدر قربانیاں مسلمانوں نے کیں اور مزاحمت کرنے والوں کا جو مقابلہ اہل اسلام نے کیا کوئی مذہب اس کے مقابلہ میں اپنے فرزندوں میں کسی کو ایسا پیش نہیں کر سکتا جس نے مسلمانوں کی طرح سے اپنے مذہب کے لئے ایشارہ کیا ہو۔ اور کوئی اہل اسلام کے سامنے اس میدان میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔

بانی اسلام کے تمام اقوال و افعال کا مجموعہ مسلمانوں نے جس طرح تیار کیا اور اس کی تنقید اور تصحیح کیا کوئی مذہب اسلام کے بسا بھی اپنے بانیوں کی ایسی مکمل اور منضبط تاریخ لاسکتا ہے۔ پس جس مذہب نے اپنے مذہب کے بانی کے اقوال اور افعال کی اس درجہ حفاظت کی ہو کہ اس میں وہ خوبی، نیاز، نیاز ہوتا ہے کہ اخطرے کے طور پر بھی یہ بلت خیال میں آسکتی ہے کہ اس نے آسمان

کتاب کی حفاظت میں کسی قسم کا قصور کیا ہوگا یا اس کا ایک حرف یا نقطہ بھی ضائع ہو لے دیا گیا ہوگا۔ اب یہ امر البتہ تنقیح طلب ہے کہ کسی کتاب یا کلام کی کامل حفاظت اور پوری حایت کا کیا ایسا ذریعہ ہے جو لائق اعتبار ہو اور جس پر اس وثوق اور اعتماد ہو سکے جس میں تمام شک و شبہات کے راستے بند ہو جائیں اور عین اليقین کے اول درجہ پر ہو۔

کتابوں وغیرہ کی حفاظت کے دو طریقے ہیں۔ اول یہ کہ ان کو سینہ کے صفحات میں جگد دی جائے اور اس میں ان کو بند کیا جائے۔ دوسرا یہ کہ قرطاس میں انھیں جمع کر کے محفوظ رکھا جائے۔ اس میں شبہ نہیں ہے کہ پہلی صورت بھی (یعنی یہ کہ کتاب لوگ یاد کر لیں) حفاظت کا ذریعہ ہے لیکن انسان خواہ وہ کیسا ہی حافظت قوی اور مستحکم رکھتا ہو مگر بھول چوک سے جوانان کے لوازماں سے اور اس کے خواہ سے ہے کبھی پاک اور بانکلیہ جدا نہیں ہو سکتا اور اس میں کسی کی کوئی تخصیص نہیں بلکہ تمام انان اس میں یکسان شرکیں ہیں خواہ وہ نبی ہو یا ولی یا فلاسفہ ہو یا عامی۔ اب میں یہاں چند واقعات ایسے لکھتا ہوں جس سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سہوا اور زیان کا ہونا ظاہر ہو۔ اور نیز اس سے نتیجہ بھی بسہولت حاصل ہوتا ہے کہ جب آنحضرت کو خود سہوا اور زیان ہوا تو ایسی حالت میں آنحضرت وحی الہی اور قرآن کو محض حافظ کے حوالے نہیں فرماسکتے تھے یہ تو ایک معمولی شخص سے بھی بعید ہے۔ اور آپ کی شان تونہایت ہی اعلیٰ اور ارفع ہے۔

ابو داؤد میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں بھول ہوئی۔ ایک صحابی کے یاد دلانے پر آپ نے سجدہ سہو کر لے کے بعد فرمایا۔ ائمہ ائمہ انسان بشر انسانی کمالاً تنسونَ فِإِذَا نِسْتَأْتُ فَذَكِّرُونِي۔ تخصیص جس طرح بھول ہوتی ہے مجھ سے بھی ہوتی ہے کیونکہ میں بھی انسان ہوں جب مجھ سے بھول ہوا کرے یاد دلادیا کرو۔

ایک بار بیجع کی نماز میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے چند آیتیں درمیان سے چھوڑ دیں اور نہیں بھول گئے۔ نماز کے بعد کسی صحابی نے عرض کیا کہ فلاں فلاں آیات آپ نے نہیں پڑھیں۔ فرمایا مادکوں نہ دلائیا۔

بخاری میں ہے کہ ایک شخص کو مسجد میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھتے مٹا تو فرمایا خدا اس کو جزاً نے خیر دے اس نے مجھے فلاں سورت کی فلاں آیت یاد دلادی جس کو میں بھول گیا تھا۔ (کتاب الشہادت)

اس کے علاوہ بے انتہا واقعات گزشتہ اور موجودہ ایسے ہیں جوانان کی بھول چوک اور خطہ کی بین شہادت ہیں اور جس سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا۔ اب جبکہ انسان کی یاد اور حافظت میں ہے اور پوچھے لئے اس سے ثابت ہوا کہ معابر میں قرآن کے حفاظات میں اور مسلمانوں کا اس کی مزدوجت حق اور ہے۔

اعتماد اور وثوق کے لائق نہیں ہے تو کوئی فہمیدہ انسان محض اسی کو سند نہیں بناسکتا اور کسی کتاب کی حفاظت کا ذریعہ تنہا اسے قرار نہیں دے سکتا۔ ہاں اسی کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ قرطاس سے بھی کام لیا جائے اور جو نقش بینہ کے صفحوں پر کیا جائے وہی قرطاس پر بھی جایا جائے۔ یہ نقش واقعی قتابل و ثوق اور معتبر اور یقینی ہو گا۔ اس لئے دنیا میں ہر ملک و ملت میں عام طور سے اس کا رواج ہے کہ جب کسی شے کا زیادہ ابتمام ہوتا ہے اور اس کو زیادہ مستحکم اور مضبوط اور قابل اطمینان کرنا منظور ہوتا ہے تو اس کو لکھنے لیتے ہیں۔ چنانچہ قرآن نے بھی ایسے معاملات کے لکھنے کا حکم دیا ہے جن کا یاد رکھنا ضروری ہے اور ان کو محض یاد پر نہیں چھوڑا۔ قرآن میں ہے۔ یا أَيُّهُمَا الَّذِينَ آمَنُوا وَآذَنَّ أَيَّنْتُمْ بِدِينِ إِلَيْيَ أَجْبَلْتُمْ تَمَكُّنَةً مُّكْبُوْةً۔ اے مسلمانو! اگر تم ادھار کا معاملہ کرو اور اس کے ادا کے لئے ایک وقت متقرر کرو تو اس معاملے کو لکھ لو۔ اس آیت سے چند باتیں علوم ہوئیں۔

(۱) یہ کہ مسلمان لکھنا پڑھنا اخضرت کے عہد میں جانتے تھے۔ (۲) ایسی اشیاء اس وقت موجود تھیں جن پر لکھ پڑھ سکیں۔ (۳) جن چیزوں کی حفاظت اور یاد رکھنے کی ضرورت ہے اس میں محض یاد پر بھروسہ نہ کرو بلکہ اسے لکھو یا کرو۔ اب مسلمانوں کو خدا ہی نے یہ حکم دے دیا کہ حفاظت کی کی چیزوں کو لکھو اور یہ ظاہر ہے کہ مسلمانوں کے یہاں معاملات دنیاوی سے بہت زیادہ دین کے معاملات کی حفاظت کی ضرورت ہے خصوصاً قرآن کی۔ تو اس سے صاف یہ نتیجہ نہ کلا کہ خدا نے تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ قرآن کو ضرور لکھو۔ اس کے سوابھی لکھنے میں چند فائدے ہیں۔

(۱) اول یہ کہ جب انسان سے بھول چوک اور خطأ ممکن کیا بلکہ واقع ہے اور یہ بھی ظاہر ہے کہ تمام انسان حافظ اور یاد میں یکساں نہیں بلکہ مختلف ہیں بعض کا حافظہ نہایت قوی اور مضبوط ہے اور بعض کا نہایت ضعیف اور کمزور ہے اور بعض کا مستو سط۔ اب اگر کوئی چیز محض یاد ہی پر چھوڑ دی جائے اور لکھی نہ جائے تو یاد کرنے والے کسی وقت اگر اس میں اختلاف کریں اور ہر ایک کوپنی یاد پر بھروسہ ہو تو اس اختلاف میں حکم اور اس کا فیصلہ بجز تحریر کچھ نہیں ہو سکتا۔ یا کسی شخص کو خود کسی وقت اپنی یاد میں شبہ ہو جائے تو تحریر سے وہ اپنے شبہ کورفع کر سکتا ہے اس لئے بھی تحریر نہایت ضروری ہے۔

(۲) دوسرے حفظ اور یاد ایسا خزانہ اور سرما یہ ہے جس سے انسان خود فائدہ اٹھا سکتا ہے یادوں لوگ جاؤں کے پاس ہوں اور جاؤں سے جُدا ہیں یا بعد میں ہوں وہ اس سے نفع نہیں اٹھا سکتے۔ کیا آج دنیا میں بے انتہا ایسے واقعات نہیں ہیں جو یاد اور حافظہ کے ساتھ ہی زمین میں مدفنوں ہیں اور واقعیت کے تمام ذرائع وہاں بیکار و معطل ہیں۔ اگر وہ سینہ سے نکل کر سیاہ بیاس میں صفحات پر متمکن ہوتے جس پر بھرخس کی نگاہ پر سکتی اور ان کو دیکھتا تو آج کیوں وہ گنایی کے ایسے تاریک غار میں ہوتے جس

سے نکانا انسان کی قدرت سے باہر ہے اور نہ وہاں کسی قسم کی روشنی پہنچ سکتی ہے اس لئے بھی انسان کو تحریر کی سخت ضرورت ہے۔ اگر انسان کا حافظہ اور یاد ہی کامل گفالت کرتی اور اس بار کی متحمل ہوتی اور امانت کا پورا پورا حق ادا کرتی تو پھر بھی تحریر کی اس لئے ضرورت پڑتی اگر غور سے دیکھا جائے تو خط اور تحریر کی موجود ہی ضرورت ہے۔

اب جب یہ معلوم ہو گیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ پر یہ امر نہایت ضروری اور ان کا پہلا فرض ہی تھا کہ وہ قرآن کی حفاظت کریں اور جونکہ بلا تحریر یقینی اور کامل حفاظت ناممکن ہے اس لئے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور نیز صحابہ پر فرض تھا کہ وہ قرآن کو پورا اس طرح پر لکھواتے جس سے اُس کا ہر لفظ اور نقطہ محفوظ ہو جاتا۔ اور نیز جو امور قرآن میں داخل ہیں مثلاً الفاظ یا اعراب کی صحت آیتوں کی ترتیب، سورتوں کی ترتیب یہ تمام بھی اُسی طرح محفوظ رہیں جس طرح اس میں داخل ہیں۔

اب اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عہد میں تمام قرآن کو کامل اُسی ترتیب سے جیسا و مہنے لکھوا تھے تو ضرور سمجھا جاتا کہ انہوں نے اپنے کام میں تقصیر کی۔ اور جونکہ آپ خاتم الانبیاء ہیں روزِ قیامت تک آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں اور آپ کی رسالت عاتی ہے اور تمام بکے لئے ہے خواہ وہ آپ کے عہد میں ہوں خواہ بعد میں ہوں... قیامت تک جو ہوں گے اُن تمام کے لئے آپ کی نبوت ہے قرآن میں ہے۔

وَمَا أَدْرَكَنَاكَ الْأَكَافِرُ لِلنَّاسِ (پارہ پائیں سورہ سبار کو ۴) یعنی ہم نے تم کو تمام خلق کے لئے نبی ٹھہرایا اور یہ اسی وقت ہو گا کہ آپ اپنے عہد کے اور نیز تمام اُن لوگوں کے لئے جو آپ کے بعد قیامت تک ہوں نبی ہوں گے یعنی تمام خلق کے نبی نہ ہوں گے۔ اب ضرور آپ کی تبلیغ بھی عام ہرنی چاہیے۔

اوہ آپ پر فرض ہے کہ قیامت تک کے لوگوں کو آپ تبلیغ کریں اور خدا کا حرف حرف اُن تک پہنچا دیں اور یہ جب ہی ممکن ہے کہ قرآن بعینہ اپنے بعد محفوظ چھوٹیں چونکہ قرآن کا تمام دکمال لکھوا کا پنے بعد میں چھوڑنا بھی تبلیغ کا جزو تھا اس لئے یہ خیال نہیں ہو سکتا کہ اس کام کو دیے ہی چھوڑا ہوا اور انعام نہ دیا ہو اور اگر یہ خیال کیا جائے کہ قرآن کا لکھرا ناواقعی اُس کی حفاظت کی بہتر صورت ہے لیکن رسول خدا کو اس کا خیال نہ ہوا ہو تو اس کے متعلق یہ کہنا کافی ہے کہ جب اب

رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی معاملہ فہمی اور دُورانِ دشی اور فہم و فراست ایسی نہ تھی جو آپ ایسی مولیٰ اور کمل ہوئی بات کو بھی نہ سمجھتے بلکہ یہ امر مخالفین کو بھی مسلم ہے کہ آپ اعلیٰ درجہ کے فلاسفہ اور مصلح اور دُورانِ دشی تھے۔ اس کے سواب بھی ہم آپ کے عہد کی بہت سی ایسی مثالیں پیش کر سکتے ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ نے اُن امور کو لکھرا یا جن کی احتیاط اور استحفاظ آپ کو منقصہ تھا۔ جس طرح صدقہ کے احکام حضرت علیؓ کو لکھوا دیتے عمال کو جب کسی جگہ روانہ فرماتے تو ضروری

ہدایات لکھوادیتے۔ آخر وقت میں بھی آپ نے کچھ لکھوانا چاہا تھا تو کیا قرآن کو آپ مفردی خال نہیں فراہم کرتے تھے۔

پیسرا مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور نیز آپ کے عہد میں صحابہؓ اور عبادؓ جمیں نے پورا قرآن لکھا تھا یا نہیں۔

رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اُمّتی تھے لکھنا پڑھنا آپ کو نہیں آتا تھا اس لئے یہ یقینی ہے کہ آپ نے اپنے ہاتھ سے قرآن نہیں لکھا اور نہ خاص اپنے لئے قرآن کا کوئی نسخہ لکھوا۔ آپ اگر کوئی نسخہ لکھواتے تو بھی آپ اُس سے مستحق نہیں ہو سکتے تھے۔ لکھے ہوئے سے منتفع وہ ہر سکتا ہے جو پڑھ سکتا ہو۔ اب ایسی صورت میں اگر آپ اپنے لئے قرآن لکھواتے وہ بیکار ہوتا جس سے آپ کی شان ارفع تھی۔ تاریخ سے بھی اس کا پتہ نہیں چلتا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد متروکات میں قرآن کا کوئی نسخہ چھوڑا ہوا یا آپ کے پاس کوئی قرآن لکھا ہوا تھا۔ مگر اسی کے ساتھ آپ کا یہ خیال ضرور تھا کہ قرآن جو آسانی کتاب ہے اور تیامت تک کے لئے تمام لوگوں کا دستور العمل ہا در چشمہ ہدایت ہے اس کا حرف حرف اور نقطہ نقطہ محفوظ رہے اور اُس کی یہی صورت تھی کہ جس وقت جو آیت نازل ہو اُسی وقت آپ اُسے بعدنہ لکھادیں اور اس آیت کو اسی جگہ لکھائیں جہاں کی وجہ آیت ہے اور جو لکھے پڑھے ہیں وہ اُسے اُسی طور سے لکھیں جس طرح سے آپ فرمائیں قرآن اور تاریخ اور تمام کتب احادیث سے یہ ثابت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نہ آن نازل ہو تو اُسی وقت آپ صحابہ سے اُن افراد کو طلب فرماتے جو لکھنا جانتے تھے اور ان کو وہ آیت لکھادیتے اور جب وہ لکھ دیتا تو دوبارہ بھی پھر اُسے اُس سے سُن لیتے اور وہ صحابی دوسروں کو لکھادیتا اور اس طرح اکثر صحابہ اُس سے نقل کر لیتے بلکہ یہ بات ترکیبی سے ہی سے ثابت ہے کہ اخضرت نے تمام قرآن لکھوا یا اور مخالفین کو بھی اس کا اقرار تھا قرآن پاک میں ہے۔ قالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ أَكْتَبْهَا فَإِنَّ
تَمَلَّىٰ عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ (سورہ فرقان۔ رکوع ۱۹)۔ یعنی یہ قرآن الگلوں کے قصہ ہیں جس کو کو اخضرت نے لوگوں کو لکھوا یا ہے اور صبح و شام لوگ آپ سے لکھتے ہیں اور پھر اُس کو سُناتے ہیں۔
جمع الزوائد میں ہے:-

عَنْ زَيْدِ بْنِ ذَبِيْتِ قَالَ كُنْتُ أَكْتُبُ الْوَحْيَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ إِذَا نَزَّلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ أَخْذَهُ بِرُحَاءٍ شَدِيدَةٍ وَعَرَقَ عَرْقًا شَدِيدًا فَمِنْ أَمْثَلَ الْجَهَنَّمِ ثَوْسَرِيَ عَنْهُ فَكُنْتُ أَذْخُلُ عَلَيْهِ بِقَطْعَةِ الْكَتَبِ أَوْ كِسْرَةِ فَاكِبٍ وَهُوَ يُلْقَى عَلَىٰ فَمَا أَفْرَغْتُ حَتَّىٰ تَكَادُ جُلُبُّ تَنَكِيسٍ مِنْ ثَقْلِ الْقُرْآنِ حَتَّىٰ أَقُولَ لَا أَمْشِي عَلَىٰ رِجْلِي أَبْدًا فَإِذَا فَرَغْتُ قَالَ أَقْرَبْ فَاقْرَبْ وَوَوْ فَإِنْ كَانَ فِيهِ سَقْطًا أَقْمَهُ ثُرَّا خَرْجَرْ بِهِ إِلَى النَّاسِ۔ (جمع الزوائد۔ ج ۱ ص ۲۳)

ترجمہ:- زید بن ثابت کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کو مجھ سے لکھاتے تھے۔ نزول وحی کے وقت آپ کو نہایت گرانی ہوتی۔ موتو کی طرح پسینہ چہرے سے نمودار ہوتا اور بہت پسینہ آتا۔ جب وحی ختم ہو جاتی میں شانہ کی ہڈی لے کر حاضر ہوتا۔ آپ بتلاتے جاتے اور میں لکھتا۔ مجھے بھی اس کی اس قدر گرانی محسوس ہوتی جس سے معلوم ہوتا کہ میرا پیر ٹوٹا جا رہا ہے اور میں اپنے پیروں سے اب پل ن سکوں گا۔ جب میں لکھ لیتا تو آپ فرماتے کہ اسے مساوی میں پڑھنا اگر اس میں کوئی نعلیٰ ہوتی اس کی اصلاح فرماتے پھر اسے میں لوگوں میں لاتا۔

زید کے اس بیان سے صاف ظاہر ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم وحی لکھواتے اور اس میں اس قدر اہتمام کرتے کہ دوبارہ سنتے۔ اگر اس میں غلطی ہوتی اصلاح کرتے۔ پھر اسے زید صحابہ میں لے جاتے اور چونکہ زید کا یہ لکھنا محض یادداشت کے لئے ہوتا تھا نہ حفاظت اور جمع کے لئے اس لئے وہ اُس قت ہڈی وغیرہ پر یادداشت کے طور سے لکھیتے البتہ حفاظت کے لئے جو صحابہ لکھتے تھے وہ قرطاس پر لکھتے تھے۔

عَنِ الْبَرَّاءِ قَالَ لَمَّا نَزَّلَتْ لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذْعُوا لَنَا بِقَاعَةً وَمَعَهُ الدَّوَاهُ وَاللَّوْحُ أَوِ الْكَتْفُ فَقَالَ الْكَتْبُ۔ (بخاری)

بخاری میں براء سے روایت ہے جب قرآن کی یہ آیت (لا یستوی القاعدون الخ) نازل ہوئی تو اخضرت نے فرمایا۔ فلاں لکھنے والے کو ملا وہ شخص مع دوست اور شانے کی ہڈی یا تھنی کے ماض ہوا۔ فرمایا اس آیت کو لکھو۔

اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ اخضرت صلی اللہ علیہ وسلم وحی نازل ہونے کے بعد اسے یادداشت کے طور پر لکھا رہتے تھے جسے وہ تھنی وغیرہ پر لکھ کر یادداشت قائم کر رہتے تھے۔ ورنہ یہ ظاہر ہے کہ جس شے کی حفاظت مقصود ہوتی ہے اور یہی شے کے لئے تھنیتے ہیں وہ تھنیتے پر نہیں لکھتے۔

قَالَ عُثْمَانُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنْزَلُ عَلَيْهِ السُّورَةِ دَوَاتُ الْعَدْدِ فَكَانَ إِذَا نَزَّلَ عَلَيْهِ الشَّعْشَعَيْنِ دَعَى بَعْضَهُ مَنْ يَكْتُبُ فَيَقُولُ ضَعُوا هُوَ لَأُ الْآيَاتِ فِي السُّورَةِ الَّتِي يُذَكَّرُ فِيهَا كَذَا كَذَا۔ (اتقان۔ عن احمد۔ ابی داؤد۔ ترمذی۔ نسائی۔ ابن حبان۔ حاکم)

ترجمہ:- اتقان میں سند امام احمد۔ سنن ابی داؤد۔ جامع ترمذی۔ سنن نسائی۔ ابن حبان۔ مسند رک حاکم سے نقل ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر سورتین قرآن کی نازل ہوا کرتی تھیں جب کوئی آیت نازل ہوتی آپ ان لوگوں سے جو قرآن لکھتے تھے بعض کو بولا کر فرماتے ہیں آیتوں کو فلاں سورت میں لکھو۔

اس سے ثابت ہوا کہ قرآن برابر صحابہ لکھتے تھے اور جس وقت قرآن نازل ہوتا رسول خدا

صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو طلب فرماتے جو قرآن لکھتے تھے اور اسی وقت انہیں لکھوا دیتے اور یہ بھی بتلا دیتے کہ یہ آیت فلاں سورت کی فلاں مقام کی ہے اور حسب ارشاد صحابہؓ اُسی ترکیب سے لکھ لیتے تھے۔ حضرت عثمان کے بیان سے معلوم ہوا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت ستراہ تھی کہ قرآن کا جب کوئی حصر رکھتا آیت تازل ہوتی فوراً بلا قوف اُسے لکھا دیتے اور اس کی ترتیب ۔ بھی بتاتے اور صحابہؓ میں جو قرآن لکھتے تھے وہ اُسے اُسی وقت لکھ لیتے اور نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ صحابہؓ میں ایک ایسی جماعت تھی جو قرآن لکھتے تھے اور اس طریقہ سے آپ نے پورا مرتب قرآن لکھا دیا اور صحابہؓ نے اُسے لکھا اور یہ پورا مرتب قرآن اُن صحابہؓ کے پاس موجود تھا جو قرآن کو تحریر اور تحریر حسب نزول لکھتے جاتے تھے۔

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَكْتُبُوا عَنِّي شَيْئًا لَا لِلْقُرْآنِ
فَمَنْ كَتَبَ عَنِّي شَيْئًا غَيْرَ الْقُرْآنِ فَلِيَمْحُوهُ (دار می و مسلم عن ابن مسعود)

ترجمہ:- دار می میں ابو سعید او مسلم میں ابن مسعود سے روایت ہے۔ آنحضرت نے فرمایا قرآن کے سوا مجھ سے کچھ نہ لکھو۔ اگر کسی نے قرآن کے سوا مجھ سے کچھ لکھا تو مٹا دے۔

اس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہؓ کو قرآن لکھنے تھے اور صحابہؓ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے اُسے لکھنے تھے اور یہ لکھا ہوا اُن کے پاس محفوظ تھا۔ اور یہاں سے یہ امر بھی بخوبی روشن ہو گیا کہ وحی کے کاتب وہی لوگ کہلاتے تھے جو قرآن کو اپنے لئے انتظام سے لکھتے تھے۔ پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اس قدر احتیاط فرمائی کہ قرآن کے سوا آپ سے اور شے کے لکھنے کی عام طور سے ممانعت فرمادی۔ یہ اس لئے کہ ممکن تھا کہ غیر قرآن کو غلطی سے لوگ قرآن سمجھ لیں اور اس طرح وہ قرآن سے مخلوط ہو جائے اور غیر قرآن کو بھی قرآن سمجھ کر قرآن میں لکھ لیں اور اس میں پوری احتیاط اسی وقت ہو سکتی تھی جب قرآن کے علاوہ اُسے لکھنے کی اجازت ہی نہ ہو اور لوگ اس کے سوا آپ سے لکھیں ہی نہیں۔ چنانچہ بمزید احتیاط اور دوراندیشی آپ نے ایسا ہی کیا کہ قرآن کے سوا لکھنے کی ممانعت فرمادی اور اس میں اس قدر سختی اور تاکید فرمائی کہ اگر کسی نے کچھ قرآن کے علاوہ لکھا ہو تو وہ اُسے مٹا دے۔

عَنْ أَبِي لَفْرَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ الْأَكْثَرُ تَذَكَّرُ تَذَكَّرًا لَا تَحْفَظُ فَقَالَ لَا وَلَنْ تَجْعَلْهُ قُرْآنًا وَلِكُنْ احْفَظُهُو عَنَّا كَمَا حَفِظْنَا مَحْنُونًا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (دار می)

ترجمہ:- ابو لفرہ نے ابو سعید صحابی سے کہا جو روایت کرو اُسے لکھا دیا کرو کیونکہ ہمیں یاد نہیں رہتا۔ ابو سعید نے کہا یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کیا میں اسے قرآن بنادوں یعنی قرآن لکھا جاتا ہے اُسے بھی قرآن کی طرح لکھاؤ تم بھی یاد کر دیں طرح ہم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد کیا۔

یہاں سے بھی معلوم ہوا کہ صحابہ قرآن لکھتے تھے اور قرآن کے بسا کے لکھنے کا صحابیہں رواج نہ تھا کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا۔

قرآن کے لکھانے میں کبھی تو یہ ہوتا کہ جرأت نازل ہوتی آپ لکھنے والوں سے کسی کو مبارکر یادداشت کے طور سے اُسے لکھا دیتے اور وہ دوسروں کو لکھا دیتا اور کبھی خود ہی اخضرت صلی اللہ علیہ وسلم لکھوٹے اور لکھنے والے آپ کے گرد حلقة کئے ہوتے اور لکھتے۔

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَمْرٍ وَقَالَ بَيْنَمَا هُنَّ حَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَكِتَ بِذِيْئَلِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّ الْمَدِيْنَةِ تَفَخَّمَ أَوْ كَفَسْطَنْطِينِيَّةُ أَوْ رُومِيَّةُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَبْلَ مَدِيْنَةً هَرَّ قَلَ. (دارمی حدیث)

ترجمہ:- دارمی میں ابن عمر سے ہے وہ کہتے ہیں ایک وقت ہم لوگ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں طرف ملقوٹ کئے ہوئے لکھ رہے تھے۔ اس میں ایک نے دریافت کیا کہ قسطنطینیہ اور رومیہ سے پہلے کون فتح ہو گا۔ فرمایا پہلے ہرقل کا شہر فتح ہو گا۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ کبھی صحابہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد بیٹھ جاتے اور آپ قرآن بتاتے اور صحابہ لکھتے کیونکہ قرآن کے سواتو لکھنے کی مانعت تھی اب لا محار ملقوٹ باندھ کر قرآن ہی لکھتے ہوں گے نہ دوسری شے۔ طبقات القراء میں علامہ فتوی لکھتے ہیں:

اعْلَمُ رَأْيَانَ كَلَامَ اللَّهِ بِلَغَةِ النَّبِيِّ حَصَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا سِمِعَهُ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ وَلَا نَفْعَلَةٍ وَأَمْلَاهُ عَلَى كِتَابِ الْوَحْيِ لَفْظًا وَمَعْنَى فَنَعْمَتِ الرِّسَالَةُ فِيمَنِ الصَّحَابَةِ مِنْ حَفْظِ سُورَةِ مِنْ ذِيِّ اللَّهِ تَلِيقِنَا وَمِنْهُمْ مَنْ حَفِظَ أَمْلَاءً أَوْ مِنْهُمْ مَنْ حَفِظَهُ مِنْ رَفِيقَهِ ثُمَّ عَرَضَهُ عَلَى الرَّسُولِ وَمِنْهُمْ مَنْ حَفِظَهُ مِنْ رَفِيقَهِ وَلَمْ يُعْرَضْ أَوْ عَرَضَ بَعْضَ ذَلِكَ فَآمَّا مَنْ حَفِظَهُ كُلَّهُ مِنْهُمْ وَعَرَضَهُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَمَاعَةٍ مِنْ بَعْبَاعِ اصْحَاحِ مُحَمَّدٍ اسْتَدَبَّوا لِأَفْرَادٍ وَانْتَصَبُوا لِأَدَائِهِ فَكَانَ مِنْ جُمْلَتِهِمْ بَنْعَدَةٌ إِمَامٌ أَعْلَمَهُ دَارَتْ عَلَيْهِمْ أَسْأَانِيْدُ الْقِرَاءَاتِ وَذِكْرُهُ وَفِي صَدُرِ الْكِتَابِ وَالْأَجَازَاتِ.

عَلَيْهِ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، عَثَمَانَ بْنَ عَفَّانَ، أَبِي بْنِ كَعْبٍ، عَبْدُ اللَّهِ بْنَ مُسْعُودٍ، زَيْدُ بْنَ ثَابَةَ، أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، أَبُو الْدَّرَدَاءِ.

ترجمہ:- قرآن جس طرح سے نازل ہوا بلا کمی زیادتی کے بعد اُسی طرح سے آنحضرت نے اُسے لوگوں تک پہنچایا اور جو قرآن لکھتے تھے انہیں لکھایا۔ صحابے بعض قرآن کی سورتیں آنحضرت سے زبانی یاد یاد کیں اور بعض کو اپنے لکھایا۔ انہوں نے لکھ کر یاد کیں۔ بعض نے اپنے ساتھ والوں سے یاد کیا۔ اور بھرا نے کوئی نہیں سنا۔ یا جس صحابہ نے پورا قرآن یاد کیا اور آنحضرت مکر

سایادہ صحابہ کی ایک جماعت ہے جنہوں نے قرآن پڑھا یا انھیں میں وہ سات قاری بھی ہیں جن کی سندوں سے لوگ قرآن پڑھتے ہیں۔ یعنی حضرت علی، عثمان بن عفان، ابی بن کعب، عبد اللہ بن مسعود، زید بن ثابت، ابو موسیٰ اشعری، ابوالدرداء۔

یہاں یہ امر بھی قابل توجہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں جب اس قدر احتیاط فرماتے اور اس کی حفاظت میں سعی کرتے کہ جس وقت قرآن کا کوئی حصہ یا آیت نازل ہوتی اُسی وقت اُسے لکھا دیتے اور بعض یاد کے حوالے نہ فرماتے اور یہ نہ کرتے کہ اُس وقت مخفی یاد پر اعتماد اور وثوق کرتے اور دوسرے وقت یاد سے لکھا دیتے اور تعلیم دیتے۔ حالانکہ ایک دو آیت کا یاد رکھنا اور آن کی ترتیب کا خیال رکھنا تمام قرآن کے یاد رکھنے اور تمام آیتوں کے ترتیب کے خیال رکھنے سے بہت زیادہ آسان تھا مگر جب اس میں بھی آپ نے مخفی یاد پر وثوق نہیں کیا تو اب کیا یہ ممکن تھا کہ آپ تمام قرآن اور اُس کی ترتیب میں جو کہ اول سے بہت زیادہ دشوار ہے مخفی اپنی یا اُسی دوسرے کی یاد پر وثوق کرتے اور تمام قرآن کو نہ لکھواتے۔ اس بات سے ایک معمولی ختم والابھی یہ اقرار کئے بغیر نہیں رہ سکتا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بلاشبہ تمام قرآن مرتب لکھوا یا اور بعض یاد کے حوالے نہیں کیا۔ جن گٹاپ وحی کے نام لی فہرست کتب حدیث یا تاریخوں میں ہے یہ وہی لوگ ہیں جو اپنے سے قرآن لکھتے تھے اور جنہوں نے پورا قرآن لکھا تھا۔

وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ مَا كَتَبْنَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا الْقُرْآنَ وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ

(بخاری)

بخاری میں حضرت علی کرم اشتر دوچھے سے ہے ہم نے بجز قرآن کے اور اُس کے جو اس صحیفہ میں ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں لکھا۔

یہ روایت صحیح بخاری کی ہے جس سے ثابت ہوا کہ بعض صحابہ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن لکھا تھا۔

عَنْ أَنَسِ بْنِ فَالِّيْ قَالَ مَا تَأْتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَجْمِعْ الْقُرْآنَ غَيْرَ أَبْعَدَهُ أَبُو الْدَّرَدَاءِ وَمَعَاذُ دَرَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَأَبُو زَيْدٍ وَلَهُنْ وَرْثَنَا هُنْ (بخاری، فضائل القرآن)

ترجمہ:- بخاری میں انس بن مالک سے ہے۔ عبد بن بھری میں ان چار عینی ابوالدرداء، معاذ بن جبل، زید بن ثابت، ابو زید کے سوا کسی نے پورا قرآن نہیں لکھا اور ابو زید کے قرآن کا وارث میں ہوا۔

انس بن مالک اس روایت سے ہے۔ بخاری نے روایت کیا ہے ظاہر میں معلوم ہوتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں ان چار صحابہ نے پورا قرآن لکھا تھا اور ابو زید کا لکھا ہوا قرآن انس بن مالک میں راتھا۔ ترمذی میں بھی اسی کی مویدیہ یہ روایت ہے۔ عَنْ دَرَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُوَقِّفُ الْقُرْآنَ مِنَ الْتِرَاقِ - یعنی ہم (صحابہ) آنحضرت کے روبرو قرآن کو ترتیب سے لکھ رہے تھے جس کا حاصل یہ ہے کہ آنحضرت کے امر کے موافق قرآن کو مرتب کر رہے تھے جن میں زید بھی ہیں۔

اگرچہ ظاہر میں انس کے اس روایت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان چار کے سوا کسی صحابی نے پورا قرآن نہیں لکھا۔ لیکن اگر اس کا بیان محض اسی قدر ہوتا تو واقعی یہ امر ثابت ہوتا کہ ان چار کے سوا قرآن کسی نے نہیں لکھا تھا ایک اصل میں انس کا یہ بیان ایک مقام خاص پر ہوا تھا جس کو ابن عبد البر نے استیعاب جائیا میں نقل کیا ہے کہ انصار کے قبائل سے اوس خزرج میں ایک بار گفتگو ہوئی۔ قبیلہ اوس نے خزرج سے فخر آکھا ہمارے قبیلہ میں حنظلہ بن غیل اللائک ہے اس کے جواب میں خزرج نے فخر آکھا ہمارے قبیلہ سے چار شخصوں نے پورا قرآن لکھا یعنی تمہارے قبیلہ میں کوئی ایسا نہیں ہوا۔ اس جگہ فی سے مقصود صرف قبیلہ اوس ہے نہ عام مسلمان ورز تاریخوں سے ثابت ہے کہ بہت سے صحابہ نے قرآن لکھا چاہنچا اُن میں سے بعض کے نام ہم پہلے لکھ آئے ہیں مجذلہ اُن کے عبادۃ بن الصامت نے بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں پورا قرآن لکھا تھا۔ تہذیب التہذیب جلد ۵ ص ۱۱۲ میں ہے۔ هُوَ أَحَدٌ مَنْ جَمَعَ الْقُرْآنَ فِي زَمِنِ السَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَرْسَلَهُ عُمَرَ اٰتِ فَلَسْطِينَ لِيُعَلَّمَ أَهْلَهَا الْقُرْآنَ فَاقَمَ بِهَا إِلَى أَنْ مَاتَ۔ اور نیز حدیثوں کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ جہاد میں جب کفار کی طرف سفر کرتے تو اُس وقت میں بھی قرآن اپنے ہمراہ رکھتے تھے اور جبکہ ایسے سفر میں قرآن کو ساتھ رکھتے اور نہ چھوڑتے تو دوسرے سفروں میں ضرور ساتھ رکھتے ہوں گے ہیں لئے کہ جو لوگ قرآن کے حافظ ہیں اُن کو بھی اس لئے ضروری ہے کہ اگر تلاوت میں کسی جگہ متباہہ ہو یا بھول تو قرآن دیکھ کر اٹھیاں کیا جائے ورنہ اگر قرآن لکھا ہوا نہ ہو تو پھر متباہہ اور بھول سے اٹھیاں حاصل کرنے کی کوئی صورت نہیں۔ صفحات تاریخ کے دیکھنے سے یہ صاف ظاہر ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض ایسے مقامات میں تنہا ایک ہی صحابی کو قرآن کی تعلیم کے لئے روانہ فرمایا جہاں کوئی دوسرا قرآن کا حافظ نہ تھا۔ پھر ایسی حالت میں اگر قرآن لکھ کر ہمراہ نہیا جاتا تو متباہہ اور بھول سے نجات اور رہائی کی کیا صورت ہوتی کیونکہ دہاں کوئی دوسرا حافظ قرآن بھی نہیں جو اسے بتائے اور اگر دہاں لیا جائے کہ دوسرا حافظ بھی ہوتا بھی اگر ان دونوں کے مابین اختلاف ہو جائے تو اس کے فیصلہ کے لئے بھی قرآن کی ضرورت ہو گی اس لئے بھی صحابہ پر ضروری تھا کہ وہ قرآن کو لکھ کر اپنے ہمراہ رکھتے۔ اسی وجہ سے صحابہ کفار کے طبق میں جلتے وقت بھی قرآن ساتھ رکھتے تھے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ممانعت فرمادی۔

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ سُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ يُسَاَفِرُ بِالْقُرْآنِ إِلَى
أَرْضِ الْعَدُوِّ۔ (مخاری کتاب الجہاد)

بخاری میں ابن عمرؓ سے ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں (کفار) کے سر زمین میں
قرآن لے جانے کی ممانعت فرمائی۔

بخاری کی اس روایت سے ثابت ہوا کہ صحابہ کفار کی سر زمین پر سفر کرتے وقت بھی قرآن ہمراہ
لے جاتے تھے جس کی ان کو ممانعت کی گئی اور نیز اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ صحابہ کے پاس قرآن
لکھا ہوا رہتا تھا اور جو لوگ قرآن کے حافظ نہیں تھے وہ تلاوت کے لئے قرآن ہمراہ رکھتے تھے۔
کیونکہ صحابیں قرآن کا درد مقرر تھا جس کو وہ روزانہ پڑھتے تھے۔ احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ
ایک ہفتہ میں صحابہ کے ختم کا معمول تھا۔ پہلے روز تین سورت (بقرہ، آل عمران، فساد)،
دوسرے روز پانچ (مائیدہ سے بڑاۃ تک) تیسرا روز سات (یونس سے مخلی تک)
چوتھے روز نو (بنی اسرائیل سے فرقان تک) پانچویں روز گیارہ (شتراء سے یسین تک) پھٹے روز
پنجم (صافات سے بحیرات تک) ساتویں روز تمام مفصل (ق سے آخر تک)۔

عَنْ أَوْسِ بْنِ أَبِي حَذِيفَةَ التَّقِيِّ قَالَ كُنْتُ فِي الْوَقِيدِ الَّذِينَ آتَيْنَا مِنْ ثَقِيفِ الْحَدِيثِ
فِيهِ نَقَالَ لَنَا رَسُولُ مُسْلِمٍ مُسْتَعِنًا مَعَهُ مُسْلِمٌ طَرَا عَلَى حَرْبِي مِنَ الْقُرْآنِ فَأَرْدَتُ أَنْ لَا أَخْرُجَ حَتَّى
أَقْضِيَهُ فَأَلَّا أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْنَا كَيْفَ تَخْرِبُونَ الْقُرْآنَ قَالُوا نَحْزِبُهُ ثَلَاثًا
سُوْرَةً وَخَمْسَ سُوْرَاتٍ وَتَسْعَ سُوْرَاتٍ وَاحِدَةً عَشْرَةً سُوْرَةً وَثَلَاثَ عَشْرَةً سُوْرَةً وَحِزْبَ المُفْصِلِ
مِنْ قِبَلَتِنَا يُخْتَمُ۔ (اتفاق) عن احمد وابن داود

اتفاق میں علام سیوطی نے مسندا مام احمد و ابران ابی داؤد سے نقل کیا ہے طائف سے قبلہ تھیف
جو مسلمان ہو گیا تھا آیا اس میں ابو حذیفہ تھقی بھی تھا وہ کہتا ہے۔ ایک روز رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم
کو اپنے معمولی وقت سے باہر تشریف لانے میں تاخیر ہوئی آپ نے فرمایا۔ آج اس وجہ سے تاخیر ہوئی
کہ قرآن کا درد روزانہ بھوکے رہ گیا تھا اسے پڑھنے میں دیر ہو گئی۔ تب اُس نے صحابہ سے دریافت کیا
کہ قرآن پڑھنے میں تمہارا کیا معمول ہے۔ صحابہ نے کہا اول روز تین سورت پھر پانچ پھر نو پھر گیارہ
پھر تیرہ پھر تمام مفصل یعنی ق سے آخر تک۔

اس حدیث کو ابو داؤد اور ابن ماجہ نے بھی روایت کیا ہے اور ابن سعد نے بھی طبقات میں^{۲۳}
ج ۵ میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشا کے بعد اس وقت کے پاہن تشریف لاتے تھے
ایک روز معمول سے زیادہ دیر ہو گئی۔ وفد والوں نے عرض کیا کہ آج کس وجہ سے حضور کو تاخیر ہوئی
فرمایا قرآن کے روزانہ درد سے آج کچھ رہ گیا تھا اس لئے میں نے یہ پسند نہ کیا کہ بلا پڑھے اس کے مسجد

سے نکلوں۔ اوس کہتے ہیں صبح کو میں نے صحابہ سے دریافت کیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کی شب میں یہ فرمایا کہ میرا اور دقرآن کا باقی رہ گیا تھا تو تم روزانہ کتنا پڑھتے ہو۔ صحابہ نے جواب دہی دیا جو اتقان سے ابھی نقل کیا گیا ہے۔

اس روایت سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے روزانہ قرآن کی تلاوت کا الترام کیا تھا اور ہر روز کے لئے جدا جدا اس کی منزل قائم کر لی تھی اور ایک خاص وقت اُس کی تلاوت کا مقرر تھا جس میں روزانہ اُس روز کی مقررہ تلاوت کرتے اور اگر کسی غدر سے اس وقت میں چھوٹ جاتی تو دوسرے وقت اس کو کر لیتے اور ظاہر ہے کہ تمام صحابہ حافظ قرآن نہ تھے اب جو حافظ نہ تھے وہ ضرور دیکھ کر تلاوت کرتے ہوں گے اور ان کے پاس لکھا ہوا قرآن ہو گا۔ اسی روایت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ کے عہد میں قرآن مرتب اور جمع ہو گیا تھا جیسا روزانہ کی گئی ورد کی مقدار سے صاف ظاہر ہے اور جو ترتیب اس ورد میں بیان کی گئی ہے یہ بعینہ دہی ترتیب ہے جو قرآن کی آج بھی ہے۔ یہاں یہ خیال کرنا کہ تمام صحابہ یاد ہی سے تلاوت کرتے تھے لکھا ہوا ان کے پاس نہ تھا یہ وہ بات ہے جس کو کوئی سمجھ دار باور نہیں کر سکتا۔ اول تریام سے پڑھنے میں بھی اس کی ضرورت ہے کہ لکھا ہوا قرآن پاس ہو جیسا کہ اور سہم لکھ آئے ہیں۔ دوسرے یہ ثابت ہونا نہایت مشکل ہے کہ تمام صحابہ حافظ قرآن تھے۔ تیسرا بہت سے واقعات ہیں جو بتلاتے ہیں کہ آپ کے عہد میں محض یاد سے ہی پڑھنے کا رواج نہ تھا بلکہ لکھ کر بھی پڑھنے تھے یہاں منجملہ ان واقعات کے چند واقعات ہم ایسے لکھتے ہیں جن سے اس امر کی شہادت ملے گی کہ آپ کے مبارک عہد میں لکھے ہوئے سے دیکھ کر بھی قرآن پڑھنے کا رواج تھا۔

پہلا واقعہ کامل ابن اثیر میں ہے۔ اسلام لائے کے قبل فاروق اعظم جب اپنی بہن فاطمہ کے مکان پر پہنچے تو اُس وقت خباب بن الارت صحابی اُن کی بہن اور بہنوں کو قرآن کی تعلیم دے رہے تھے۔ جب ان کو فاروق اعظم کے آئے کی آہست ہوئی خباب تو چھپ گئے اور فاطمہ نے اس صیفہ کو اپنی ران کی نیچے چھپایا جس پر قرآن لکھا ہوا تھا اس میں سورہ طا لکھی ہوئی تھی۔ اس واقعہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ابتدائے اسلام ہی سے مسلمانوں میں قرآن کو لکھ کر پڑھنے کا رواج ہو گیا تھا۔

دوسرा واقعہ عن سهیل الساعیدی قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله بحثت أهباً لك نفسك قال فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعدَ النَّظَرُ فِيهَا وَصَوَّبَهُ ثُرُطَاطَارَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَأَتِ الْمَرْأَةُ إِنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيهَا شَيْئاً جَلَسَتْ فَقَامَ رَجُلٌ مِّنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ يَا سَرْفُولَ اللهِ إِنْ

لَمْ يَكُنْ لِّكَ حَاجَةٌ فَرَزَّوْجَتِهَا فَقَالَ وَهُنْ عِنْدُكُمْ قَالَ لَا وَإِنَّهُ يَأْرِسُولُ اللَّهِ قَالَ أَذْهَبْ إِلَى أَهْلِكَ فَانظُرْشِيْشَا فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لَا وَإِنَّهُ مَا وَجَدَتْ مَخْيَشَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انظُرْلَوْخَاتِمَمَّا مِنْ حَدِيدْ فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لَا وَإِنَّهُ يَأْرِسُولُ اللَّهِ وَلَا حَاتِمًا مِنْ حَدِيدْ وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِيْ قَالَ سَهْلٌ مَالَهُ رِدَاءً فَلَمَّا نَصَفَهَا فَقَالَ مَا تَصْنَعْ بِإِزارِكَ إِنْ لِبَسْتَ لَعْنَكَ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٍ وَإِنْ لِبَسْتَهَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ شَيْءٌ فِي جَلْسِ الرَّجُلِ حَتَّى إِذَا طَالَ هُجْلِسُهُ قَامَ فَرَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُوْلَيَا فَأَمْرَبِهَ فَدُعِيَ فَلَمَّا جَاءَهُ قَالَ مَاذَا مَعْكَ مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ مَعِيْ سُورَةً كَذَا وَسُورَةً كَذَا أَعْدَّهَا فَقَالَ أَتَقْرَأُهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ اذْهَبْ فَقَدْ مَلَئْتُهَا بِهَا مَعْكَ مِنَ الْقُرْآنِ۔ (كتاب النكاح بخاري)

ترجمہ : بخاری میں سہل سے ہے کہ ایک عورت نے رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا میں اپنے کو آپ کے نکاح میں دینا جا ہتی ہوں۔ رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم نے اُسے دیکھ کر سر تجھکا یا عورت کو جب پکھ جا ب نہ ملا تو بیٹھ گئی۔ صحابہ میں سے ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا۔ آپ ذکر یا تو مجھ سے نکاح کر دیجئے۔ رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تیرے پاس پکھ ماں ہے۔ عرض کیا نہیں۔ فرمایا گھر جا کر دیکھ تو وہ گھر جا کر واپس آیا اور عرض کیا کہ انگوٹھی بھی نہیں بلیہ بھی نہیں بلیہ بھی نہیں۔ اگلوٹھی بھی نہیں بلیہ تو ہے آ۔ پھر وہ گیا اور واپس آیا اور عرض کیا کہ انگوٹھی بھی نہیں بلیہ بھی نہیں بلیہ بھی نہیں بلیہ تو ہے۔ سہل کہتے ہیں کہ اُس پر چارہ تھی رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انزار کا کیا ہو گا اگر تو استعمال کرے گا تو عورت محروم رہے گی اور اگر عورت استعمال کرے گی تو تم محروم رہو گے یہ شخص یہ سن کر بیٹھ گیا دیر تک بیٹھا رہا پھر اٹھ کر چلا۔ رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم نے ملا کر فرمایا۔ تو قرآن پڑھ سکتا ہے۔ عرض کیا میں فلاں فلاں سورت پڑھ سکتا ہوں۔ فرمایا کیا حفظ سے پڑھ سکتے ہو۔ عرض کیا ہاں۔ تب آپ نے اس کا نکاح اس عورت سے کر دیا۔

جانب رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دریافت فرمانا أتَقْرَأُهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ یعنی ان سورتوں کو حفظ پڑھ سکتا ہے اس امر کی کافی دلیل ہے کہ عہد بیوی میں دونوں طرح پڑھنے کا راجح تھا یاد سے اور دیکھ کر درہ اگر محض یاد ہی سے رواج ہوتا تو پھر یہ سوال فضول تھا کہ یہ سورتیں یاد ہیں۔

كَانَتْ عَائِشَةَ سَرِّيَ اللَّهِ عَنْهَا يَوْمَ سَهْلَهَا عَبْدُهَا دُكُونْ مِنَ الْمُصْعَفِ۔

میسر اواقع

(بخاری کتاب الاذن)

ترجمہ : حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا غلام دکون حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا امام ہوتا اور قرآن کر دیکھ کر پڑھتا۔

چوتھا واقعہ ابین خلدون ہیں ہے۔ عمرو بن حزم کو رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا امیر

بنا کر جب روانہ فرمایا تو ان کو کچھ احکام لکھ دیئے مبینہ اور احکام کے یہ بھی تھا۔ وَيَعْلَمُ الْأَنْسَانُ الْقُرْآنَ وَأَنَّ يَهُنَى النَّاسُ فَلَا يَمْسُسُ الْقُرْآنَ إِنَّمَّا الْأَدْهُو طَاهِرٌ۔ یعنی قرآن کی تعلیم دیں اور لوگوں کو بلاطہارت قرآن کو ہاتھ لگانے سے اور بلاطہارت چھوٹے سے منع کریں۔ اس مانعوت سے کہ بلاطہارت قرآن یعنی نہ چاہیے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن لکھا ہوا تھا۔^۱ بعد جو عرب کے مشہور اور نامی شعراء میں حاجب مسلم ہوا تو قرآن لکھا اور شعر کہنا چھوڑ دیا۔^۲ امام خالد جو خالد بن سعید بن العاص کی بیٹی ہیں وہ کہتی ہیں کہ پیشیم اللہ تعالیٰ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ۔ میرے باپ نے لکھی خالد پاپخویں مسلمان ہیں۔ ان کے پہلے چار آدمی مسلمان اور ہوچکے تھے۔ یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن تکھنے کا سلسلہ اسلام کے ساتھ ساتھ شروع ہوا اور اول ہی سے لوگوں نے اس کا انتظام کیا تھا۔ عرفات میں ایک شخص نے فاروقِ عظیم سے بیکار کیا۔ میں کوفہ سے آیا ہوں اور وہاں ایک ایسے شخص کو چھوڑا ہے جو قرآن کو اپنی یاد سے لکھا رہا تھا۔ یہ مُنْ کر فاروقِ عظیم و سنت غضبانِ کوئی ہوئے اور فرمایا وہ کون شخص ہے۔ جواب دیا ابن مسعود۔ یہ مُنْ کر غصہ فرو ہو گیا اور اپنی حالت پر رکنے لگے۔ اس واقعہ سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ اس وقت میں یاد سے قرآن لکھنا پسندیدہ نہ تھا اس لئے فاروقِ عظیم کو اس پر غصہ ہوا۔ میکن ابن مسعود جذکر قابلِ ثائق تھے اس نے اُن کا نام مُنْ کر آپ کو اٹھیاں ہوا۔ ورنہ عام طور سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کو قرآن سے نقل کرتے تھے نہ کیا دے۔ اور نیز احتیاط اور تعین اس میں ہے اور نیز اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ لکھنے ہوئے قرآن سے تلاوت کرنے کی جانب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب خصوصیت کے دلائی اور اس کی فضیلت کو بیان کیا اور حفظ پڑھنے سے اس کو جزا تیاز اور شرف تھا اس کو ظاہر کیا۔ میں یہاں ایسی چند اس کے متعلق محدثین (لکھتا ہوں) جس سے ثابت ہو گا کہ قرآن کو دیکھ کر تلاوت کرنا حفظ تلاوت کرنے سے افضل ہے۔

(۱) قِرَاءُكَ نَظَرًا نَضَاعِفُ عَلَى قِرَاءَتِكَ ظَهِيرًا كَفَضْلِ الْمُكْتُوبَةِ عَلَى النَّافِلَةِ۔ (کنز العمال ج ۲۷)

ترجمہ: یاد سے تلاوت پر دیکھ کر تلاوت کو، یہی فضیلت ہے جو فرض نماز کو نفل پر ہے۔

(۲) مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ نَظَرًا مُتَّعِنَ بَصَرُهُ۔ (کنز العمال ج ۱۹)

ترجمہ: دیکھ کر جو قرآن پڑھے گا اس کی بینائی قائم رہے گی۔

(۳) مَنْ سَرَرَهُ أَنْ يَجْبَسِهُ اللَّهُ وَمَسْوِلُهُ تَلَيْقَرَهُ فِي الْمَصْفَى۔ (کنز العمال ج ۱۶)

ترجمہ: جسے خدا اور رسول کی محبت خوش کرے وہ قرآن دیکھ کر تلاوت کرے۔

جانب صدور کائنات کے یہ ارشادات ایسے نہیں ہیں جن کے بعد کسی مسلمان قرآن تلاوت کرنے

والے کی یہ خواہش اور کوشش نہ ہو کہ وہ قرآن میں تلاوت کرے جس سے صاحبِ کرام تو اس صورت میں ضرور اس پر مجبور رہتے کہ وہ قرآن کو لکھتے خواہ و حافظ ہوں یا ناظر۔

الحاصل اس میں شبہ نہیں کہ رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چیات مبارک میں قرآن کا حرف لکھایا اور صحابہ نے اُسے لکھا جو صحابہ دھی لکھنے والوں کی فہرست میں ہیں اور جن کو مختین اور سوراخین نے کا تسب وحی کہا ہے اور ان میں ان کا شمار ہے یہ وہی لوگ ہیں جو قرآن کو اپنے لئے لکھتے جاتے تھے اور رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم کبھی تو خود اُنھیں لکھاتے اور کبھی ایک شخص کو لکھادیتے اور وہ دوسروں کو لکھاتا اور یہ خیال کہ رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم اپنے لئے ان کا تبوں سے لکھراتے اور لکھا کر اپنے پاس رکھتے جاتے بھے اس کے باور کرنے میں اس نے کلام ہے کہ تاریخ اور نیز امامیت سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ آنحضرت کے پاس لکھا ہوا قرآن رہتا تھا اور نہ آپ کے بعد آپ کے متزوّد کا میں قرآن برآمد ہوا۔ اب جبکہ یہ امر ثابت ہے کہ قرآن جب نازل ہوتا آپ اُسے لکھاتے تو اگر آپ اپنے لئے قرآن لکھاتے تو ضرور تمام قرآن لکھا ہوا آپ کے پاس ہوتا خواہ وہ متفرق ہوتا یا مجتمع لیکن کہیں اس کا پتہ نہیں چلتا کہ آپ کے پاس قرآن تھا ورنہ یہ قرآن زیادہ قابل حفاظت ہوتا اور مسلمان اس کو محفوظ رکھتے اور خلیفہ اول کو جمع کرنے کی ضرورت محسوس نہ ہوتی اور نہ زید بن ثابت کو جمع قرآن میں اُس کی تلاش اور جستجو کی مشقت اٹھانی پڑتی بلکہ تمام لکھا ہوا رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں سے ملتا اور اسے زید نقل کر لیتے اور ابو خزیمہ کے پاس سے آیتوں کی نقل کی ضرورت نہ ہوتی اور نیز تمام مورخین اور محدثین اس پر متفرق ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن جمع نہیں کیا یعنی لکھا لکھا کرتا تمام کو اپنے پاس نہیں رکھا البتہ آپ نے تمام قرآن لکھایا اور صحابہ نے اُسے اول سے آخر تک لکھا اور جس جس نے لکھا اس کا لکھا ہوا اُسی کے پاس تھا اور ان لکھنے والوں میں دو قسم کے تھے۔ اول وہ جن کو رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا اور آپ سو شن کر انہوں نے لکھا جیسا کہ پہلے معلوم ہوا کہ قرآن جب نازل ہوتا آپ ان لکھنے والوں میں سے کسی کو بُلا کر لکھادیتے۔ دوسرے وہ جو آپ کے لکھائے ہوئے سے نقل کر لیتے۔ جیسا زید بن ثابت کہتے ہیں کہ آپ بھے بتاتے اور قرآن کی وہ آیات جن نازل ہوتیں لکھادیتے میں لکھنے کے بعد پھر آپ کو سناتا اگر اُس میں اصلاح کی ضرورت ہوتی تو آپ اصلاح کرتے۔ اُس کے بعد میں اپنے اس لکھے ہوئے کو لوگوں کے پاس لاتا۔ چنانچہ زید نے اپنے اس لکھے ہوئے قرآن کو آخر وقت میں پھر آنحضرت کو سنایا اور اس قرآن کی ترتیب بعیثہ کہی ہے جو ہمارے قرآن کی ہے (معارف ابن قتیبہ) اب جبکہ یہ معلوم ہوا کہ رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم نے تمام قرآن لکھا یا تو ضرور صحابہ نے اُسی ترتیب سے لکھا اور یاد کیا جس ترتیب سے کہ آپ نے لکھا یا تھا۔ یونکہ جس طرح کسی مسلمان خصوصاً

صحابہ کرام سے یہ ناممکن ہے کہ قرآن کی کسی آیت یا حرف کو بدل دیں اسی طرح یہ بھی ناممکن ہے کہ اس ترتیب کو بدل دیں جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی تھی دیکھو۔

**قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابَ سَمِعْتُ هَشَامَ بْنَ حَكِيمَ بْنَ حِزَامَ يَقْرَأُ مُسُورَةَ الْفُرْقَانَ عَلَىٰ غَيْرِ
مَا أَقْرَأَهَا وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْرَأَنَّهَا وَكَذَّبَ أَنْ أَعْجَلَ عَلَيْهِ تَحْمِيلَتُهُ
حَتَّىٰ اتَّصَرَّفَ ثُمَّ لَبَّيْتُهُ بِرِدَائِهِ فَجَبَتْ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . (بخاری تاب الخصوص)**

ترجمہ:- بخاری میں ہے۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ ہشام نماز میں سورہ فرقان اُس کے خلاف پڑھتے تھے جس طور سے میں پڑھتا تھا اور سورہ فرقان مجھے خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی تھی میں یہ سن کر ایسا بیخود ہو گیا کہ نماز ہی میں انھیں گرفت کرتا مگر حموڑا تامل کیا۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئے جب ان کے گلے میں چادر ڈال کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گیا اور تمام تقدیر میا۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ صحابہ میں کوئی ایسا نہ تھا جو قرآن میں کسی قسم کی تغیر اور تبدل کو اپنی طرف سے روکتا یا ایسا ہونے پر سکوت کرتا۔ دیکھو ہشام نے ذرا اُس قراءۃ میں اختلاف کیا تھا جو حضرت عمرہ کو معلوم تھی تو حضرت عمرہ اُس کے سنبھل کی تاب نہ لاسکے۔

**إِنَّ الْجَاجَ خَطَبَ نَقَالَ إِبْنُ الزَّبِيرِ بَدَلَ كَلَامَ اللَّهِ فَقَامَ إِبْنُ عُمَرَ فَقَالَ كَذَبَ لَمْ يَكُنْ
إِبْنُ الزَّبِيرِ يُسْتَطِعُ أَنْ يُبَدِّلَ كَلَامَ اللَّهِ وَلَا أَنْتَ . (رذكرة الحفاظ ذہبی جام ۳)**

ترجمہ ججاج نے ایک روز خطبہ دیتے ہوئے کہا کہ ابن زبیر نے قرآن بدل دیا غورا یہ سن کر ابن عمر نے کھڑے ہو کر کہا کہ قرآن بدلنے کی نسبت تھے طاقت ہے نہ ابن زبیر کو۔
**قَالَ إِبْنُ الزَّبِيرِ قَلَتْ لِعُثْمَانَ بْنِ عَفَانَ وَالَّذِينَ يَتَوَقَّونَ مِنْكُنُ الْوَقَالَ قَدْ نَسْخَتْهَا الْآتِيَةُ
الْآخِرَى فَلَمْ يَتَنَاهُمَا إِبْنُ أَبْيَانٍ — لَا أَغْبِرُ شَيْئًا مِنْهُ مِنْ مَكَانِهِ . (بخاری مغلظ)**
ترجمہ:- بخاری میں ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ابن زبیر کے جواب میں کہا میں قرآن سے کچھ بھی اپنی جگہ سے نہیں ہٹا سکتا۔

ان واقعات سے ہم زیر وزکی طرح روشن ہے کہ صحابہ کرام اپنی طرف سے قرآن میں کسی قسم کے تصرف کو روا نہیں رکھتے تھے اور نہ کسی کے امکان میں یہ تھا کہ اپنی طرف سے قرآن میں کسی قسم کا تغیر و تبدل کر سکتا۔ اب خیال کرو کہ قرآن میں یہ دوام بھی ہیں۔

(۱) اول ہر سورت کی آیتوں کی ترتیب (۲) دوسرے قرآن کی سورتوں کی ترتیب کیونکہ قرآن محض الفاظ مفردہ کا نام نہیں بلکہ آیات مرتبہ اور سورہ مرتبہ کا نام ہے جس طرح قرآن کے انفلانہ کی جگہ دوسرے اس کے ہم معنی کا نام قرآن نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اگر اس کے جملوں اور آیتوں کی ترتیب بدل دی جائے یا سورتوں کی ترتیب بدل دی جائے تو وہ بھی قرآن نہیں ہو سکتا اس لئے کہ خصوصیت الفاظ کو جس طرح ہر

کتاب میں دخل ہے اسی طرح ترتیب الفاظ اور اس کے حصص کی ترتیب کو بھی بڑا دخل ہے۔ لیکن کسی مصنف کی کتاب کی ترتیب کو اگر بدیل دیا جائے تو وہ بعد اس تبدل کے اس مصنف کی کتاب نہیں کہی جاسکتی اور ہر مصنف جس طرح اپنی کتاب کے لئے خاص الفاظ اور مضافات کی تجویز کرتا ہے اسی طرح اس میں باہم جملوں اور مضافات کا ایک خاص سلسلہ قائم کرتا ہے پس جبکہ خدا تعالیٰ نے اپنے احکام اور خلق کی ہدایت کے لئے ایک کتاب تجویز کی تو اس کتاب کے لئے جس طرح خاص الفاظ تجویز کئے اسی طرح اس کے مضافات اور اس کے حقوقوں کا سلسلہ بھی خود ہی قائم کیا اور رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سلسلہ اور ترتیب سے خود بھی یاد کیا۔ اور دوسروں کو بھی تعلیم دی اور لکھایا۔ ہمیں ایسے خیال پر نہایت ہی تعجب ہوتا ہے جو سورتوں کی آیتوں کو کہتے ہیں کہ ان کی ترتیب آسمانی نہیں انسانی ہے کیا وہ یہ نہیں سمجھتے کہ قرآن مجید کلام ہے یعنی ایسا کلام ہے جو انسان کی طاقت سے باہر ہے۔ کیونکہ کلام معجزہ ہی ہے جہاں انسان کی پرواز ممکن نہ ہوا اور اس سے بالاتر ہو۔ اب یہ کس طرح ممکن ہے کہ ان آسمانی جملوں کی تحریک کسی انسان کا کام نہ انجام دے اس لئے کہ جملوں کا ترکیب دینا اور اُن میں مناسبت اور مقام کا لحاظ رکھنا ہی قواعجائز کی روح ہے اور جب یہ ہی کسی انسان کا کام ہوا تو اس کے بعد اعجاز کے لئے کچھ باقی نہیں رہتا اور ہمیں یہ بھی یقین ہے کہ ہر سورت میں جس قدر آیتوں اور جملے ہیں ان میں ضرور کوئی ایسا ارتباط ہے جس کی وجہ سے وہ ایک جدا صورت قرار دی گئی ہے ورنہ اگر ایک سورت کی تمام آیتوں میں کوئی ایسا استحکم رشتہ جس نے ان تمام آیتوں کو ایک جگہ مسلک کر لیا ہے، نہ ہو تو ایسی صورت میں ان آیات کے مجموعہ کو علیحدہ سورت بنانے کی کوئی وجہ نہ ہوگی اور قرآن میں مختلف سورتیں قرار دینا الغ فعل ہو گا اور ان سورتوں میں بھی یہ فرق کہ ایک سورت ڈھانی پارے کی ہوا اور ایک سورت ایک سطر کی پلاکسی ارتباط اور تعلق کے ناممکن ہے تو ضرور ہر سورت کی تمام آیات میں ایک خاص رشتہ ہے اور ہر سورت کے لئے موضوع جدا جدابے اور غرض اور فایت میں بھی فرق ضرور ہے۔ ان ہر سورت کے موضوع کو سمجھنا ہی البرت مشکل ہے تا اقتیکہ موضوع ہر سورت کا معلوم نہ ہو اس وقت تک ان آیات میں ارتباط کا دریافت کرنا ناممکن ہے اور اسی اشکال کی وجہ سے بعض علمائے اسلام نے تو مٹا یہ اقرار کیا ہے کہ آیات میں باہم ہر جگہ ارتباط اور تعلق نہیں ہے اور ایک دوسرے سے جدا ہیں اور بعض نے ارتباط کو تسلیم کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ باہم تمام آیات اور سورت مرتبط ہیں لیکن جو ربط وہ بیان کرتے ہیں اس میں اس قدر تکلف کرنا پڑتا ہے اور آسان و زمین کے قلابے ملانے ہوتے ہیں کہ یہ ربط خوبی بے ربطی کے لئے کافی فضانت ہے اور یہ تکلف یا بلے ربطی محض اس وجہ

سے ہے کہ سورت کے موضوع اور بحث کی پہلے تیین نہیں کی گئی اور وہ نہیں معلوم کیا گیا ہاں موضوع معلوم ہونے کے بعد تمام آیات میں رشدِ اتحادِ سُکُم نظر آئے گا اور اس میں کسی تخلف کی ضرورت نہ ہوگی اور یہ بھی ظاہر ہے کہ ایک موضوع کے احکامات کا انتخاب اور ان احکامات کے بیان میں ترتیب اور ان کی مناسبت ہر شخص کی قابلیت کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ ایک ہی موضوع پر مختلف لوگوں کے بیان میں نایاں امتیاز اور فرق اور دلوں پر اُس کا اثر جدا جدا ہوتا ہے اور یہ ظاہر ہے کہ ایک موضوع کے احکام اور لواحقات میں آسمانی ترتیب کا مقابلہ کوئی ان ان ترتیب نہیں کر سکتی اور اُس کے جذب اور اخراج کرنے کا جو افسون اور تنجیر آسمانی ترتیب میں ہو گا وہ کسی دوسرے کی ترتیب میں ناممکن ہے اس لئے بھی یہ تسلیم کرنا ہو گا کہ ہر سورت کی آیتوں کی ترتیب آسمانی ہے۔ چنانچہ احادیث سے بھی اس امر کی کافی اور کامل اور نہایت سُکُم ناقابلِ حجح شہادت ملتی ہے اور اس شہادت میں دو قسم کی حدیثیں ہیں۔ اول ایسی حدیثیں جن سے مافِ علوم ہوتا ہے کہ آیتوں کی ترتیب آسمانی ہے اور ہر سورت کی ترتیب خود اس کے نازل کنندہ کی طرف سے دی گئی ہے نہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی طرف سے۔ دوسرا میں حدیثیں وہ ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان سورتوں کو صحابہ کو منایا اور جس طرح آپ نے سورتوں کو منایا اسی طرح صحابہ نے یاد کیا اور لکھا ہے کہ آپ نے محض آیات مُنَاثِیَات اور ان میں ترتیب صحابہ نے دی اور جدا جبرا سورتیں قائم کیں بلکہ جدا جبرا سورتیں آنحضرت ہی نے قائم کی ہیں۔

اب میں یہاں چنان احادیث دونوں قسم کی بیان کرتا ہوں

قسم اول کی حدیث

(۱) عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَفِظَ تَسْعَرَ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ سُورَةِ الْكَهْفِ عُصِمَ مِنَ الدَّجَالِ۔ (مسلم)

ترجمہ:- ابو دردار سے ہے۔ آنحضرت نے فرمایا جس نے سورہ کہف کے اول سے دسٹ ایتیں یاد کیں وہ دجال سے محفوظ رہے گا۔

(۲) عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ أَعْنَى الشَّيْقَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبَحُ ثَلَاثَ مَرَأَتٍ أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَقَرِئَ ثَلَاثَ آيَاتٍ مِنْ آخِيرِ سُورَةِ الْحَسْرَةِ وَقَالَ اللَّهُ يُبَهِّ سَبْعِينَ الْفَلَقَ يُصْلَوُنَ عَلَيْهِ حَتَّى يُمْبَحِّى دَائِنُ مَاتَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ فَاتَّشَهِيدًا۔ (ترمذی)

ترجمہ:- معقل بن یسار سے روایت ہے۔ آنحضرت نے فرمایا جس نے صبح کو تین بار اعود

بِاللَّهِ الْسَّمِينُعُ الْعَلِيِّمُ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ پڑھ کر سورہ حشر کے اخیر کی تین آیتیں پڑھیں تو ستر ہزار فرشتے اُس پر ایسے متقرہ ہوئے جو شام تک اس کے لئے دعا کے رحمت کریں گے اور اگر وہ اُس دن میں مر جائے گا تو شہید مرے گا۔

(۳) عَنِ النَّعَمَانَ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ كَسَبَكُمَا بَقِيلَ أَنْ يَخْلُقَ الشَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْفَنِّ عَامِ أَنْزَلَ مِنْهُ أَيَّتَيْنِ خَتَمَ بِهِ مَا سُوَّدَةِ الْبَقَرَةِ وَلَا تُقْرَأُنِ فِي دَارِ الْقُلُثَ لِيَابَ نَيَّرَ بِهِ الشَّيْطَانُ۔ (ترمذی، ابو داؤد، مشکوہ فضائل القرآن)

ترجمہ: مشکوہ میں ہے ترمذی ابو داؤد میں نعمان سے روایت ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ خدا تعالیٰ نے آسمان و زمین کی پیدائش کے دو ہزار سال قبل ایک کتاب لکھی اسی کتاب سے وہ دو آیتیں اُتاری ہیں جس نے سورہ بقر کو ختم کیا جس گھر میں یہ دونوں پڑھی جائیں دو ماں خبیطان نہیں پہنچ سکتا۔

(۴) عَنْ جَبَيرِ بْنِ نُعَيْرَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ خَتَمَ مُوسَى الْبَقَرَةَ بِآيَتَيْنِ أَعْظَمَهُمَا مِنْ كَنْزِهِ الَّذِي تَحَتَ الْعَرْشِ فَتَعْلَمُوهُنَّ وَعِلْمُهُنَّ فِيَاءَ كُمْ فَإِنَّهَا صَلَوةٌ وَقُرْبَاتٌ وَدُعَاءٌ۔ (داری مشکوہ فضائل القرآن)

ترجمہ: مشکوہ میں ہے داری میں جبیر سے روایت ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا تعالیٰ نے سورہ بقر کو ایسی دو آیت پڑھتے ہوئے جو مجھے اُس کے عرش کے خزانے سے ملی ہیں تم انہیں خود بھی سیکھو اور اپنی عورتوں کو بھی سکھاؤ کیونکہ یہ رحمت ہے اور دعا ہے اور عبادت ہے۔

ان حدیثوں سے ثابت ہوا کہ سورہ بقر، کہف، حشر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں مرتب تھیں جسے صوابہ جانتے تھے۔ اور ان سورتوں کی ترتیب اسلامی ہے اس لئے کہ آخر کی حدیثوں میں لفظ (ختم) جو فعل ماضی ہے اس کا فاعل خدا تعالیٰ ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ سورہ بقرہ کی آخر کی دو آیتوں کو آخر میں رکھنے والا خدا تعالیٰ ہے جس سے ہر ذی فہم کے لئے یہ امر نہایت روشنی میں آ جاتا ہے کہ سورہ بقرہ کی ترتیب اسلامی ہے اس لئے کہ جب ان دو آیتوں کا آخر میں رکھنا خدا کا فعل ہے تو بقیہ آیتوں کو بھی اپنے اپنے مقام پر ذکر کرنا اور لانا خدا ہی کا فعل ہو گا اور ترتیب آیات اگر اسلامی نہ ہوتی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ختم کی نسبت اسلامی کی طرف نہ فرماتے اور جب بقرہ، کہف، حشر کی ترتیب اسلامی ہوئی تو قرآن کی تمام سورتوں کا یہی حال ہو گا۔

دوسری قسم کی حدیث اس میں دو طرح کی حدیثیں ہیں۔ بعض وہ احادیث ہیں جن میں سورتوں کا نام نہیں بلکہ نام کی سورتوں کا بیان ہے اور بعض احادیث ایسی ہیں جن میں سورتوں کا نام بنام ذکر ہے۔ اول میں پہلے طرح کی حدیثوں

کو لکھتا ہوں پھر دوسری طرح کی حدیثوں کو۔

(۱) قَالَ نَحْنَ طَبَّبَنَا عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ مُسْعُودٍ فَقَالَ لَقَدْ أَخْذَتُ مِنْ فِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِضَعَادَ سَبْعِينَ سُورَةً۔ (بخاری، فضائل قرآن)

ترجمہ:- راوی کہتا ہے کہ ابن مسعود نے ایک روز خطبہ میں کہا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ اور پرستہ سورتیں یاد کیں۔

(۲) قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَوْمٌ تُوْرِقُونَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَانَا ابْنَ عَشْرَ سَبْعِينَ وَقَدْ قَرَأُتُ الْحُكْمَ وَفِي رِدَائِيَةٍ جَمَعْتُ الْمُحْكَمَ فِي عَنْهِدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔ (بخاری فضائل قرآن)
بخاری میں ہے کہ ابن عباس فرماتے ہیں مکمل کو یعنی وہ سورتیں جو مفصل کہلاتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پڑھ دیا تھا اور اس وقت میں دس سال کا تھا۔

(۳) قَالَ زَيْدٌ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ وَقَدْ قَرَأَتْ سَبْعَ عَشَرَ سُورَةً فَقَرَأَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْجَبَهُ ذَلِكَ وَهُوَ بْنُ أَخْدَى عَشْرَةَ سَنَةً۔
(تذكرة الحفاظ ذہبی ج ۱ ص ۲۶)

تذكرة الحفاظ ذہبی میں ہے زید بن ثابت کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں جب تشریف فراہمئے اس وقت میں سترہ سورتیں پڑھ چکا تھا جن کو میں نے آنحضرت کو سُنایا آیت سن کر بہت خوش ہوئے زید اس وقت گیارہ سال کے تھے۔

(۴) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْلَمُنَا إِسْتِغْاثَةً فِي الْأَمْوَالِ كُلَّهَا مَا يُعْلَمُنَا السُّوْرَةُ مِنَ الْقُرْآنِ۔ (بخاری تجدیر)

بخاری میں جابر سے ہے۔ رسول خدا ہم کو تمام کاموں میں استخارے کی دعا اسی طرح تعلیم دیتے تھے جس طرح قرآن کی سورت کی تعلیم دیتے۔

(۵) سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يَقْرَأُ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ رَجُلُ اللَّهِ لَقَدْ أَذْكَرْتِ كَذَّا وَ كَذَّا آيَةً أَسْقَطْتِهِنَّ مِنْ سُورَةٍ كَذَّا وَ كَذَّا۔ (بخاری کتاب الشہادت)

بخاری میں ہے کہ آنحضرت نے ایک شخص کو مسجد میں قرآن پڑھتے ہوئے سنا اور فرمایا اس پر اللہ رحمہ فرماتے۔ اس کے پڑھنے سے مجھے قرآن کی فلاں سورت کی فلاں فلاں آیت یاد آگئی جن کو میں بھول گیا تھا۔

اس حدیث سے صاف معلوم ہوا کہ ہر سورت کی تمام آیات اور ان کی ترتیب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد ہی میں متین تھیں اس لئے آپ کا یہ فرمان صحیح ہو گا کہ فلاں سورت کی فلاں آیت میں بھول گیا تھا درہ اگر سورت کی آیات مقرر نہ ہوتیں تو آپ کا یہ کہنا صحیح نہ ہوتا کہ فلاں سورت کی فلاں

آیت ای جب ہی درست ہو گا جب آیتوں کو سورتوں کے لئے مقرر کر دیا ہو۔

(۶) قَالَ سَمِعْتُ أَبْنَى مَسْعُودًا يَقُولُ عَلَيْنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَيْفَ بَيْنَ كَثْنَيْهِ كَمَا يُعَلِّمُنِي السُّورَةُ مِنَ الْقُرْآنِ أَتَعْلَمُ بِهِ لِلَّهِ الْغَرَبُ (بخاری کتاب الاستیدان)

بخاری میں ہے۔ راوی کہتا ہے ابن مسعود کہتے تھے رسول خدا نے مجھے المحبات کی اسی طرح تعلیم دی جس طرح قرآن کی سورت کی تعلیم دیتے تھے۔

(۷) عَنْ أَنَّسِ قَالَ كَانَ رَجُلٌ لَصَرَانِيَّاً فَأَسْلَمَ وَقَرَأَ الْبَقْرَةَ وَآلَ عَمَرَانَ فَكَانَ يَكْتُبُ لِلشَّيْءِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَادَ نَصْرًا إِلَيْهِ الْغَرَبُ (بخاری کتاب المناقب)

بخاری میں ہے۔ انس رکھتے ہیں ایک عیسائی اسلام لایا اور سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھی یہ وحی لکھتا تھا پھر مرتد ہو کر عیسائی ہو گیا۔

(۸) عَنْ أَبِي مَسْعُودِ الْبَدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَيْتَ مِنْ آتِيَ سُورَةَ الْبَقْرَةِ مِنْ قَرْءَهَا فِي يَلْمِلَةٍ كَفَاهُ (بخاری مناقب)

ترجمہ:- بخاری میں ابو مسعود سے ہے رسول خدا نے فرمایا۔ آخر سورہ بقرہ سے دو آیت جو رات میں پڑھے گا وہ اس کو کافی ہوں گی۔

(۹) قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ قَدْ عَلِمْتُ لِتَقْتَلَنِي كَانَ الشَّيْءُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُهُنَّ إِثْنَيْنِ إِثْنَيْنِ فِي كُلِّ رُكْعَةٍ ثَقَامَ عَبْدُ اللَّهِ وَدَخَلَ مَعَهُ عَلْقَمَةً وَخَرَجَ عَلْقَمَةً فَأَلَّا هُوَ قَالَ عِشْرُونَ سُورَةً مِنْ أَوَّلِ الْمُفَصَّلِ عَلَى تَالِيفِ أَبْنِ مَسْعُودٍ آخِرُهُنَّ مِنْ الْخَوَافِيمِ لَهُمُ الدُّخَانُ وَعَمَّ يَسْتَكَلُونَ (بخاری فضائل)

ترجمہ:- بخاری میں ہے ابن مسعود نے کہا میں اُن ماٹی سورتوں کو جانتا ہوں جیس میں کی دو دو سورتیں آنحضرت ایک ایک رکعت میں پڑھتے تھے۔ لوگوں نے علمت سے ان سورتوں کو دریافت کیا تو علمت نے جواب دیا کہ ابن مسعود نے ترتیب کے موافق اول مفصل سے میں توہین ہیں ان میں آخر حم دخان اور عجم میسارلوں ہے۔

(۱۰) عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ آخِرُ سُورَةٍ نَزَلَتْ كَامِلَةً بَرَاءَةُ وَآخِرُ سُورَةٍ نَزَلَتْ خَاتَمَةً مُكَوَّنَةً إِنَّسَاءً يَسْتَفْتُونَكَ الْغَرَبُ (بخاری مغازی)

ترجمہ:- بخاری میں براء سے ہے کہ پوری سورتوں میں آخر میں سورہ براء نازل ہوئی اور سورہ نساء کا آخر نازل ہوا۔

اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بعض سورتیں ایسی بھی ہیں جو ایکبار پوری مرتب نازل ہوئیں اور انہیں میں سورہ براء ہے جو کہ سب کے آخر میں نازل ہوئی اور سورہ نساء کے آخر کی آیت بھی آخر میں

نازل ہوئی ہے۔
 (۱۱) عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ، بِنْتِ الْحَارِثِ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَءُ فِي
 الْمَغْرِبِ بِالْمُشْكُوَةِ عُرْفًا۔ (متفق عليه) (مشکوہ قراءۃ)

ترجمہ: مشکوہ میں بخاری مسلم سے ہے۔ ام فضل کہتی ہیں میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مغرب میں سورۃ مرسلات پڑھتے ہوئے سننا۔

(۱۲) عَنْ جَابِرِ بْنِ تَمْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَءُ فِي الْفَجْرِ يَوْمَ الْقُرْآنِ
 الْمُجِيدِ وَنَحْوَهَا۔ (مشکوہ قراءۃ)

ترجمہ: مشکوہ میں بخاری مسلم سے ہے جابر کہتے ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فجر میں سورۃ ق اور اس کے مثل سورۃ پڑھتے تھے۔

(۱۳) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَءُ فِي الْفَجْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِالْمَسْكُوَةِ
 تَنْزِيلَ السَّجْدَةِ الْأَوَّلَيْنَ وَفِي الثَّانِيَةِ هُنَّ أَقِيمَ عَلَى الْإِنْسَانِ۔ (مشکوہ قراءۃ)

ترجمہ: مشکوہ میں بخاری مسلم سے ہے ابو ہریرہ کہتے ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کو صبح کی پہلی رکعت میں الہ تنزیل المسجدۃ اور دوسرا رکعت میں ہن آقی علی الانسان پڑھتے تھے۔

(۱۴) عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ سَارِيعٍ قَالَ اسْتَخَلَفَ مَصْرُونُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَلَى الْمَدِينَةِ وَخَرَجَ إِلَيْهِ
 مَكَّةَ فَصَلَّى لَنَا أَبَا هُرَيْرَةَ الْجُمُعَةَ فَقَرَأَ مُوسَةَ الْجُمُعَةِ فِي السَّجْدَةِ الْأَوَّلَيْنَ وَفِي الْآخِرَةِ إِذَا جَاءَ
 الْمَنَافِقُونَ۔ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَئُ عَمَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ۔ (مسلم مشکوہ)

ترجمہ: مشکوہ میں مسلم سے ہے عبید اللہ کہتے ہیں مروان نے ابو ہریرہ کو مکہ جاتے وقت مدینہ میں اپنا قائم مقام کیا۔ ابو ہریرہ نے جمعہ میں اول رکعت میں سورۃ جمعہ اور دوسرا رکعت میں اذاجاتہ المناافقون پڑھی اور کہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے جموں انہیں پڑھتے سنائے۔

(۱۵) عَنْ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَءُ فِي الْعِدَيْنِ
 وَفِي الْجُمُعَةِ بِسْمِ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَهُنَّ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ۔ (مسلم مشکوہ)

ترجمہ: مشکوہ میں مسلم سے ہے نعماں کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم عیدین اور جمعہ میں سب سچا اسم ربک الاعلیٰ اور ہن آتاک حديث الغاشیۃ پڑھتے تھے۔

(۱۶) عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخطَّابَ سَأَلَ أَبَا وَاقِدِ الْلَّيْثِيَّ مَا كَانَ يَقْرَئُ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ فَقَالَ يَقْرَأُ فِيهِمَا بَقْ وَالْقُرْآنَ الْمُجِيدَ وَاقْتُوبَتِ السَّاعَةُ۔
 (مسلم مشکوہ)

ترجمہ: مشکوہ میں مسلم سے ہے عبید اللہ کہتے ہیں۔ عمر بن اشہر عن نے ابو واقد سے پوچھا کہ آنحضرت

عیدین میں کیا پڑھتے تھے کہا، سورہ ق اور سورہ اقرابت الساعۃ۔

(۱۷) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الْمَغْرِبَ بِسُورَةِ الْأَعْرَافِ فَرَقَهَا فِي التَّرْكَعَتَيْنِ۔ (مسلم، مشکوہ)

ترجمہ: مشکوہ میں مسلم سے ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی دور رکعت میں پوری سورہ اعراف پڑھی۔

(۱۸) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ مُحَمَّدًا الدَّخَانَ۔ (نسائی، مشکوہ)

ترجمہ: مشکوہ میں نسائی سے ہے۔ ابن عتبہ کہتے ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب میں حم الدخان پڑھی۔

(۱۹) عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابَتٍ قَالَ قَرَأَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْجَمِيعَ فِيهَا مَتَّفِقُ عَلَيْهِ (مشکوہ۔ سجدہ القرآن)

ترجمہ: مشکوہ میں بخاری مسلم سے ہے زید کہتے ہیں میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو سورۃ النجم سنائی مگر آپ نے اس میں سجدہ نہیں کیا۔

(۲۰) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَجَدَ نَاصِعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إِذَا السَّمَاءُ انشَقَتْ وَأَقْرَأَ بِاسْمِ رَبِّكَ۔ (مسلم، مشکوہ)

ترجمہ: مشکوہ میں مسلم سے ہے ابو ہریرہ کہتے ہیں ہم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سورہ اذا السماء انشقت اور اقرأ باسم ربک میں سجدہ کیا۔

(۲۱) عَنْ أَبِي عَمَّاسٍ قَالَ سَجَدَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَزَابِ الْجَهَنَّمِ وَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْجُدُ فِيهَا۔ (بخاری، مشکوہ)

ترجمہ: مشکوہ میں بخاری سے ہے ابن عباس کہتے ہیں سورہ ص میں سجدہ ضروری نہیں اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں سجدہ کرتے میں نے دیکھا ہے۔

(۲۲) عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَرَأَ فِيهِنَّ الْبَقْرَةَ وَآلِ عَمْرَانَ وَالنِّسَاءَ وَالْمَائِدَةَ أَوِ الْأَعْمَامَ۔ (ابوداؤد، مشکوہ، ملاۃ الائیل)

ترجمہ: مشکوہ میں ابو داؤد سے ہے مذیف نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو شب کی نماز پڑھتے دیکھا۔ آپ نے چار رکعت پڑھیں جن میں سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نار، سورہ مائدہ یا انعام کو پڑھا۔

(۲۳) عَنْ عَلَيْهِ تَعَالَى قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوْرِثُ بَلَاثِ يَقْرُءُ فِيهِنَّ يَتَسَعُ

سُورَةِ الْمُفْصِلِ يَقْرَئُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِثَلَاثَ سُورَاتٍ أَخْرَهُنَّ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ۔ (ترمذی مشکوہ)

ترجمہ:- مشکوہ میں ترمذی سے ہے۔ علی رضی فرمایا رسول خدا و ترکی تین رکعت پڑھتے جن میں مفصل کی سورتیں ہر ایک میں تین تین پڑھتے اور آنحضرت سورۃ قل ہوا شتمی۔

(۲۴) عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ كَانَ رَجُلٌ يَقْرَأُ سُورَةَ الْكَهْفِ وَإِلَيْهِ حَصَانٌ مَسْرُوبٌ طَبَشَ طَنَيْنِ فَتَفَقَّهَتْهُ سَحَابَةٌ فَعَلَتْ تَدْنُو وَقَدْ نَوْجَعَ فَرَسَهُ يَنْفُرُ فَلَمَا أَصْبَحَ أَنَّ الشَّيْءَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَكَرَذَلَكَ لَهُ نَقَالَ تِلْكَ السَّلَكِيَّةُ تَنَزَّلَكَ بِالْقُرْآنِ مُتَفَقِّهٌ عَلَيْهِ (مشکوہ فضائل القرآن)

ترجمہ:- مشکوہ میں بخاری، سلم سے ہے برادر کہتے ہیں ایک آدمی سورۃ کہف پڑھ رہا تھا اور اس کے بازو میں گھوڑا بندھا رہا تھا اتنے میں ابر نسودار ہوا جس نے گھوڑے کو گھیر لیا اور قریب ہونا شروع ہوا گھوڑا دیکھ کر کوئی نہ لگا۔ صبح کو اس نے یہ واقعہ رسول خدا سے عرض کیا۔ آپ نے فرمایا رحمت تھی جو قرآن کی وجہ سے نازل ہوئی تھی۔

(۲۵) عَنِ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَفِظَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ سُورَةِ الْكَهْفِ عَصِمَ مِنَ الدَّجَالِ۔ (مسلم مشکوہ)

ترجمہ:- مشکوہ میں سلم سے ہے ابو درداء کہتے ہیں آنحضرت نے فرمایا جو سورۃ کہف کی اول سے دس آیت یاد کرے دجال سے محفوظ رہے۔

(۲۶) عَنْ أَشْبَاعِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ كُلِّ شَيْءٍ قَلْبًا وَ قَلْبَ الْقُرْآنِ يَسْتَ - (ترمذی - دارمی - مشکوہ)

ترجمہ:- مشکوہ میں دارمی، ترمذی سے ہے انس کہتے ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر شے کے قلب ہے اور قرآن کا قلب سورۃ یسٹ ہے۔

(۲۷) عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ قَرَأَطْهَهُ وَ يَسْتَ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْفِعَامِ۔ (دارمی - مشکوہ)

ترجمہ:- مشکوہ میں دارمی سے ہے ابو ہریرہ کہتے ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اہمان و زمین کے ایک ہزار قبل سورہ ط اور سورہ یسٹ پڑھی۔

(۲۸) عَنْ جَابِرِ بْنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَنَامُ حَتَّى يَقْرَأَ الْحَرَنَيْلَ وَ تَبَارَكَ الَّذِي بَيَّدَهُ الْمَلَكُ۔ (احمر - دارمی - ترمذی - مشکوہ)

ترجمہ:- مشکوہ میں احمد دارمی، ترمذی سے ہے۔ جابر کہتے ہیں آنحضرت جب تک سورہ الہ نزول اور سورہ تبارک الذی نہیں پڑھ لیتے تھے تو سوتے نہیں تھے۔

(۲۹) عن عقبة بْن عامر قال قلت يا رسول الله أقر مسورة هوداً و سورة يوسف قال
لَن تقرئ شيئاً أبلغ عند الله من قول أعود برب الظلق . (احمد، دارمي، نسائي، مشكوة)
ترجمہ: مشکوہ میں احمد، دارمی، نسائی سے ہے عقبہ کہتے ہیں میں نے آخرت سے عرض کیا۔ سورہ ہود
اور سورہ یوسف پڑھا کر دیں۔ فرمایا قل اعوذ برب الظلق اس سے زیادہ بلطفی ہے۔

(۳۰) عن علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كُل شئ عروس و
عروس القرآن الرحمن . (مشکوہ)

ترجمہ: مشکوہ میں ہے علی رضی اللہ عنہ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سننا کہ
ہر شے کے لئے زینت ہے اور قرآن کی زینت سورہ حمزا ہے۔

(۳۱) عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ مسورة الواقعة
في كل ليلة لم تصبه فاقحة أبداً . (مشکوہ)

ترجمہ: مشکوہ میں ہے ابن مسعود کہتے ہیں۔ آخرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہر رات
میں سورہ واقعہ پڑھے محتاج نہ ہوگا۔

(۳۲) عن أبي قحافة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد لابي بن كعب إن الله أمرني
أن أقرء عليك لمن يكفر وأقال أسماني قال نعم فليكن متყع عليه . (مشکوہ)

ترجمہ: مشکوہ میں بخاری، مسلم سے ہے انس فرماتے ہیں کہ آخرت نے ابی سے فرمایا خدا کا
حکم ہے کہ میں سورہ لم یکن الذین تمہیں شناوں ابی نے عرض کیا خدا نے کیا میرا نام یا ہے۔ آپ نے فرمایا
ہاں۔ اس پر ابی پر گریہ کی حالت طاری ہو گئی۔

ان کے سوا اور بہت ایسی حدیثیں ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن کی سورتیں آپ کے
عبد مبارک میں مرتب پڑھی جاتی تھیں اور صحابہ اُس سے واقف تھے لیکن طوالت کے خوف سے محض
اسی قدر حدیثوں پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ الصاف پسند اور حق پسند کے لئے اس تدریج حدیثیں بھی کافی
ہیں البتہ جن کے دل میں فہم کا نور اور انصاف کا ذوق اور حق کی لذت نہیں وہ آنکاب کی روشنی میں
بھی راستہ نہیں دیکھ سکتے گویہ بعض حدیثیں جن میں قرآن کی چند سورتوں کا بیان ہے۔ قرآن کے
تام سورتوں کی ترتیب کے لئے شاہد ہیں مگر مزید اطینان کے لئے ایسی حدیثیں بھی لکھتا ہوں جن سے
قرآن کی تام سورتوں کی ترتیب پر روشنی پڑے۔

(۱) عن زرارة بْن أبى أوفى أن النبىَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أىَ الْعِلْمٍ أَفْضَلُ قَالَ
الْحَالُ الْمُتَحَلِّقُ بِقِيلِ مَا الْحَالُ الْمُتَحَلِّقُ قَالَ مَاصَاحِبُ الْقُرْآنِ يَقْرُءُ عَنْ أَوْلِ الْقُرْآنِ إِلَى آخِرِهِ وَمِنْ
آخِرِهِ إِلَى أَوْلِهِ كُلُّمَا حَلَّ أَرْتَحَلَ . (دارمی ص ۳۳)

ترجمہ:- دارمی میں زرارہ سے ہے آنحضرت سے دریافت کیا گیا کون سا عمل تمام میں بہتر ہے فرمایا اُتننا اور سفر کرنا۔ پوچھا گیا کس طرح۔ فرمایا قرآن دان جو قرآن کو اول سے آخر تک پڑھے پھر آخر سے اول قرآن کی طرف عود کرے یعنی دوبارہ شروع کر دے۔

یہ حدیث اس فیصلہ اور تصدیق کے لئے کافی ضمانت ہے کہ قرآن آپ کے زمانہ میں مرتب تھا۔ کیونکہ اول و آخر کی تعین پلا ترتیب اور غیر مرتب میں ناممکن ہے۔

(۲) عَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ مَا مِنْ الْمَفْصَلِ سُورَةً صَغِيرَةً
كَأَكْبَرِهِ الْأَقْدَرْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤْمِنُهَا النَّاسُ (مالك)
(مشکوٰۃ باب القراءۃ)

ترجمہ:- مشکوٰۃ میں مالک ہے ہے کہ عمر و کے باپ نے اپنے والے سے روایت کی۔ وہ کہتے ہیں مفصل میں کوئی ایسی چھوٹی ٹری سورت نہیں جسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے نماز میں نہ سُنی ہو۔ یعنی مفصل کی تمام سورتیں آپ سے سُنیں۔

(۳) عَنْ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ قَالَ أَقْرَئَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسَ عَشَرَةً
سَجَدَةً فِي الْقُرْآنِ مِنْهَا ثَلَاثَةُ فِي الْمَفْصَلِ وَفِي سُورَةِ الْجِمْعِ سِجْدَةٌ تَعْيِنُ۔ (ابن ماجہ ابو داؤد، مشکوٰۃ)
ترجمہ:- مشکوٰۃ میں ابو داؤد، ابن ماجہ سے ہے عمر و کہتے ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام قرآن میں مجھے پندرہ سجدے پڑھائے جس میں سے مفصل میں تین اور سورۃ حج میں دو ہیں۔
إن عَمْرٍو بْنَ الْعَاصِ (جَنْ كُو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھایا۔ اور قرآن میں پندرہ سجدے بتائے) کے بیٹے عبد اللہ پورے قرآن کے حافظ تھے اور ہر روز رات میں تمام قرآن تہجد میں پڑھ لیا کرتے تھے۔ عبد اللہ کے پاس پورا قرآن لکھا ہوا بھی تھا جیسا میں پہلے لکھا آیا ہے۔
عمر و عبد اللہ۔ ابو الدراویر وغیرہم کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ترتیب سے تمام قرآن پڑھایا وہی ترتیب قرآن کی آسانی تھی اور اسی ترتیب سے صحابہ نے لکھا اور یاد کیا۔ اور آخر تک اسی طرح سے مسلمانوں کے ہاتھ میں محفوظ ہے۔

(۴) وَضَمَّ عَنْ عَائِشَةَ أُعْطِيَتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبِيمَ الطَّوَالَ وَأُعْطِيَتُ مَكَانَ الزَّبُورِ
الْمَثِينَ وَأُعْطِيَتُ مَكَانَ الْإِنجِيلِ السَّبِيمَ الْمَثَانِي وَفُضِّلَتِ الْمَفْصَلُ. وَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ
الْقُرْآنَ كَانَ مُوَلَّاً مِنْ ذَلِكَ الْوَقْتِ وَأَنَّمَا جُمِعَ فِي الْمُصْحَفِ عَلَى شَيْءٍ وَاحِدٍ وَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى
أَنَّ سُورَةَ الْأَنْفَالَ سُورَةً مُسْتَقْلَةً وَلَيْسَتْ مِنْ بَرَاءَةَ السَّبِيمِ الطَّوَالِ الْبَقَرَةِ وَالْعِمَرَانَ
وَالْسَّتْرَ وَالْمَائِدَةَ وَالْأَفْعَامَ وَالْأَغْرَافَ وَالْيُونُسُ وَالْمُسْوَنُ مَا كَانَ فِيهِ مِائَةٌ أَوْ قَرِيبٌ مِنْهَا
بِزِيادةٍ بِسِيَّرَةٍ أَوْ نُقصَانٍ بِسِيَّرٍ مِنْهَا مِنَارَ الْهَدَى۔

ترجمہ: منار الہدی میں ہے۔ یعنی حضرت عائشہ سے صحیح طور سے مردی ہے کہ آنحضرت نے فرمایا کہ جائے تو رست کے بھے قرآن میں سات بڑی سورتیں دی گئیں اور جائے زبور میں دئے گئے۔ اور بجائے انجیل سبع شانی اور مفصل ان سے زائد دیتے گئے۔ اس حدیث سے ثابت ہے کہ قرآن آنحضرت کے عہد میں مرتب تھا۔ کیونکہ جو ترتیب اس حدیث میں ہے وہی ترتیب قرآن کی اس وقت ہے اور پھر یہ بھی معلوم ہوا کہ سورہ النفال مستقل صورت ہے اور سورہ براءۃ کا حصہ نہیں ہے۔ صاحب منار الہدی نے تو اس حدیث کو حضرت عائشہ سے روایت کیا۔ اور امام احمد نے اپنی مسند میں واٹل بن الاستع سے روایت کیا ہے جیسا کہ اتفاقاً میں میتوطی میں ہے۔

الغرض بانی اسلام نے سورتوں کی آیات میں اور سورتوں میں جو ترتیب قائم کی اور ہزاروں صحابہ نے آپ سے جس ترتیب سے سُنَا اور کہ اپنے پڑھایا لکھایا اُسی ترتیب سے صحابہ نے یاد کیا اور لکھا۔ اور ان کے بعد تابعین نے بھی صحابہ سے جو ترتیب سُنی یا لکھی وہ وہی ترتیب تھی جو بانی اسلام کے مبارک عہد میں قائم ہو چکی تھی اور نسل ابعد نسل اُسی طرح سے اس وقت تک محفوظ ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں اکثر ملک عرب کی سرزمین آفتاب اسلام سے منور ہو چکی تھی۔ مغرب میں بحر احمر سے مین کے کنارے کنارے خلیج فارس تک پہنچ گیا تھا۔ بحر قم، سندھ، عمان، یمن، طائف، مدینہ۔ ان تمام بڑے بڑے شہروں اور ان کے اطراف دیہاتوں اور تمام قبائل میں اُسی وعدہ لاشریک لڑکی پاپخوں وقت باواز ہزار منادی کی جاتی تھی۔ جمعۃ الوداع میں ایک لاکھ پہیں ہزار مسلمانوں کو آنحضرت کی ہمراہی کا فخر حاصل تھا اور ان کے ہزار لاکھوں کی تعداد میں تمام عرب میں مسلمان پھیلے ہوئے تھے۔ ہر مسلمان پر پانچ وقت نماز میں قرآن پڑھنا لازمی تھا جن میں ایسے مسلمان بھی کثرت سے تھے جو رات کے آخر حصہ میں جا گئے، قرآن پڑھتے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہزاروں مسلمانوں نے نماز میں قرآن بارہ مسنا بلکہ اس کثرت سے سُنائیں اک بعض کو سُنتے سُنتے پوری سورتیں یاد ہو گئی تھیں۔ ہر رمضان میں پورے قرآن کا آپ دور کرتے جس میں صحابہ بھی شریک ہوتے۔ ہزاروں صحابہ کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی قرآن پڑھایا اور نیز یہ بھی عام طور سے فرمادیا۔

إِنَّمَا يَلْعَقُ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ عَلَيْهِ وَحْسَانَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ إِذْمَاعَهُ وَفَتْرَةُ وَوَلَدُهُ أَصَابَ الْمَاعَرِكَهُ أَوْ مَضَحَّفًا وَرَدَهُ أَوْ مَسْجِدًا هَنَاهُ أَوْ بَيْتًا لَبْنَ السَّبِيلِ هَنَاهُ أَوْ نَهَرًا أَجْرَاهُ أَوْ صَدَقَهُ أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فِي صِحَّتِهِ وَحِيَايَتِهِ تَلْعَقُهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ۔

(مشکوٰ۔ کتاب العلم عن ابی ہریرہ)

ترجمہ:- یعنی مسلمان کو مرنے کے بعد بھی اس کے اعمال سے ان اعمال کا ثواب ملتا رہتا ہے (۱) وہ علم جس کو لوگوں میں شائع کرے اور تعلیم دے (۲) اولاد صالح (۳) لکھائے ہوئے قرآن کو اپنے مالی متروکہ میں چھوڑے (۴) مسجد بنائے (۵) مسافر خانہ بنائے (۶) نہر تخلوائے (۷) اپنی صحت میں صدقہ نکالے۔

آنحضرت کے اس فرمان کے بعد کون ایسا مسلمان ہو گا جس نے قرآن کے لکھائے کی کوشش نہ کی ہوگی اور کیا اس کے بعد بھی صحابہ نے قرآن نہ لکھائے ہوں گے۔ الفرض آپ کی زندگی کا اعلیٰ مقصد صرف قرآن کی تعلیم تھی۔ ہزاروں کی تعداد میں تمام سر زمین عرب پر آپ کی طرف سے قرآن کے معلمین اور مبلغین پہیلے ہوئے تھے اور تمام عرب گھر گھر اور بجتے سے لے کر بڑھتے تک مردے لے کر عورت تک ہر شخص کی زبان پر قرآن کا ذکر کردا اور اس کی ولغت اور دلکش عجیب دغیرہ طرز نے ہر شخص کو اپنا فریفہ اور گردیدہ بنایا تھا۔ ہر مسلمان کو کم و بیش قرآن یاد تھا۔ اور ہزاروں ایسے تھے جن کو قرآن حام و کمال حفظ تھا اور ہزاروں کی تعداد میں لکھا ہوا قرآن بھی ان میں تھا اور ان حفاظت کے دل اور ادراق کے صفات پر اسی ترتیب سے منقش اور لکھا ہوا تھا جو معلم اول اور اسلام کے داعی سے انہوں نے سیکھا اور سناتھا۔ آخری رمضان میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے دوبار ختم کئے اور اس میں ابن مسعود اور زید بن ثابت بھی برابر موجود ہے اور تمام و کمال قرآن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا، ابن قیم نے تعارف میں زید بن ثابت کے احوال میں لکھا ہے۔
 کَانَ آخِرُ عَرْضٍ رَّمَوْلَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقُرْآنَ عَلَى مُضْعِفِيهِ وَفَوْأَفْرَبَ الْمَصَاحِفِ
 مِنْ مُضْعِفِنَا وَقَدْ كَتَبَ زَيْدٌ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ۔

زید نے اخیر میں اپنا لکھا ہوا قرآن آنحضرت کو سنایا اور زید کے اس قرآن کی ترتیب ہمارے قرآن کی تھی۔ اور زید نے حضرت عمرؓ کے لئے بھی ایک قرآن لکھا تھا۔

صحیح بخاری کی کتاب فضائل القرآن کے باب تَكَانَ جِبْرِيلُ يُعَارِضُ الْقُرْآنَ میں ہے۔
 عَنْ فَاطِمَةَ، أَسْرَارِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ جِبْرِيلَ يُعَارِضُنِي بِالْقُرْآنِ حَلْكَ سَنَةً وَلَدَّهُ عَارِضَنِي الْعَامَ مَرَّتَيْنِ وَلَا أَرَاهُ إِلَّا حَسِرَ أَجْلِنِي۔

فاطمہ نے فرمایا، آنحضرت نے رازداری کے طور سے مجھ سے یہ فرمایا کہ جبریل ہر سال قرآن کا ایک بار مجھ سے دو دکھنے تھے مگر اسال دوبار کیا۔ اس کی وجہ شایدی ہے کہ آفتاب نبوت غروب ہوا جاتا ہے۔ جس ترتیب سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے قرآن میں آخر وقت میں دوسری کیا تھا وہی ترتیب قرآن کی آج تک مسلمانوں میں ہے اور تمام اہل اسلام اس پر متفق ہیں۔ چنانچہ مولا نما بحر العلوم شریعہ مسلم میں لکھتے ہیں۔

(۱) دلایل اظہرہ من هذان الترتیب الی ذی یقرأ علیه القرآن ثابت عن رَسُولِ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ فَانَّ القراء العشرة بأسانید ہم الصلاح الجميع على صحیحتها نقلوا عن رَسُولِ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ قراءتهم و قرروا على هذا الترتیب و نقلوا ان شیوخهم اقره هم هنکذا او شیوخ شیوخهم اقره هم هنکذا الى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ۔ (شرح مسلم بجز العلوم مصر من)

ترجمہ:- یہاں سے معلوم ہوا قرآن کی یہ ترتیب جس پر وہ آج ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اس لئے کہ وہ دس قاری جن کی قراءت اسلامی دنیا میں بااتفاق مقبول ہے ان رسول نے اپنی ایسی صحیح سندوں سے جس کی صحت پر تمام امت کا اتفاق ہے قرآن کو اسی ترتیب سے آنحضرت سے نقل کیا اور ان کے آستادوں نے انھیں اسی طرح سے پڑھایا اور بتایا ہے۔ اسی طرح سے برابر مسلم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔

مولوی سید محمد صاحب فاضل شیعی تنزیہ القرآن میں مولوی سید مرتضی علم البیڈی سے ناقل ہیں۔

(۲) إِنَّ الْقُرْآنَ كَانَ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ قِيمَةٌ عَالِيَّةٌ مَا هُوَ عَلَیْہِ
إِنَّ وَكَانَ يُدْرَسُ وَيُحْفَظُ جَيْنِيْهُ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ وَإِنَّهُ كَانَ يُعَرَضُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ
وَيُبَثَّلَ عَلَیْہِ وَإِنَّ جَمَاعَةً مِن الصَّحَابَةِ كَعَبَدَ اللَّهَ بْنَ مَسْعُودَ وَابْنَ كَعْبَ وَغَيْرَهُمْ حَتَّمُوا الْقُرْآنَ
عَلَى النَّبِيِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ عَدَّةَ تَحْتَاتٍ وَكُلُّ ذَلِكَ بِأَدْنَى تَأْكِيلٍ يَدْلُلُ عَلَى أَنَّهُ كَانَ جَمِيعًا مَرْتَبًا
غَيْرَ مَشْبُورٍ وَلَا مَبْثُوثٍ۔ (تنزیہ القرآن ص ۲۹۳ و تفسیر روح المعانی ج ۱ ص ۲)

ترجمہ:- قرآن جس ترتیب پر آج ہے آنحضرت کے مبارک عہد میں بھی وہ اسی طرح مرتب تھا اور اسی طرح سے اس وقت پڑھایا جاتا تھا اور اسی طرح سے یاد کیا گیا۔ اور رسول خدا کو اسی طرح سے سنا تے اور آپ کے سامنے پڑھتے تھے اور صحابہ کی بڑی جماعت نے (جس میں ابن مسعود اور ابن بن کعب وغیرہم ہیں) اکثر بار آنحضرت کو بولا قرآن سنا یا جس سے صاف روشن ہے کہ قرآن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں مرتب تھا نہ متفرق غیر مرتب۔

(۳) عَنْ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ سَمِعْتُ مَا لِكَ أَيْقُولُ إِنَّمَا الْفَقْرَانَ عَلَىٰ مَا كَانُوا يَسْمَعُونَ مِنْ
النَّبِيِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ۔ (التقان)

ترجمہ:- التقان میں ابن وہب سے ہے کہ انہوں نے امام مالک سے سنا قرآن جس طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا گیا اور یہی ترتیب دیا گیا ہے۔

(۴) قَالَ الْبَغْوَىٰ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ الصَّحَابَةُ جَمِيعُهُمْ الْفَتَيَنِ الْقُرْآنَ الَّذِي أَنْزَلَهُ اللَّهُ
عَلَىٰ رَسُولِهِ فَكُلُّهُ كَمَا أَمْرَمْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ مِنْ فِيْرَانَ قَدْ مُوَاصَيْتُمْ أَذْ

آخر دا و ضعواله ترتیب ام یا نہ دوہ من رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم و کان رسول الله
صلی اللہ علیہ وسلم یلقن اصحابہ و یعلمہم مانزل علیہ من القرآن علی الترتیب الیہ هر لام
فی مصاہفنا انتہی ملخصنا۔ (القان)

ترجمہ:- القان میں ہے امام بغوی شرح السنۃ میں لکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن سخنرت
پر نازل کیا صحابہ نے اسے دیے ہی لکھا جیسا آنحضرت سے مُسا بِلَا تقدیم و تاخیر کے اور نہ اپنی طرف
سے کوئی ایسی ترتیب قائم کی جو رسول اللہ نے قائم نہ کی تھی اور نہ آپ سے سنسنی تھی آنحضرت نے
اپنے صحابہ کو خدا کا نازل کردہ قرآن اسی ترتیب سے بتایا اور سکھلا یا جو ترتیب قرآن کی اس وقت ہے۔
(۵) قَالَ أَبُو الْحَصَارِ تَرْتِيبُ السُّورَ وَضُعُضُ الأَيَّاتِ مَوَاضِعُهَا إِنَّمَا كَانَ بِالْوَحْيِ دَكَانَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ضَعُوا يَةً كَذَا فِي مَوْضِعِ كَذَا وَقَدْ حَصَلَ الْيَقِيرُ
مِنَ النَّقْلِ الْمُتَوَاتِرِ يَهْدِي هَذَا التَّرْتِيبُ مِنْ تِلَادَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمِمَّا أَجْعَجَ الصَّاغَةَ
عَلَى وَضِعِيهِ هَكَذَا فِي الْمَصْفَفِ۔

ترجمہ:- القان میں ہے ابن حصار کہتے ہیں۔ سورتوں میں آیتوں کی اپنے اپنے موقع پر ترتیب
اور قرآن میں سورتوں کی اپنی اپنی جگہ پر ترتیب کی بھی آنحضرت پر وحی ہوتی اور آنحضرت اسی وحی
کے موافق ہر آیت اور سورت کا موقع بیان فرمادیتے تھے اور اسی کے موافق صحابہ لکھتے پڑتے۔ تواتر
سے ہیں اس کا یقین ہے کہ آنحضرت قرآن کو اسی ترتیب سے پڑھتے تھے۔ چنانچہ اسی وجہ سے
تمام صحابہ نے اسی ترتیب پر جامع کیا۔

(۶) قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ الْخَاصُ الْمُخْتَارُونَ تَالِيفُ السُّورِ عَلَى هَذَا التَّرْتِيبِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔ (القان)

ترجمہ:- القان میں ہے۔ ابو جعفر کہتے ہیں کہ ترتیب قرآن کی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی
دی ہوئی ہے۔

(۷) قَالَ الشَّيْخُ حُمَيْدُ الدَّيْنِ نُوْدُوْيِ، فِي كِتَابِ التَّبَيَّانِ فِي آدَابِ حَمْلَةِ الْقُرْآنِ أَنَّ الْقُرْآنَ الْعَزِيزَ كَانَ
مُؤْلَفًا فِي زَمِنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَا هُوَ فِي الْمَصَاحِفِ الْيَوْمَ۔ (تاریخ ابن الوردي)

ترجمہ:- امام نووی نے تبیان فی آداب حملۃ القرآن میں لکھا ہے جس طرح قرآن اس وقت مرتب
ہے اسی ترتیب پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں تھا۔

(۸) ولیم میور صاحب لائف آف محاہدج اسٹوڈیوز مطبوع لندن سلسلہ مدعی میں لکھتے ہیں :-
اور عرب کا حافظ کیسا ہی دیر پا کیوں نہ ہوتا ہم ان تحریروں کو جو صرف یادی سے لکھی جائیں
ہم بے اعتبار سمجھ دیتے۔ لیکن اس امر کے باور کرنے کی وجہ معموقل ہے کہ بہت سی مجری نقلیں جن میں

مگر قرآن شامل تھا یا جو تقریباً کل پر محتوی تھیں مسلمانوں نے پیغمبر کی حیات میں لگوئی تھیں جب کہ آن لوگوں کو لکھنے کی استعداد حاصل تھی تو صحیح نتیجہ نہیں مل سکتا ہے کہ جو چیز ایسی حفاظت شدید سے یاد کی جاتی تھی وہ اسی طرح بکمال احتیاط الحکی بھی جاتی ہوگی۔ (تاریخ محمدی مولف مولوی فیروز الدین) اور اس کے بعد پھر آنzel فاضل موصوف لکھتے ہیں : علاوه آن تصریحات کے جو قرآن ہی میں ہوں اُس کے مکتوب ہونے پر پائی جاتی ہیں۔ ایک صحیح روایت میں جس میں عمر رضہ کے مسلمان ہونے کی کیفیت مردی ہے قرآن کی بیسویں سورۃ کی نقل کا تذکرہ ہے جو عمر رضہ کی بہن کے گھر میں آن کے فاتی معرف کے لئے تھی یہ اُس زمانے کا ذکر ہے جو تہجیت سے تین یا چار برس پیشتر گذرا۔ تو اگر اس قدر قدیم زمانے میں قرآن کی نقلیں الحکی جاتی تھیں اور عام تھیں۔ درآمد یا یک مسلمان کم اور منظوم تھے تو یقینی نتیجہ نہیں ملتا ہے کہ جب پیغمبر کو قوت ہوئی اور یہ کتاب اکثر ملک عرب کے لئے شریعت قرار پائی تو اس وقت قرآن کے نسخے کثیر سے بڑھ گئے ہوں گے۔

(۹) فاضل محمد بن الحسن حرامی شیعی لکھتے ہیں : ہر کے ک تشیع اخبار و شخص تواریخ و آثار نمودہ بعلم یقینی میداند کہ قرآن در غایت داعلی درجہ قواتر بودہ و آلاف صحاہ حفظ و نقل می کروند۔ آن در عہد رسول خدا مجتمع مولف بود۔

ان کے سوابھی اگر یہ خیال کیا جائے کہ علمائے اسلام نے جبکہ قرآن کے سوا آنحضرت کی حدیث میں بھی یہ احتیاط کی ہے کہ کوئی قرآن و حدیث کی تعلیم اُس وقت تک نہیں دے سکتا جب تک وہ قرآن اور حدیث کسی ایسے فاضل دعالم کو مناکر سند حاصل نہ کرے۔ جس نے اپنے اُستاد سے ہس نے اپنے اُستاد سے سند حاصل کی ہو۔ اسی طرح سے آنحضرت پلاس زنجیر کی آخری کردی منشی ہو۔ اور جو شخص پلاس زنجیر کی کڑی کی گرفت کے معنی اپنی علمی قابلیت کے اعتبار پر تعلیم دینا چاہے تو ہرگز کوئی مسلمان اس کے آگے زانزے تمذیز نہ کرے گا تا اقتیاد کہ وہ اپنے قرآن اور حدیث کے ساع کو معتبر شخص سے ثابت نہ کرے اور اس میں اور آنحضرت میں جزو اسٹے ہیں اُن کی پرہیزگاری اور دینداری ثابت نہ ہو۔ اسلامی دنیا میں اس وقت جس قدر حفاظاً اور قرآن کے قاری ہیں وہ تمام اسی قرآن کی ساعت کو مختلف واسطوں سے آنحضرت تک پہنچاتے ہیں اور ہر ایک قاری اور حافظ کی سند کا آخری شخص اسی قرآن مرتب کی پلا قیمت و تبدل اور کمی بیشی کے اپنی ساعت آنحضرت سے بیان کرتا ہے۔ تواب جب یہی قرآن اس سلسلے سے ہمارے حفاظاً اور قرار سکے پہنچا ہے اور تمام حفاظاً اور قاری اسی قرآن کی سند کو بعینہ اسی ترتیب اور الفاظ سے آنحضرت تک پہنچاتے ہیں۔ اور ہر ایک کی سند کا منشی آنحضرت پر ہے۔ اور محض لکھنے ہوئے پر اعتماد نہیں کیا جیا اور یہ سلسلے اور سنیں جو آنحضرت تک پہنچتے ہیں اس کثرت سے ہیں جو قواتر کی حدود سے

بہت زیادہ اوس کے بڑھ جلتے ہیں تو تہذیبات ملک اور قرار کا اسی قرآن مرتب کو آنحضرت سے روایت کرنا اس امر کے لئے کافی شہادت ہے کہ یہ ترتیب سرورِ کائنات کی دی ہوتی ہے اور اب اس فیصلہ اور یقین کرنے اس کے سامنے کسی خارجی شہادت کی احتیاج نہیں اور تہذیب یہی دوسری دلیل ہو سے بے نیاز اور مستغفی بنادیتی ہے۔ پس جب اس دلیل سے ثابت ہوا کہ یہ قرآن وہی ہے، جو آنحضرت نے اپنے بعد چھوڑا اور اپنی امت کو تعلیم کیا اور جس ترتیب اور طریق سے آپ نے تعلیم کیا وہ بلا کسی تغیر کے بعد یہی موجود ہے۔ اور اس موجودہ قرآن کی ترتیب بلاشبہ انوارِ نبوت کی روشنی میں انجام کو پہنچی ہے۔ پس علم اور یقین کی یہ عمارت جو تواتر کے بلند پہاڑ کی مضبوط چٹان پر قائم ہوا اس سے وہ آبگینہ جس کا خیر خبر آحاد سے ہوا اگر مکراۓ تو بجز اس کے کہ خود پاش پاش ہو جائے اس مضبوط عمارت کو کسی قسم کا صدر مہم نہیں پہنچا سکتا۔ تواتر کی روشنی ایسی صاف اور لطیف اور تیز ہے جس کے رو برو خبر آحاد کی ٹھستاقی روشنی ماند ہو جاتی ہے۔ اور اس آفتاب قلوب تاب کے طبع ہوتے ہی خبر آحاد کے کوابِ تاریخی کی چادر میں پوشیدہ اور تمام کی نظروں سے او جبل ہو جاتے ہیں اور بلے نیازی کی وجہ سے کسی کی اس پر نظر نہیں پڑتی بلکہ کسی شہادت اور خبر کا تواتر کے خلاف ہونا ہی اس کے کمزور اور بلے وقت ہونے پر نہایت ہی مستبر تمسک ہے جیسا کہ اصول فقہ میں ہے۔

اب بہت سے واقعات بے اختیار ہیں اس پر امائل کرتے ہیں کہ آنحضرت نے اپنے عہد میں قرآن کو مرتب کیا اور تعلیم دیا۔ بہت سے صحابہ نے آپ سے پوچھ لکھا اور نیز اس قدر اخبار کی اس پر شہادت ہے جو متواتر سے بھی زیادہ ہیں اور پھر قرآن کے حفاظ اور قرار کی وہ سندیں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہیں اور درج تواتر پر ہیں۔ ان تینوں باقیوں سے اگرچہ ہر ایک تہذیب ہمارے دعوے پر کافی روشنی ڈالتا ہے مگر بعد ان تینوں باقیوں (یعنی واقعات، اخبار، سنادات) کے ہمارا یہ دعویٰ کہ قرآن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں مرتب تھا۔ جو ترتیب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دی اسی ترتیب سے صحابہ نے لکھا، یاد کیا۔ بہت سے نئے قرآن کے اُسی ترتیب سے لکھے ہوئے تھے اور بہت سے اس کے پورے حفاظ آپ کے عہد میں موجود تھے، ایسا روشن اور تحکم ہو جاتا ہے کہ اس کے سامنے شکوک اور شبہات کی تاریکی کا پردہ خود بخود آٹھ جاتا ہے۔

یہ دوسری بات ہے کہ اس کی دریافت اور سمجھنے کے آلات ایسے ضعیف ہوں کہ اس روشنی کی تاب سے اُن کی خیرگی اور بڑھ جائے، یا اُن میں یہ آلات ہی نہ ہوں یا کسی اندر وفاتی تاریکی اور غدارتی اُن کے خواص کو معطل کر دیا ہو۔

اب میں یہاں علام ابن حزم کی وہ تحریر نقل کرتا ہوں جو علام موصوف نے کتاب الفصل میں اس کے متعلق لکھی ہے:-

مَنْ قَالَ أَنَّ تَقْيِيمَ الْآيَاتِ وَتَرْتِيبَ مَوَاضِعِ سُورَةِ فَعْلَمَ النَّاسُ لِيَسْ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَرَأَى
مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدْ كَذَبَ هَذَا الْجَاهِلُ دَافِعًا كَذَبَ أَقْرَأَهُ مَا سَمِعَ قَوْلَ اللَّهِ
تَعَالَى مَا نَسِمَ مِنْ آيَةٍ أَوْ نَسِبَ بِآيَاتٍ بِخَدْرِ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا وَقَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ فِي آيَةِ الْحَكْرَمِيِّ
وَآيَةِ الْكَلَالَةِ وَالْمَخْبَرَاتِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَأْمُرُوا ذَلِكَ اتْزَلَّتِ الْآيَةُ أَنْ تَجْعَلَ فِي سُورَةٍ كَذَلِكَ
فِي مَوْضِعٍ كَذَلِكَ وَلَوْلَانَ النَّاسُ رَبِّوْسُورَهُ لَمَّا تَعَدَّدَ وَجْهٌ فِلَاثَةٌ إِمَانٌ مِنْ تَبُوهَا عَلَى
الْأَوَّلِ فَالْأَوَّلُ نَزُولًا وَالْأَطْوَلُ فَمَادِدَهُ أَوْ أَلَا قَصْرٌ فَمَادِدَهُ فَإِذَا لَيْسَ ذَلِكَ كَذَبَ فَقَدْ
صَحَّ أَنَّهُ أَمْرٌ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ الَّذِي لَا يُعَارِضُ عِنْقَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَجُوزُ عَنِيرَدِ لَاقَ
أَصْلًاً۔ (ص ۲ جلد ۲)

ترجمہ:- جو کہے کہ قرآن میں آئیں خدا اور رسول کے سو اکسی انسان نے قرار دی ہیں اور اسی طرح سورتوں کی ترتیب کو کہے تو ایسا شخص جاہل ہے اور جھوٹا ہے اور مفتری ہے کیا اُسے قرآن پاک کی یہ آیت مَا نَسِمَ مِنْ آيَةٍ أَخْ اور کلال اور آیت الکرسی کے بارے میں حدیثیں نہیں سنیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن کی آیات اور سورتیں تمام خدا تعالیٰ کی شیوهٴ اُپنے ہوئی ہیں اور ترتیب دی ہوئی ہیں اور کیا اس جاہل کو یہ بھی معلوم نہیں کہ آنحضرت پر جب کچھ نائل ہوتا تھا تو فوراً فرمادیتے تھے کہ اسے فلاں سورۃ میں فلاں مقام پر لکھو۔ اس کے سوابھی یہ خیال کرو کہ سورتیں میں ترتیب اگر انسان کی دی ہوئی ہوتی تو اُس کی تینیں سورتیں تھیں۔ اول یہ کہ بڑی سورتیں سے شروع کرتے اور سب سے چھوٹی پر ختم کرتے یا اس کا اٹھائیں پہلے تمام سے چھوٹی پھر اُس سے بڑی اسی طرح تمام سے بڑی پر ختم کرتے یا شان نزول کے موافق رکھتے اور جبکہ قرآن کی موجودہ ترتیب میں ان تینوں باتوں میں سے ایک بات بھی نہیں تو معلوم ہوا کہ ترتیب انسان کی دی ہوئی نہیں بلکہ آنحضرت نے خدا کے حکم سے دی ہے۔

اس موقع پر مجھے اُن روایات کے حال کا بیان اور تنقیح کرنا بھی ضروری ہے جس کی وجہ سے عوام اور ناقفوں کو خصوصاً مخالفین کو بہت کچھ شکوک اور شبہات کا موقع ملتا ہے۔ اور جن کی وجہ سے آج اصلی واقعہ برایسا تاریخی کا پردہ پڑ گیا کہ اُس سے عوام تو کیا خواص بھی مخالفہ میں پڑ گئے۔

اشتبہ کی ایک روایت دو روایات ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ عبدان بن سعود اشتبہ کی ایک روایت کے مصحف میں قرآن کی آخر کی دو سورت یعنی معوذین نکھی ہوئی تھیں اور ابن سعود قرآن سے ان دونوں سورتوں کو بیشادیتے اور کہتے کہ یہ قرآن کی سورتیں

نہیں۔ اور حجۃ القرآن نہیں اُسے قرآن میں لکھنا چاہیئے لہ
چونکہ ان روایات سے ظاہری یہ خیال ہو سکتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عبد مبارک
میں تمام قرآن مرتب لکھا ہوا نہ تھا اور صحابہ کو اس ترتیب سے پورا یاد نہ تھا۔ ورز ابن سعود جو صحابہ
میں بڑے ذی فضل و کمال اور جلیل القدر عالم اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خلوت اور
جلوت میں ابتداء و نبوت سے آخر تک رہے اس سے ناقص نہ ہوتے۔ اس لئے ضروری ہے کہ
اس قسم کی تمام روایتوں پر کافی روشنی ڈالی جائے۔
معوذتان کے متعلق ابن سعود سے تین شخصوں کی روایات ہیں (۱) عبدالرحمٰن بن یزید
(۲) علقر (۳) زربن جیش۔

عبدالرحمٰن بن یزید کی روایت

(۱) عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ أَحْمَدَ مِنْ حَدِيثِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي إِنْجَلِيْقَعْ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ
كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَحْكُمُ الْمَعْوَذَةَ تَيْنَ مِنْ مَصَاحِفِهِ وَيَقُولُ إِنَّمَا يَنْتَأِ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ، اتَّقِنَ
میں ابن ججر سے من مصاہفہ کی جگہ من المصحف کا الفظ ہے۔

ترجمہ:- (خشی کی پہلی روایت) عبدالرحمٰن کہتے ہیں کہ ابن سعود قل اعوذ برب الفلق
اور قل اعوذ برب الناس کو اپنے قراؤں سے چھیل دیتے تھے اور یہ فرماتے تھے کہ یہ قرآن میں نہیں
ہیں یعنی یہ قرآن کی سورتیں نہیں ہیں۔

(۲) عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ أَحْمَدَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَحْكُمُ الْمَعْوَذَةَ تَيْنَ مِنْ المُصْحَفِ

لئے علام ابوالفضل شہاب الدین سید محمد والآلوسی البغدادی نے تفسیر درج المحتوى ج اصلًا سورہ فاتحہ کے بیان میں لکھا ہے۔
لادہ (ای ابن سعود) الحدیث کتب المعاوذۃ تین یعنی ابن سعود نے معوذتین ہیں لکھیں اور پھر معوذتین پر ماشیہ لکھا ہے۔
ولهم تكتب الفاتحة أيضًا لا يعتقد أنَّما يكتب من القرآن معاذ الله ولكن للإكتفاء بحفظها الوجوب۔
قرآن ہماری الصلاة فلا يخشى ضياعها۔ اہ منہ۔ اور آپ نے سورہ فاتحہ سی نہیں لکھی ہے بلکہ آپ کا زکر لکھنا اس بنا
پر زندگانی کے ضایعہ کا خطرہ نہیں ہے۔ پناہ بخدا۔ بلکہ بوجہ اس کے حفظ کے اور بوجہ اس کے کام اس پر صنانازیں واجب
ہے اور اس کے ضائع ہونے کا خطرہ نہیں ہے۔ اہ منہ۔ (یزید عفی عن)

لئے اس روایت کو ابن کثیر نے تفسیر میں اور سیوطی نے اتقان میں ابن ججر سے لکھ کر ہے۔

لئے فی حَدِيثِ الْأَعْمَشِ أَضْطَرَّ أَبَّتْ كَثِيرٍ وَهُوَ يُدَبِّرُ مِنْ وَرَبِّيْدَ لِسْنَ عَنْ ضَعِيفٍ قَالَ ابْنُ الْمَبَارِكُ افْسَدَ حَدِيثَ
أَهْلِ الْكُوفَةِ أَبُو إِنْجَلِيْقَعَ وَأَعْمَشَ كُمَدَ كَذَّا قَالَ مُغْفِرَةً (میران)، یعنی المش کی حدیث میں بہت اختلاف ہے، اعش حدیث
میں تسلیس کرتا ہے اور ضعیف روایوں سے بھی تسلیس کرتا ہے۔ ابن مبارک کہتے ہیں کلامش اور ابراہیم کے ایں کو ذمہ جو روایتیں
کی میں وہ تمام فاسد ہیں۔

لئے قسطلانی شرح بخاری جلد ۹ ص ۱۷۹ مقل اعوذ برب اللائق کی تفسیر۔

وَيَقُولُ إِنَّمَا أَمْرَرَ سُوْلُ اِلَهٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَعَوَّذُ بِهِ مَا وَلَمْ يَكُنْ عَبْدُ اللَّهِ يَقْرَأُ بِهِ مَا وَقَرَأَ
إِنَّمَا الْتَّسَامُونَ كِتَابُ اللَّهِ.

دوسری روایت۔ عبدالرحمن کہتے ہیں کہ ابن مسعود قلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ اور قلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ کو قرآن سے چھیل دیتے تھے اور فرماتے کہ آنحضرت نے ان دونوں کو تعریز بنانے کو فرمایا ہے اور نیز ابن مسعود ان دونوں کی تلاوت بھی نہیں کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ قرآن میں نہیں ہے۔

(۳) وَأَخْرَجَ عَبْدُ اللَّهِ ابْنَ أَحْمَدَ فِي زِيَادَاتِ الْمُسْتَدِّ وَالْطَّبَرَانِيُّ وَابْنُ حَرْدَانَ مُرْوَدَيَةً مِنْ طَرِيقِ الْأَعْشَشِ مِنْ إِلَيْهِ أَنْحَقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ الْخَنْجَرِيَّ قَالَ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْعُودٍ يَحْكُمُ الْمَعْوَذَتَيْنِ مِنْ مَصَاحِفِهِ وَيَقُولُ إِنَّمَا الْتَّسَامُونَ الْقُرْآنَ أَوْ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ.

تیسرا روایت۔ عبدالرحمن کہتے ہیں ابن مسعود قلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ اور قلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ کو چھیل دیتے تھے اور فرماتے کہ یہ قرآن کی سورتیں نہیں ہیں۔

علمقر کی روایت

قَالَ رَحْمَةً حَدَّثَنَا الْأَرْزَقُ بْنُ عَلِيٍّ ثَانَ حُسْنِيَّ بْنِ ابْرَاهِيمَ ثَنَانَ الصَّلَتِ بْنِ بِهِرَامَ عَنْ ابْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَةَ قَالَ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَحْكُمُ الْمَعْوَذَتَيْنِ مِنَ الْمَصَحَّفِ وَيَقُولُ إِنَّمَا أَمْرَرَ سُوْلُ اِلَهٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ أَنْ يَتَعَوَّذُ بِهِ مَا وَلَمْ يَكُنْ عَبْدُ اللَّهِ يَقْرَأُ بِهِ.

ترجمہ:- علمقر کہتے ہیں ابن مسعود قلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ اور قلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ کو قرآن سے چھیل دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ آنحضرت نے ان کی تعریز بنانے کا حکم دیا ہے اور عبدالرشد ابن مسعود ان کی تلاوت بھی نہیں کرتے تھے۔

وَأَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ هَاتَيْنِ السُّورَتَيْنِ فَقَالَ قَبِيلٌ فَقُلْتُ فَقُولُوا كَمَا قُلْتُ.

ترجمہ:- طبرانی نے ابن مسعود کی روایت لکھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان دونوں قویں... (معویتین) کے متعلق سوال کیا گیا۔ آپ نے فرمایا، مجھ سے کہا گیا اور میں نے کہا پس تم بھی کہو جیسا میں نے کہا ہے۔ (زید عفی وزیر)

لہ میں شرح بخاری جلد ۹ ص ۱۷۶ لہ تفسیر ابن کثیر میں حافظ ابوالعلی سے اور قسطلانی شرح بخاری میں ہے۔
لہ قال ابن حبان ثقة يقرئ صحاح میں اس سے روایت نہیں ہے۔ لہ قال الناس ليس بالقولي وقال ابن عدى حديث بأفرادات كثيرة وهو من أهل الصدق إلا أنه يغلط (میزان الاعتدال)۔
لہ قال أبو حاتم لا يعيت له إلا الأرجاء وَكَذَّا تَكَلَّمَ فِيهِ أَبُو ذُرْ عَذَاجَمَ (میزان الاعتدال)
لہ تفسیر درمنشر میں ہے۔

زر بن جیش کی حدیث

پہلی روایت: قَالَ أَنْجَدُ شَنَاوِ كَيْمُ شَنَا سُفِيَّاً عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زَرِّ بْنِ حُبَيْشٍ قَالَ سَأَلَتْ بْنَ مَسْعُودٍ عَنِ الْمُعْوَذَةِ تَيْنَ فَقَالَ سَالْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهَا فَقَالَ قِيلَ لِي قُلْ نَقْلُتُ لَكُمْ فَقُولُوا قَالَ أَبِي فَقَالَ لَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَنَّ نَقْوُلُ.

ترجمہ:- احمد نے دیکھ سے انہوں نے سفیان سے اخنوں نے عاصم سے اور وہ زر بن جیش سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے ابن مسعود سے معوذین کے متعلق دریافت کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے متعلق پوچھا تھا۔ آپ نے فرمایا۔ مجھ سے کہا گیا، کہوں میں نے تم لوگوں سے کہہ دیا پس تم کہو۔ ابی نے کہا ہے۔ پس ہم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہذا ہم کہتے ہیں۔ (زیر عفی عن)

دوسری روایت: قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ شَنَا عَفَانُ شَنَا حَادَّ بْنُ سَلَمَةَ أَنَّ عَاصِمَ بْنَ بَهْدَلَةَ عَنْ زَرِّ
بْنِ حُبَيْشٍ قَالَ قُلْتُ لَبِّيْ بْنَ كَعْبٍ أَنَّ أَبِي مَسْعُودَ لَا يَكْتُبُ الْمُعْوَذَةَ تَيْنَ فِي مُصْحِفِهِ فَقَالَ
أَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَنِي أَنَّ جَبَرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامَ قَالَ لَهُ قُلْ
أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ فَقُلْتُهُمَا قَالَ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ فَقُلْتُهُمَا فَخَنَّ نَقْوُلُ مَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

ترجمہ:- امام احمد نے عفان سے انہوں نے حاد سے انہوں نے عاصم سے اور انہوں نے زر سے روایت کی ہے کہ میں نے ابی سے کہا ابن مسعود اپنے مصحف میں معوذین کو نہیں لکھتے ہیں۔ ابی نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو خبر دی ہے کہ جبریل علیہ السلام نے آپ سے کہا قل اعوذ برب الفلق اور میں نے کہا۔ اور کہا قل اعوذ برب الناس اور میں نے کہا۔ لہذا ہم کہتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے۔ (زیر عفی عن)

تمسیحی روایت: عَنْ سُفِيَّاَنَ بْنِ عَيْنَيْنَ شَنَا عَبْدَهُ بْنَ أَبِي لَبَابَةَ وَعَاصِمَ بْنَ بَهْدَلَةَ أَنَّهُمَا سَمِعَا
عَنْ زَرِّ بْنِ حُبَيْشٍ قَالَ سَالَتْ أَبِي بْنَ كَعْبٍ عَنِ الْمُعْوَذَةِ تَيْنَ فَقُلْتُ يَا أَبا الْمَنْذِرِ أَنَّ أَخَاكَ أَبِي مَسْعُودٍ
يَحْدُثُ الْمُعْوَذَةَ تَيْنَ مِنَ الْمُصْحِفِ فَقَالَ إِنِّي سَالْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قِيلَ لِي فَقُلْتُ
فَخَنَّ نَقْوُلُ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

ترجمہ:- سفیان بن عینیہ عبدہ اور عاصم سے روایت کرتے ہیں کہ ان دونوں نے زر بن جیش سے سنائیں نے ابی بن کعب سے معوذین کے متعلق کہا۔ اے ابا المنذر آپ کے بھائی ابن مسعود

ابن کثیر اور مسند امام احمدیں ہے ۱۲

ابو جعفر احمدی فی مسندہ ۱۲

سوزمین کو مصحف سے گھر ج دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا۔ آپ نے فرمایا۔ مجھ سے کہا گیا اور میں نے کہا لہذا ہم بھی اسی طرح کہتے ہیں جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے۔ (زید عفی عن)

چوتھی روایت: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدُ اللَّهِ ثَنَا سُفِيَّانُ ثَنَاعَبْدَةُ بْنُ أَبِي لَبَابَةَ عَنْ زَرِّيْنِ جَيْشِ
قَالَ سُفِيَّانُ وَحَدَّثَنَا أَيْضًا عَاصِمٌ عَنْ زَرِّيْنِ مِثْلَهُ قَالَ سَأَلَتْ أَبِي بَنْ كَعْبَ فَقُلْتُ يَا أَبَا الْمُنْذِرِ إِنَّ أَخَاكَ
أَبْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ كَذَّا وَكَذَا فَقَالَ إِنِّي سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ قَيْلَنِي فَقُلْتُ
فَعَنْ نَفْرِنِ نَقُولُ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

ترجمہ: ہم سے علی بن عبد اللہ نے ان سے سفیان نے ان سے عبده ابی بابر نے زر سے اور سفیان نے ہام سے بھی زر کی روایت سنی ہے کہ وہ کہتے تھے میں نے ابی بن کعب سے دریافت کیا اور ان سے کہا اے ابا المنذر آپ کے بھائی ابن مسعود یہ اور وہ کہتے ہیں۔ ابی نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا۔ آپ نے فرمایا۔ مجھ سے کہا گیا اور میں نے کہا۔ پس ہم بھی اسی طرح کہتے ہیں جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے۔ (زید عفی عن)

معوزمین کے متعلق ابن مسعود سے ان تین نے یعنی عبد الرحمن، علقہ، زر نے یہ روایت کی ہے۔ یکن عبد الرحمن کے سوا کسی نے اپنی روایت میں ابن مسعود کا یہ قول نقل نہیں کیا (انہا لیست امن نکاب اللہ) یعنی یہ دونوں قرآن کی سورتیں نہیں ہیں۔ ابن مسعود کا انکار صرف عبد الرحمن نے نقل کیا ہے۔ ابن مسعود سے عبد الرحمن کی اس روایت کو چند باتوں نے مشتبہ کر دیا، لائق اعتبار نہ چھوڑا۔ اور صحنت کے درجے سے گرا دیا۔

(۱) ابن مسعود سے اس جملہ کی روایت میں عبد الرحمن منفرد ہے۔ علقہ اور زر کی روایت میں یہ جملہ نہیں ہے۔

(۲) عبد الرحمن سے راوی ابو الحنفہ ہے۔ ابو الحنفہ کو میزان الاعتدال میں لکھا ہے کہ اس نے اہل کوفہ کی روایات کو فاسد کر دیا اور ان سے صحیح روایت نہیں کرتا۔ اور یہ روایت اہل کوفہ سے ہے۔

(۳) ابو الحنفہ سے راوی اعشش ہے۔ اعشش کو میزان الاعتدال میں لکھا ہے کہ یہ مدت سے ہے ضدفار سے تدبیس کرتا ہے۔ اس کی حدیثوں میں بہت اضطراب ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ اس نے اہل کوفہ کی حدیثوں کو فاسد کر دیا۔ ان سے اس کی روایت صحیح نہیں ہوتی۔

(۴) اعشش شبیہ ہے اور یہ روایت چونکہ عام شیعوں کے خیالات کی تائید کرتی ہے اس لئے اعشش شبیہ کی ایسی حدیث قابل تنقیح ہے۔

(۵) اعش یا ابو الحنفی ان دونوں میں سے تنہا ایک ہی اہل کوفہ کی روایت کو فاسد کر دیتا ہے تو جس روایت میں یہ دونوں جمع ہوں اُس کا فساد بھی دو گناہ ہو جائیگا۔

(۶) ابن مسعود صحابہ میں متاز فاضل اور رذی کمال صحابی ہیں جنہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عهد سے منزہ تعلیم کو عہت دی۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ میں کسی نے اس قدر تعلیم ہمیں دی۔ خلیفہ دوم کے عہد سے آخر عمر تک کوفہ میں انھیں کا دارالعلوم گھلہ ہوا تھا۔ تمام اہل کوفہ نے انھیں کے دامن فیض میں تربیت پائی۔ تمام اسلامی دنیا میں خصوصاً کوفہ میں ہزاروں اُن کے شاگرد ہیے تھے جو منداشتا اور قضا اور تدریس پر متاز تھے۔ اس لئے یہ امر نہایت ہی تعجب خیز اور حیرت انگیز ہے کہ ابن مسعود کے ہزاروں شاگردوں میں سے کوئی ایسی روایت نہیں کرتا۔ ہزاروں شاگردوں سے عبد الرحمن کا اس میں متفرد ہونا اور ابو الحنفی کا یہ روایت کرنا اس کے عدم وثوق اور ضبط ہونے پر ایسی شہادت ہے کہ اس کے بعد کسی گواہ کی حاجت نہیں رہتی۔ خصوصاً ایسی حالت میں کہ ابن مسعود سے ہزاروں نے اسی قرآن کی روایت کی ہے۔ اور تواتر سے بھی معلوم ہے کہ ابن مسعود نے اسی قرآن کا درس دیا ہے۔

(۷) ابن مسعود جیسے جلیل القدر صحابی کا معوزتین کے قرآن ہونے سے اسکاراً اور اختلاف اُن اہم مسائل سے ہے جن کی دوسری مثال موجود نہیں ہے۔ کیونکہ یہ ایسی بات ہے کہ ابن مسعود کے سوا کسی نے ایسی بات نہیں کہی اور اس میں ابن مسعود نے تمام صحابہ سے خلاف کیا اور اصول اسلام سے انکار کیا تو ایسی حالت میں ابن مسعود کی اس نقل سے اُن کے تمام شاگرد ضرور واقف ہوتے۔ اور روایت کرتے اور اپنے عہد میں ابن مسعود ضرور اس مسئلہ کی وجہ سے بنام ہوتے اور ان پر نکلیاں اٹھتیں اور اسلام کا بچہ بچہ اس سے واقف ہوتا۔

(۸) علاوه اُن کے خود ابن مسعود نے ایسی روایت کی ہے جس سے معوزتین کا قرآن ہونا انظر من لشکس ہے۔

وَأَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ بِسَنَدِ حَسَنٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَقَدْ أُنِزِلَ عَلَى آيَاتٍ لَمْ يَنْزُلْ مِثْلُهُنَّ مُعَوْذُتُنَّ - (الدر المنشور ج ۶ ص ۲۷)

ترجمہ: تفسیر درمنشور میں طبرانی سے ہے۔ ابن مسعود نے آنحضرت سے روایت کیا۔ آپ نے فرمایا بلاشک مجھ پر ایسی چند آیات نازل ہوئی ہیں کہ ان کی مثل نازل نہیں ہوئیں یعنی معوزتین اور اس حدیث کی سند غورہ ہے۔

اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ ابن مسعود کو یہ معلوم تھا کہ معوزتین آنحضرت پر نازل ہوئی ہیں اب اس علم کے بعد بھی کیا ابن مسعود سے یہ ممکن ہے کہ معوزتین کو قرآن سے خارج بتائیں۔ ابن مسعود کا

کی توبہ بڑی شان ہے۔ یہ تو عام مسلمان سے بھی ممکن نہیں۔

(۹) آنحضرت نے معاویہ بن خلوف کو مساجد میں پڑھا۔ صوابہ کو ان کی تعلیم دی۔ صوابہ نے آپ سے اس کو مسامع اخضارت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے فضائل اور ثواب کو بارہ بیان فرمایا۔ قرآن کی دوسری سورتوں سے جوان کو فضیلت ہے وہ بھی بیان فرمائی اور تمام کتب حدیث خصوصاً صلح میں معاویہ بن خلوف کے بارے میں متواتر روایات ہیں اس لئے صوابہ سے لے کر تمام امت کا معاویہ بن خلوف کے قرآن ہونے پر اتفاق ہے جیسے دیگر سورتوں پر اتفاق ہے۔ اب ایسی حالت میں ابن مسعود کا اس سے ناواقف ہونا اُن واقعات کو ہے جس کے سمجھنے سے انسان کی عقل قاصر ہے۔ اور بھروسے کے صحیح عقل اور انصاف کا فتنی نہیں ہو سکتا کہ ابن مسعود کے پردے میں کوئی ناپاک ضمیر ہے جس نے اپنے گندہ تزویر اور عیاری کو چھپا ہے۔ ابن مسعود کا فضل و کمال اس خجاشت اور گندگی کا ہرگز متعلق نہیں ہے۔ اس میں شک نہیں کہ ابن مسعود کے فضل و کمال کے دامن پر جو بدنا داغ دکھانے کی کوشش کی گئی وہ اس لئے با ور نہیں ہوئی کہ وہ خود اپنے جمل کی روشن شہادت رکھتی ہے۔

زر بن جبیش کی روایت

اس میں بھی سخت اختلاف ہے۔ ابن کثیر نے امام احمد سے زر کا بیان ہے کہ معاویہ بن خلوف کو میں نے ابن مسعود سے دریافت کیا۔ انہوں نے کہا میں نے اُنھیں رسول خدا سے دریافت کیا تھا۔ آپ نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے اُنھیں پڑھو میں نے بھی انھیں پڑھا ہے تم بھی پڑھو۔ پھر زر نے اُبی سے دریافت کیا۔ اُبی نے بھی بینہ بھی جواب دیا۔ دوسری روایت امام بخاری نے علی بن عبدالرشد بن سفیان کے واسطے سے نقل کی ہے اُس میں زر نے اُبی سے محض عبدالرشد کا قول نقل کیا ہے لیکن اس قول کی کچھ تفصیل نہیں ہے صرف اسی قدراً ہے۔ اُن اُبی مسعود اخلاق یقُول کَذَا وَكَذَا۔ یعنی ابن مسعود فلاں فلاں بات کہتے ہیں۔ ظاہراً معلوم ہوتا ہے کہ زر نے وہی مقولہ نقل کیا ہوگا جس کا امام احمد نے وکیع کے واسطے سے بیان کیا ہے اور اسی کی تائید اس بیان سے بھی ہوتی ہے جس کو تفسیر درمنشور میں طرائفی سے نقل کیا ہے۔ کہ ابن مسعود نے کہا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے معاویہ بن خلوف کو دریافت کیا گیا تو آپ نے وہی جواب دیا جس کو ہم نے مسند امام احمد میں وکیع کے واسطے سے نقل کیا ہے۔ زر کا یہ بیان اگر صحیح مانا جائے تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ابن مسعود معاویہ بن خلوف کے قرآن ہونے کے منکر نہ تھے۔ تیسرا روایت کو ابو بکر حمیدی نے سفیان سے نقل کیا ہے اُس میں ان یہنوں روایتوں کے خلاف ابن مسعود کا اُبی سے فعل نقل کیا ہے نہ قول۔ اس روایت میں بجا یہ یقُول کَذَا وَكَذَا کے یوں ہے يَا أَبَا الْمُنْذِرِ إِنَّ أَخْلَاقَ أَبْنَى مَسْعُودٍ يَقُولُ كَذَا وَكَذَا

بھائی ابن مسعود معاذین کو مصحف میں سے مٹلتے ہیں) چوتھی روایت امام احمد کی وہ ہے جس کو حماد بن سلۃ نے عاصم کے واسطے سے نقل کیا ہے۔ اس میں بجائے *يَحْمَدُ الْمُعْرُوفَ تَبَّاعُ عَنِ الْمُضَحَّفِ* کے لایکتب المعرفت تباع عن المضھف ہے (یعنی مٹلانے کی جگہ لکھنے کا بیان ہے کہ آپ اپنے مصحف معاذین کو نہیں لکھتے تھے) بہر حال اس مضطرب اور مختلف بیان سے ابن مسعود کا انکار ثابت ہونا نہایت مشکل ہے۔ اور ایسا بیان ہرگز گواہی میں قابل سماعت نہیں۔ زر کی اس روایت کے فیصلہ مشکل ہے کہ ابن مسعود نے معاذین سے انکار کیا اور ان کو قرآن کی سورتیں نہانتے تھے، بلکہ اس روایت میں غور اور تدقیق کی جائے تو معلوم ہو گا کہ اس میں وہ روایت صحیح ہے جس کو امام احمد نے دکیع عن سفیان کے واسطے سے نقل کیا ہے اور جس سے ثابت ہوتا ہے کہ زر نے معاذین کو پہلے ابن مسعود سے دریافت کیا اور پھر ابی سے پوچھا۔ جو جواب ابن مسعود نے دیا تھا وہی ابی نے دیا اور زر نے ابی سے ابن مسعود کا جواب بھی نقل کیا تھا۔ اس نے اس روایت کو امام بخاری نے بھی نقل کیا ہے۔ کیونکہ بخاری میں بھی یہی ہے کہ زر نے ابن مسعود کا کلام معاذین کے بارے میں ابی کے روبرو ذکر کیا نہ ابن مسعود کا فعل۔ اور طبرانی نے بھی ابن مسعود سے وہی روایت نقل کی ہے جس کو ابی نے رسول خدا سے نقل کیا۔ بہر حال امام احمد کی اس روایت کی تائید بخاری طبرانی دونوں کی روایت سے ہوتی ہے۔ اس نے اس کو زر کی دوسری روایت پر ترجیح ہے اور اس وقت یہ روایت ابن مسعود کے اقرار کو ثابت کرے گی نہ انکار کو۔

علقمہ کی روایت

اس روایت میں تین راوی ایسے ہیں جن کی وجہ سے روایت قابل تدقیق اور قابل بحث ہو گئی ہے۔


(۱) ارزق بن علی۔ گویہ معتبر ہے لیکن غریب حدیثوں کی روایت کرتا ہے۔ اسی نے صحاح میں اس سے روایت نہیں کی گئی۔

(۲) حسین بن ابراہیم۔ اگرچہ یہ بھی معتبر ہے لیکن امام نسائی کے نزدیک قابل دلوقت نہیں۔ ابن عدی کہتے ہیں کہ یہ حدیث کی روایت میں غلطی کرتے ہیں اور ایسی روایتیں بیان کرتے ہیں جو کسی نے نہیں کیں۔

(۳) الصلط بن ابراہیم۔ معتبر ہیں مگر مر جیہے ہیں۔ ابو زرع نے ان کے اس مذهب کی وجہ سے ان پر جرم کی ہے۔ صحاح میں ان سے روایت نہیں ہے کسی روایت میں ان نہیں راوی سے اگر ایک بھی ہوتا وہ روایت مغلل ہو جائے گی۔ یعنی اسی حدیث کی صحت میں فرق آجائے گا اور صحت کامل نہ رہے گی۔ اور جس روایت میں اس قسم کے تین راوی ہوں تو ایسی روایت ہرگز بلا تدقیق قابل دلوقت نہیں۔ خصوصاً ایسی صورت میں جبکہ وہ روایت دوسری صحیح روایتوں

کے خلاف ہوا اور جماعتِ امت کا مقابلہ کرے ایسی صورت میں تو صحیح روایت بھی قابلِ ثقہ نہیں رہتی اور یہ مقابلہ اور مخالفت ہی خود ائمہ کے ضعف اور وادیٰ ہونے پر نشان ہو جاتا ہے جیسا اصول فقہ میں لکھتے ہیں۔

الغرض اس بارے میں کہ ابن سعید معاذین کو قرآن کی سورتیں نہیں کہتے تھے جس قدر روایتیں ہیں وہ اول تو مختلف اور مضطرب ہیں۔ اور مضطرب روایات اگرچہ وہ ثقہ اور دیندار روایوں کی کیوں نہ ہوں ہرگز لائی اعتبر اور قابلِ تسلیم نہیں ہیں۔ دوسرے ان تمام روایتوں کے روایی ایسے نہیں جن کی روایت صحیح ہو بلکہ یہ تمام روایات بوجہ روایوں کے ضعیف ہونے کے غیر معتبر ہیں۔ تیسرا اگر ان روایتوں میں اضطراب بھی نہ ہوتا اور ان کے روایی بھی دیندار مतھم نہ ہوتے تو اس وقت بھی یہ قابلِ تسلیم نہیں ہوتیں۔ کیونکہ ابن سعید سے بتواتر ہم کو معلوم ہوا ہو کہ وہ ان سورتوں کو قرآن کا جزو کہتے تھے اور ائمہٗ قرارہ نے بہ تو اترانپی سندوں کو ابن سعید تک پہنچایا ہے۔ چنانچہ حفاظ اور قرار قرآن سے عاصم، حمزہ، اکاسی، خلفت جو مشہور قرار سے ہیں اور ان کی صحبت سند پر تمام امت کا اتفاق ہے اور تمام بلا ڈا اسلامیہ میں ان کی سندیں ہزاروں حفاظ کے پاس ہیں۔ ان چاروں کو اسی قرآن کی سند جس میں معاذین ہیں ابن سعید سے ہے ہر ایک کی سند ملاحظہ ہو۔



اب ان سندوں کے مقابلہ میں جو متواتر ہیں اور صحبت کا اعلیٰ درج رکھتے ہیں دوسری ضعیف روایتوں کا اعتبار نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح علی بن ابی طالب ابی بن کعب سے بھجو حفاظ قرآن اور قرار کے پاس اسی قرآن مرتب کی ایسی سندات ہیں جس کی صحبت پر تمام امت کا اتفاق ہے اور تمام نے انہی سے قبول کیا ہے اور درج تواتر اور صحبت کے اعلیٰ مرتبہ ہیں۔ اب ان کے مقابلہ

میں وہ روایات جن سے علیؑ یا ابن مسعودؓ یا ابی بن کعب کی تالیف اور ترتیب اس قرآن کے خلاف ثابت ہوتی ہے، معتبر نہ ہوگی۔ اسی لئے علماء نے اور مسلمانوں نے ایسی روایتوں کو جعلی اور بے اصل وابستہ کیا ہے۔ یہاں ہم ایسے چند علماء کے نام لکھتے ہیں جنہوں نے ان روایات کا اعتبار نہیں کیا۔

(۱) علام ابن حزم نے المحتل میں لکھا ہے:

هَذَا الْكِذَبُ عَلَى أَبْنِ مَسْعُودٍ وَمَوْضُوعُ وَإِثْمًا صَحَّ عَنْهُ قِرَاءَةُ عَاصِمٍ عَنْ زَرْقَعَنْهُ وَفِيهَا الْمَعْوذَةُ
وَالْفَاتِحَةُ۔

ترجمہ: معوزتین کے متعلق وہ روایتیں جن سے ابن مسعود کا انکار ثابت ہوتا ہے افراد ہے اور جملہ ہیں کیونکہ عاصم کی سند میں ابن مسعود سے جو نہایت صحیح ہے معوزتین اور فاتحہ ہے۔

(۲) علام ابن حزم نے کتاب الفصل جلد ثانی ص ۳۷ میں لکھا ہے:

وَأَمَّا قَوْلُهُمْ إِنَّ مَصْحَفَ عَبْدِ اللَّهِ أَبْيَ مَسْعُودٍ بِحَلَفٍ مُضْعِفِنَا فَبَاطِلٌ وَكَذَبٌ وَإِفْكٌ وَمَصْحَفٌ
عَبْدِ اللَّهِ أَبْنِ مَسْعُودٍ إِنَّمَا فِيهِ قِرَاءَتُهُ بِلَا شَكٍّ وَقِرَاءَتُهُ هُنَى قِرَاءَةُ عَاصِمٍ الْمَشْهُورَةُ عِنْدَ جَمِيعِ
أَهْلِ الْإِسْلَامِ فِي شَرْقِ الدُّنْيَا وَغَرْبِهَا فَقُرْءَهُمَا كَمَا ذَكَرْنَا۔

ترجمہ: اور یہ بات کہ ابن مسعود کا قرآن ہمارے قرآن موجودہ کے خلاف ہے محض بہتان اور افراد اور جھوٹ ہے۔ ہاں واقعی ان کا قرآن اُن کی قرأت کے مطابق لکھا ہوا تھا اور ان کی قرأت وہی تھی جو قرار بعد میں سے عاصم کی قرائۃ ہے اور اسی وقت تمام دنیا میں مشہور ہے یعنی محض قرارة کافر ہے نہ ترتیب کا۔

(۳) امام نووی نے لکھا ہے:

فِي شَرْحِ الْمُهَمَّذِبِ أَجْمَعُ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ الْمَعْوذَةَ وَالْفَاتِحَةَ مِنَ الْقُرْآنِ وَأَنَّ مَنْ جَدَّ مِنْهَا
شَيْئًا كُفَّرَ وَمَا نَقْلَ عَنْ أَبْنِ مَسْعُودٍ غَيْرُ صَحِيحٍ۔

ترجمہ: تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ معوزتین قرآن کی سورتیں ہیں۔ اس کا منکر کافر ہے۔ ابن مسعود سے اس کے متعلق روایات جعلی اور وابی ہیں۔

(۴) قاضی ابو بکر نے لکھا ہے:

لَا يَصْحُّ عَنْهُ أَنْهَا لَيْسَتْ بِقِرَآنٍ دَلَّا حُفْظَ عَنْهُ۔

ترجمہ: معوزتین کا انکار صحیح طور سے ابن مسعود سے ثابت نہیں ہوا۔

(۵) امام رازی نے لکھا ہے:

وَالْأَغْلُبُ عَلَى الظَّنِّ أَنَّ نَقْلَ هَذَا الْمَذَهَبِ عَنْ أَبْنِ مَسْعُودٍ نَقْلٌ بَاطِلٌ۔

ترجمہ: ابن مسعود سے جو معوزتین کے متعلق نقل ہے وہ باطل ہے۔

(۶) علام حرم العلوم عبدالعلی ابوالعیاش نے لکھا ہے:

ذبیحہ انکسار کو نہیں من القرآن ایلیہ غلط فاحش و من استدی انکسار ای ابن مسعود فلا
یعنیاء استدیہ عند معارضۃ هذہ الاسانید الصیحۃ بالاجماع والمتلقاة بالقبوی عند العلماء
الکرام بل والامة کافہ کلمہا فظهور ان نسبتہ الانکسار ای ابن مسعود باطل۔ (شرح مسلم الغوث ج ۱۰)
ترجمہ: عبدالعلی بن مسعود کو معوز تین کامنکر بتنا نہیا ہے، ہی موٹی غلط ہے۔ اس روایت
کی سند اس قابل بھی نہیں کہ اس طرف توجہ کی جائے۔ کیونکہ یہ روایت ان صحیح سندوں کے خلاف
ہے جس کی صحت پر اجماع ہے اور تمام علمائے کرام کے نزدیک مقبول ہیں۔ بلکہ تمام امت کے
نزدیک مقبول ہیں۔ لیس یہ روایت غلط ہے۔

اور لکھا ہے۔ بقی امر ترتیب السور فالمحققون علی آئه من اصر الرسول صلی اللہ علیہ وسلم و قیل هذہ الترتیب یا بجهتہ معاذ من الصعابۃ واستدل علیہ ابن فلرس باختلاف
المصاحف فی ترتیب السور فمصحف علی سیان علی ترتیب الذوق و مصحف ابن مسعود علی غیر
هذہ الذی ایلان داخن ہوا ادلو هذہ الریوایات مزخرقة موهومۃ ولم تُجده فی الكتاب
المعتبرة ولا یعنیاء بهما فی مقابلۃ التواریث الذی جرى من بعد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم
الآن۔

ترجمہ: محققین علماء کے نزدیک سورتوں کی ترتیب انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے
موافق ہے اور یہ قول کے صحابہ نے اپنی رائے سے ترتیب دی اور اس پر یہ دلیل لانا کہ حضرت علی
کرم اللہ وجہہ اور ابی بن کعب اور ابن مسعود کے قراؤں کی جو ترتیب تھی وہ قرآن کی اس ترتیب
کے مخالف تھی جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ترتیب خود صحابہ نے دی تھی۔ ورنہ ان صحابہ کی ترتیب
اس ترتیب کے خلاف نہ ہوتی ہیے قول اور یہ دلیل صحیح نہیں ہاں پہلا قبل صحیح ہے۔ اس لئے جن
روایتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان صحابہ کی ترتیب اس قرآن کے خلاف تھی وہ تمام جعلی اور
نہیں ہیں واقعیت سے اسے کچھ بھی تعلق نہیں کسی معتبر کتاب میں ایسی روایات نہیں ہیں اس
لئے یہ روایات ہرگز اس قابل نہیں کہ ان پر توجہ کی جائے خصوصاً ایسی حالت میں کہ قرآن کی یہ
ترتیب تمام امت سے آج تک منقول ہے اور تمام کا اس پر اتفاق ہے۔

اور لکھا ہے۔ وَإِنْضَا ظهَرَ مِنْ هَذَا أَنَّ التَّرْتِيبَ الَّذِي يُقْرَأُ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ ثَابِتٌ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ
صلی اللہ علیہ وسلم فَإِنَّ الْقُرْآنَ الْعَشَرَةَ بِأَسَانِيدِهِمُ الصَّحَافِ الْجَمِيعِ مَلِّ صَحَافِهِمَا فَلَمْ يَأْتُوْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ تَعَالَى
الله علیہ وسلم قراء تھم و قرروا علی هذہ الترتیب و نقلوا عن شیوخہم اقرؤاهم هکذا و شیخوؤهم
شیوخہم اقرؤوهم هکذا ای رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ (شرح مسلم بجز ج ۱۰)

ترجمہ: یہاں سے معلوم ہوا کہ قرآن کی یہ موجودہ ترتیب اُنحضرت کی دلی ہوئی ہے کیونکہ ان دشی قاریوں نے جس کی سندیں متواتر ہیں اس قرآن کو اپنی سندوں سے آنحضرت تک پہنچایا اور اسی کا آنحضرت سے سامع ثابت کیا ہے اور ان قاریوں کی یہ سندیں نہایت ہی اعلیٰ درجہ میں صحیح ہیں اور تمام امت محدثین نے ان کی صحت پر وثوق کیا ہے اور تمام کاران پر اتفاق ہے اور ہر ایک قاری یونہی نقل کرتا ہے کہ میں نے اپنے اُستاد سے اسی طرح قرآن کو سننا اور پھر یہ اُستاد اپنے اُستاد سے اسی طرح سامع بیان کرتا ہے یہاں تک کہ یہی سلسلہ آنحضرت تک پہنچتا ہے۔

اشتباه کی دوسری روایت

ابن عباس کی ایک روایت ہے جس کو امام احمد، ابو داؤد،

ترمذی، نسائی، ابن جان، حاکم نے روایت کیا ہے۔

اس روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ سورتوں کی ترتیب صحابہ کی رلئے سے ہوئی ہے اور وہ روایت یہ ہے۔

عَنْ أَبْنِ عَبَّاسِ قَالَ قُلْتُ لِعُثْمَانَ مَا حَمَلْتَكُمْ عَلَى أَنْ عَدْ تَعْرِيَ الْأَنْفَالَ وَهُوَ مِنَ الْمُثَانِي وَبَرَاءَةَ

وَهِيَ مِنَ الْمُثَيَّنِ فَقَرِئَتْ بَيْنَهُمَا دُلْوَتْكَبُوا بَيْنَهُمَا سَطْرَنِسُمْ أَلْهُ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَضَغْتُمُوْحَا فِي الْبَيْنِ

الْعَدَالِ فَقَالَ عُثْمَانُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْزُلُ عَلَيْهِ السُّورَرُ وَاتَّالْعَدَدُ فَكَانَ

إِذَا مَنْزَلَ عَلَيْهِ الشَّيْءَ دَهِيَ بَعْضُ مَنْ كَانَ يَكْتُبُ

فَيَقُولُ ضَعَوا هُوَ لَا إِلَيْهِ مُذْكُرٌ فِيهَا كَذَادَكَذَا وَكَانَتِ الْأَنْفَالُ مِنْ أَدَاطِلَ مَانَزَلَ

بِالْأَيَّنَةِ وَكَانَتْ بَرَاءَةُ مِنْ أَخِيرِ الْقُرْآنِ مُنْزَلًا وَكَانَتْ قِصَّتُهَا شَيْءٌ هَـ لِقِصَّتِهَا فَظَنَّتْهَا نَهَمَّا مِنْهَا

فَقِيقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَلْعَبِينِ لَنَّا أَنْهَا مِنْهَا فَيْمَنْ أَجْلِ ذَلِكَ قَرَنَتْ بَيْنَهُمَا

وَلَهَا كَتَبَ بَيْنَهُمَا سَطْرَنِسُمْ أَلْهُ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَضَغْتُمُوْحَا فِي الْبَيْنِ الطَّوَالِ۔

ترجمہ:- ابن عباس نے عثمان سے پوچھا تم نے سورہ انفال جو مثانی سے ہے اور سورہ برادر

جو میں سے ہے کیوں بلا دعا یعنی دونوں کے درمیان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ لکھی اور قرآن

کی سات بڑی سورتوں میں انھیں لکھا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جواب دیا اُنحضرت صلی اللہ

علیہ وسلم پر سورتیں مستعد و نازل ہوا کر تھیں اور جب کچھ نازل ہوتا کاتب کو ملا کر آپ کہ دیتے کہ

ان آیتوں کو فلاں سورۃ میں لکھو۔ انفال اُن سورتوں میں ہے جو مدینہ میں پہلے نازل ہوئی۔

اور برارت تمام قرآن میں آخر میں نازل ہوئی۔ ان دونوں کا مضمون چونکہ مشابہ تھا اس لئے

میں سمجھا کر یہ دونوں ایک سورت ہیں۔ مگر آنحضرت نے یہ نہیں فرمایا کہ برارت انفال کا جزو اور

حدتہ ہے۔ میں نے اپنے خیال کے موافق دونوں کو بلا دیا اور درمیان میں بسم اللہ نہیں لکھی اور

قرآن کی بڑی سات سورتوں میں اس کو بھی لکھ دیا۔


اس حدیث کے مضمون پر بحث اور غور سے پہلے اس کی سند پر توجہ دلاتا ہوں۔ ابو یحییٰ

ترمذی نے اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد لکھا ہے (هَذَا حَدِيثُ حَنْلَانَفِي فُلَانِي حَدِيثُ عَوْفٍ عَنْ يَزِيدِ الْفَارِسِيِّ عَنْ أَبْنَى عَبَّاسِيِّ) یعنی صحابہ میں ابن عباس کے سوا ہمارے علم میں اور کسی نے اسے روایت نہیں کیا۔ ابن عباس سے بھی یزید فارسی کے سوا کوئی اس کا راوی نہیں ہے یزید فارسی سے محض عوف بن ابی جمیلت راوی ہے۔ امام احمد نے بھی اپنی مسنده میں اس روایت کو اسی سند سے لکھا ہے جس کو میں بعینہ نقل کرتا ہوں۔

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبِي ثَنَاءً يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ثَنَاعُوفٌ ثَنَاهُ يَزِيدُ يَعْنِي الْفَارِسِيِّ
قَالَ أَبِي أَخْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ وَثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَاعُوفٌ عَنْ يَزِيدِ قَالَ قَالَ لَنَا أَبْنُ عَبَّاسِ الْمَخْرَجِ
ابْوَاوْرُ میں بھی بعینہ یہی سند ہے۔ قَالَ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنَ أَنَّا هُشَیْمَ عَنْ عَوْفٍ عَنْ يَزِيدَ
الْفَارِسِيِّ الْخَارِجِيِّ الْخَارِجِيِّ الْخَارِجِيِّ الْخَارِجِيِّ الْخَارِجِيِّ الْخَارِجِيِّ الْخَارِجِيِّ
عَوْفٌ الْأَعْرَابِيُّ عَنْ يَزِيدِ الْفَارِسِيِّ۔

الغرض اس حدیث کی تمام سندوں میں عوف ہے۔ عوف کے سوا یزید سے کسی نے اسے روایت نہیں کیا۔ اس حدیث کا پتہ عوف کے سوا کہیں سے نہیں چلتا۔ جیسا صاحب ترمذی نے بھی کہا ہے۔ عوف بن ابی جمیلہ اگرچہ محدثین کے ہاں معتبر ہے مگر تہذیب التہذیب میں ابن بشارک سے نقل کیا ہے۔ کامنٰت فیہ پذِ عَتَانِ قَدِيرِی شَنِیْعی اس میں دو باتیں ہیں ایک تو قدری ہے دوسری شیعی ذقال الانصاری رَبَّيْتُ دَادُدَ بْنَ أَبِي هَشِيدٍ يَضْرُبُ عَوْنَاؤ يَقُولُ وَلِكَ
یَا قَدِيرِی۔ الانصاری کہتے ہیں میں نے داؤ د کو دیکھا کہ عوف کو مارتا جاتا تھا اور کہتا تھا کہ تو اے قدری مر بھی نہیں جاتا۔ ذقال فی المیزَانِ قَالَ بَنَدَارُو هُوَ يَقْرُبُ لَهُمْ حَدِيثُ عَوْفٍ لَعَذَّبَ كَانَ
قَدِيرًا رَأَفْضِيلًا شَنِيْطَانًا۔ اور میزان الاعتدال میں ہے۔ بندار نے عوف کی حدیث بیان کرتے وقت لوگوں سے کہا کہ عوف رافضی شیطان ہے اور قدری ہے۔ امام مسلم نے اپنے مقدمہ میں عوف کو اگرچہ معتبر کہا ہے مگر اسی کے ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ اس کی حدیث صحت میں دوسرے معتبرین کے مثل نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اس حدیث سے چونکہ عوام شیعوں کے خیال کی تائید ہوتی ہے اور اس کا روایت کرنے والا صرف ایک ہی شخص ہے اور وہ بھی شیعہ اور فہمی ہے اور اصول حدیث کا یہ عام قانون ہے کہ اہل بدرع کی ایسی روایت ہرگز قابل اعتبار نہیں جس سے آن کے مذهب کی تائید ہوتی ہو۔ اور خصوصاً جیکہ صحیح محدثوں اور مستواتیات کی... مخالف روایت کرے۔ عوف نے یہ روایت یزید فارسی سے کی ہے۔ یزید کے سوا اسی نے ایسی روایت نہیں کی۔ یزید فارسی مجھوں شخص ہے اسی لئے عبدالرحمن بن جہدی اور امام احمد نے کہا کہ یہ یزید بن ہرمز کے سوا کوئی نہیں۔ یزید فارسی اور یزید بن ہرمز ایک ہی شخص ہے۔ لیکن

یحییٰ بن سید القطان اور صاحب ترمذی اور ابو حاتم کہتے ہیں کہ یزید فارسی یزید بن ہرمن کے بھوا دوسرے شخص ہے۔ کتب رجال میں اس کا کچھ حال نہیں ملتا۔ صرف اس قدر ہے کہ صرف ابن عباس سے راوی ہے۔ اور ابو حاتم نے اس کی نسبت لا باس بھی کہا ہے۔ امام سلم اور بخاری نے اس سے روایت نہیں کی ہے۔ اب جو شخص محدثین کے بیان مشہور نہیں اور امام احمد اور ابن مہدی جیسے شخص جو فی رجال کے ناقد اور بانی ہیں اس سے واقعہ نہیں اور نہ یہ معلوم کہ یہ کس کا بیٹا ہے کس سن میں مرا درکب پیدا ہوا۔ تو ایسے شخص کی روایت ہرگز اس قابل نہیں کہ بلا تنقیح اسے مان لیا جائے خصوصاً اس حالت میں جبکہ ایک امر متواتر اور یقینی کے مخالف ہو۔ بہر حال ابن عویج کی یہ روایت سند کے روپ سے صحیح نہیں اور غالباً اسی وجہ سے امام سلم اور امام بخاری نے اسے روایت نہیں کیا۔ اب ایسی ناقابل اعتبار روایت سے ہم اس یقینی اور قابل اطمینان بات کو چھوڑ نہیں سکتے کہ قرآن کی ترتیب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وحی کے موافق فرمائی اور نہ ایسی وابی اور منصرف بخبر سے معتبر اور یقینی با توں میں شک و شبہ کی گنجائش ہے۔ خصوصاً ایسی حالت میں جبکہ تواتر کے غلاف ہے۔ اس لئے کہ قاریان قرآن جن کی سندوں کی صحت پر تمام امت کا اتفاق ہے اور ارج ۱۰۷ نہیں کی سندوں سے قرآن ہمارے پاس آیا ہے۔ ابھی سندوں کو حضرت عثمان تک پہنچاتے ہیں اور ہر ایک ابھی سند میں بیان کرتا ہے کہ اسی قرآن موجودہ کو اسی ترتیب سے حضرت عثمان نے آنحضرت سے سنبھالا ہے۔ چنانچہ انہی مشہور قاریوں سے تین کی ایسی سندوں کو ہم یہاں لکھتے ہیں جنہوں نے اپنی سند کو حضرت عثمان تک پہنچا ہے۔



اب جبکہ تواتر سے یہ ثابت ہو گیا کہ حضرت عثمان نے اسی ترتیب سے قرآن آنحضرت سے سنبھالا۔ ابن عباس کی اس روایت کا اس کے مقابلہ میں کیا اعتبار ہو گا علاوہ اس کے ابن عباس کی یہ حدیث اپنے معنی کی نسبت سے بھی بہت کچھ شبہ میں ڈالتی ہے اور اس کے معانی میں ایسی مخالفت اور تضاد

ہے جس سے اس کے ضعف اور پوری کمزوری کا پتہ چلتا ہے۔ اس کے معانی پر بحث کے قبل یہ معلوم کر لینا ضروری ہے کہ سورہ براءۃ، انفال سے جدا سورہ ہے یا اُسی کا حصہ۔ صحیح حدیثوں اور متواتر شہادتوں سے یہ امر کہ براءۃ مستقل جدا سورہ ہے ایسا یقینی اور روشن ہے کہ اُس میں اس کے خلاف کا خطہ اور فہم تک بھی نہیں رہتا۔ ان شہادتوں سے بعض کوہم بھی نکھتے ہیں۔

پہلی شہادت

عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ أَخْرُ سُورَةٍ نَزَّلَتْ كَامِلَةً بَرَاءَةُ وَأَخْرُ سُورَةٍ نَزَّلَتْ خَاتَمَةً سُورَةِ النَّذَرِ
يَسْتَفْتُونَكَ الْمُزَّ (بخاری مغازی)

ترجمہ:- بخاری میں براء سے ہے کامل سورہ جو آخر میں اتری براءۃ ہے۔ اور آخر میں جس سورہ کا آخر نازل ہوا وہ سورہ نزار ہے۔

اس حدیث سے ظاہر ہے کہ پوری سورہ براءۃ ایک وقت میں نازل ہوئی اور آخر میں جو پوری سورت ایک وقت میں اتری وہ براءۃ ہے۔ اس سورت کے مضبوط سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ غزوۃ تبوك اور حنین اور فتح مدینہ کے بعد اتری ہے۔ بیشہ میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی معرفہ فرمایا اور حضرت علیؓ بھی اُن کے ہمراہ تھے۔ حضرت علیؓ نے ساتویں ذی الحجه کو تمام حاج کے مجموع میں براءۃ کو بڑھ کر سنایا۔ اسی طرح عرفات میں نویں کو پھر مٹی میں دسویں کو سنایا۔ (معتمر ۱۲۳)

دوسرا شہادت

وَأَخْرَجَ الطَّبَوَانِيُّ فِي الْأَوَّلِ سَطِّعَ عَنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الْمَنَافِقُ لَا يَحْفَظُ سُورَةَ هُودٍ وَبَرَاءَةَ وَنِسَ وَالدُّخَانَ وَعَدَدَ يَتَسَاءَلُونَ۔ (تفیر در منشور)

ترجمہ:- درمنشور میں او سط طبرانی سے ہے جناب امیر فرماتے ہیں کہ حضرت نے فرمایا منافق کو سورہ هود، براءۃ، نیس، دخان، عمد یتساراً لوں یاد نہیں ہوتی۔ یعنی جو انھیں یاد نہ کرے وہ منافق ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضرت کے عہد میں براءۃ مستقل اور جدا سورۃ تھی نہ انفال کا جزء۔ اور آپ نے قرآن کی دیگر سورتوں کی طرح اس کا بھی مستقل سور توں میں شمار کیا۔ اس کے سوا اس کو یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ براءۃ کے یاد کرنے کی تائید میں اس قدر سختی اور اہتمام فرمایا کہ جو یاد نہ کرے وہ منافق ہے۔ مسلمان اول تو تمام قرآن ہی کے فریفہ اور اس کے یاد کرنے اور لکھنے کی طرف ہے انتہا ساعی تھے لیکن حضرت کے اس اعلان کے بعد خصوصیت سے تمام مسلمانوں نے براءۃ کو یاد کیا اور لکھا ہو گا۔ کیونکہ اس عہد کے مسلمانوں میں ایک بھی ایسا نہیں تھا

جو مخالفوں کی فہرست میں اپنا نام دیکھنا پسند کرتا۔ اس پنابری یقینی امر ہے کہ صحابہ میں اکثر وہ ہونگے جن کو برارت یاد ہوگی اور ان کے پاس پوری تکمیل ہوئی ہوگی اور اس وقت برارت کی مستقل سورۃ ہونے میں کسی مسلمان کو کیا اشتبہ ہو سکتا ہے اور نہ کسی سے یہ امر مخفی ہو سکتا ہے کہ برارت مستقل جدا سورۃ ہے۔

تیسرا شہادت

وَأَخْرَجَ سَعِيدُ بْنَ مَنْصُورٍ وَالْحَاكِمَ وَصَحْبَهُ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي سُنْنَةِ عَنْ أَبِي ذَرٍ قَالَ حَلَّ
الْمَسْجِدُ يَوْمَ الْجَمْعَةِ وَالشَّبَّيْنِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُخَطَّبٌ فِي جَلْسَتُ قَرِيبًا مِنْ أَبِي بَنِ كَعْبٍ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُ قَرَأَ الشَّبَّيْنَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُورَةَ بَرَاءَةَ فَنَقَى بِقَدْرِ الْحَاجَةِ۔ (در منشور)

ترجمہ:- در منشور میں سنن بیہقی اور سعید بن منصور سے نقل کیا ہے اور حاکم نے اس روایت کو صحیح بتایا ہے۔ ابوذر کہتے ہیں میں جمعہ کو مسجد میں ایسے وقت داخل ہوا کہ آنحضرت خطبہ پڑھتے تھے۔ میں جا کر ابی کے پاس بیٹھ گیا۔ آنحضرت نے سورۃ برارت پڑھی۔

جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ برارت کو خطبہ میں جمع عام میں ملی روزِ الاشہاد سنایا تو کیا ایسی حالت میں مسلمان اس کے مستقل سورت ہونے سے واقف نہ ہوئے ہوں گے۔

چوتھی شہادت

وَأَخْرَجَ أَبُو عُبَيْدَةَ وَسَعِيدَ بْنَ مَنْصُورٍ وَأَبُو الشَّيْخِ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي الشَّعْبِ عَنْ أَبِي عَطِيَّةَ
الْهَمَدَانِيِّ قَالَ كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ تَعْلِمُوا سُورَةَ بَرَاءَةَ وَعُلُّوا إِنَاءَ كُمَّ
سُورَةَ النُّوْفُوسِ۔ (در منشور)

ترجمہ:- در منشور میں ابو عبیدہ، سعید بن منصور، ابو الشیخ اور بیہقی سے روایت کیا ہے کہ ابو عطیۃ الہمدانی کہتے ہیں کہ فاروق اعظم نے یہ حکم لکھا کہ تم سورۃ برارت کو سورۃ نور کھاؤ۔ حضرت عمر کے اس حکم سے بھی صاف ظاہر ہوا کہ برارت مستقل سورۃ انفال سے جدا ہتی اور اس کو یاد کرنے کا آنحضرت نے بھی اہتمام فرمایا اور سخت تاکید کی۔ اور حضرت عمر نے بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے موافق لوگوں کو اس کے یاد کرنے کا حکم دیا۔

ان واقعات سے یہ امر بخوبی روشن ہے کہ آنحضرت کے عہدِ مبارک میں سورۃ برارت کا مستقل سورتوں میں شمار تھا۔ آنحضرت نے صاف صاف اس کو علیحدہ سورتوں میں گنا یا اور نیز یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت نے بھی سورۃ برارت کو انفال کے بعد رکھا تھا۔ اور اسی ترتیب سے آنحضرت اور صحابہ پڑھتے تھے۔ چنانچہ اس ثقہی کا صحابہ سے قرآن کے حزب کے بارے میں سوال وجواب اس پر

واضح طریقے روشنی ڈالتا ہے۔ اگرچہ واقعہ بہی بھی لکھا گیا ہے مگر بقدر ضرورت یہاں بھی اعادہ کرتا ہوں۔ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَبَّكَ عَنِ الْتِلْمِلَةِ فَقَالَ بَقِيَ عَلَيَّ مِنْ حِزْبٍ شَيْءٌ فَنَكَرَهُتُ أَنَّ أَخْرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّىٰ أَقْرَأَهُ فَلَمَّا أَصْبَحْنَا قُلْنَا لِأَصْحَابِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَنَا أَنَّهُ بَقِيَ عَلَيْهِ حِزْبٌ مِّنَ الْقُرْآنِ فَكَيْفَ كُنْتُ تُخَرِّبُ الْقُرْآنَ قَالُوا نَخِرِبُ بِهِ ثَلَاثَ سُورٍ خَيْسٌ سُورٌ سَبِّيمٌ سُورٌ سَبِّيمٌ سُورٌ سَبِّيمٌ سُورٌ سَبِّيمٌ سُورٌ سَبِّيمٌ سُورٌ حِزْبٌ يَهُ المُفْصَلٌ مَا بَيْنَ قَاتٍ فَآسَفَلَ۔ (طبقات ابن سعد رابی داؤد) اوس کا بیان ہے کہ ایک شب انحضرت نے اپنے معقول سے آئے میں کچھ تاخیر کی۔ اس پر صحابہ نے عرض کی آج کس وجہ سے حضور کو دیر ہوئی۔ فرمایا روزانہ جو میں قرآن پڑھتا تھا آج وہ رہ گیا تھا اس لئے اس کے پڑھنے میں دیر ہو گئی۔ اوس کہتے ہیں اس کی صبح کو صحابہ سے میں نے دریافت کیا۔ قرآن میں تمہارا کیا اسمعول ہے۔ جواب دیا پہلے روز تین سورتیں دوسرے روز پانچ، تیسرا روز رسات، پچھتھے روز نو پانچیں روز گیارہ، پھٹے روز ترہ، ساتویں روز قاف سے آخر تک پوری مفصل۔ المعصر میں اس کے متعلق ہے۔ فَنَظَرْنَا فِيهِ فَإِذَا ثَلَاثُ سُورٍ مِّنْ أَوَّلِ الْقُرْآنِ الْبَقِّةُ۔ وَآلُّ عمرَانَ۔ وَالنَّسَاءُ۔ وَالْخَمْسُ الْمَائِدَةُ۔ وَالْأَنْعَامُ۔ وَالْأَعْرَافُ۔ وَالْأَنْفَالُ۔ وَبِرَادُوْتُ۔ وَالْتَّبِيعُ يُونُسُ۔ وَهُودُ۔ وَيُوسُفُ۔ وَالرَّعْدُ۔ وَابْرَاهِيمُ۔ وَالْحِجْرُ۔ وَالْعُلُوُّ۔ وَالْتَّسْعُ بُنُوا سَرَايِيلَ۔ وَالْكَهْفُ۔ وَمَرْيَمُ۔ وَطَهُ وَالْأَنْبِيَاءُ۔ وَالْحَجَّ۔ وَالْمُؤْمِنُونَ۔ وَالنُّورُ۔ وَالْفُرقَانُ۔ وَالْأَحْدَى عَشْرَةً۔ طُورُ سِينِينَ۔ وَالْعَنكِبُوتُ۔ وَالرُّومُ۔ وَاللَّقَمَانُ۔ وَالسَّجْدَةُ۔ وَالْأَحْزَابُ۔ وَسَبِّيمًا۔ وَفَاطِرُ دَيْنَسُ۔ وَالثَّلَاثَةُ عَشَرَ الصَّافَاتُ۔ وَصَادُ۔ وَالزَّمَرُ۔ وَحَمْرَ يَعْنِي آلَ حَمْرَ۔ وَسُورَةُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔ وَالْفَوْقُ۔ وَالْجَرَّاتُ۔ وَحِزْبُ الْمُفْصَلِ مَثَنَةً۔

یعنی صحابہ کے اس جواب کے دیکھنے سے معلوم ہوا کہ پہلے روز کی تین سورتیں بقر۔ آل عمران، نامہ ہیں۔ دوسرے روز کی پانچ میں مائدہ۔ انعام۔ اعراف۔ انفال۔ برارة۔ تیسرا روز کی سات میں یونس۔ ہود۔ یوسف۔ رعد۔ ابراہیم۔ حجر۔ خل۔ پچھتھے روز کی نو میں بنوا سراییل۔ کہف۔ مریم۔ ط۔ انبیا۔ حج۔ مومنون۔ نور۔ فرقان۔ پانچویں روز کے گیارہ میں طور سینین۔ عنکبوت۔ روم۔ لقمان۔ سجدہ۔ احزاب۔ سبا۔ فاطر۔ لیس۔ پھٹے روز کے تیرہ میں صافات۔ صاد۔ زمر۔ حم۔ یعنی آل حم۔ محمد۔ فتح۔ جرات۔ ساتویں روز میں قاف سے آخر تک یعنی مفصل تمام۔

صحابہ کے اس جواب سے تین امر معلوم ہوئے۔

(۱) رسول خدا اور نیز صحابہ نے برارة کو مستقل سورہ علیحدہ انفال سے قرار دیا تھا۔ اسی وجہ سے شمار میں اس کا نمبر انفال سے علیحدہ گناہیا۔ اور انفال کے بعد پانچویں سورت اس کو بتایا گیا۔

(۲) آنحضرت اور صحابہ نے برارة کو انفال کے بعد رکھا اور اسی ترتیب سے آپ اور صحابہ اے پڑھتے تھے۔

(۳) قرآن کے پڑھنے کی جو ترتیب آنحضرت اور صحابہ کی تھی وہ بعینہ اس قرآن کے موافق تھی اور نیز یہی امر اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے جس کو صاحب منار الہدی نے عائشہ سے اور سیوطی نے اتفاق میں واٹلہ بن الاسقع سے روایت کیا ہے۔ **أُعْطِيَتْ مَكَانُ التَّوْلِيدِ السَّبْعَ الْطَّوَالِ وَأُعْطِيَتْ مَكَانُ الرَّزْيُوسِ الْمَيْنَ وَأُعْطِيَتْ مَكَانُ الْأَنْجِيلِ السَّبْعَ الْمَثَانِي وَفُضِّلَتْ بِالْمُفْصَلِ** رواہ احمدی مسند ۸۔

چنانچہ صاحب منار الہدی بھی اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ اس سے ثابت ہوا کہ سورہ برارة مستقل سورہ ہے نہ انفال کا جزو ہے۔

الغرض ان واقعات سے یہ امر روشنی میں آگیا کہ آنحضرت نے برارة کو مستقل جدا سورة قرار دیا۔ اور انفال کے بعد اس کو رکھا۔ صحابہ بھی اس سے واقف تھے اور اسی طریقے سے اس کی تلاوت کرتے تھے۔ سورہ برارة کو جدا سورة قرار دینا اور انفال کے بعد رکھنا آنحضرت کا فعل تھا ان حضرت عثمان کا۔ جیسا قرار نے بھی حضرت عثمان سے اے نقل کیا ہے اور حضرت عثمان نے خود بھی بیان کیا کہ میں نے اسی ترتیبے آنحضرت سے مٹا۔ چنانچہ ابن عباس کے اس سوال سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے کہ سورہ انفال اور سورہ برارة دو جدا جدا سورتیں ہیں۔ اب میں ابن عباسؓ کی حدیث کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ اس حدیث میں ابن عباس نے حضرت عثمان سے دو باتیں فرماتا ہیں۔

(۱) انفال اور برارة باوجود دو سورت ہونے کے ان کو ملا کر ایک سورت کیوں کہا گیا کیونکہ ان دونوں کے درمیان میں بسم اللہ نہیں لکھی گئی جیسا کہ دو سورتوں کے درمیان لکھی جاتی تھی اس سے معلوم ہوا یہ دونوں ایک سورت ہیں۔ ابن عباس کے اس سوال سے صاف ظاہر ہے کہ یہ جدا جدا سورتیں ہیں۔

(۲) انفال مثانی سے ہے اور برارة میئن سے۔ ان کو قرآن کی پہلی سات طویل سورتوں کے ساتھ کیوں رکھا گیا۔

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا جواب

(۱) انفال اور برارة کا مضمون چونکہ باہم مشابق تھا اس لئے میں نے سمجھا کہ یہ دونوں یک ہیں۔ اسی وجہ سے میں نے دونوں کو ملا دیا اور درمیان میں بسم اللہ نہیں لکھی۔ سوال کا جواب تو

صرف اسی قدر ہے۔ لیکن جاپ سے اس قدر اور اضافہ کیا گیا۔

(۲) رسول خدا کی یہ عادت اور معمول تھا کہ جب قرآن نازل ہوتا آپ کتابوں میں سے کسی کو طلب فرمائے ہدایت کر دیتے رہاں آیتوں کو فلاں سورت میں جن میں فلاں فلاں بیان ہے مرتب کر دو۔

(۳) سورہ انفال مدینہ میں اول نازل ہوئی ہے اور برارة آخیں نازل ہوئی۔

(۴) رسول خدا نے آخر تک یہ نہیں بتالا یا کہ برارة انفال کا جز ہے۔ ان تینوں باقی کو اگرچہ جاپ سے کچھ تعلق نہیں مگر ہم بیان کرنے والے کے نہایت ممنون ہیں کہ اس نے اپنے اہل فناذ سے فیصلہ کئے نہایت آسانی کر دی اور اپنی فلسفی اور حبل پر خود ایک مستحکم شہادت فاکٹر کر دی۔ چونکہ یہ دونوں مل کر ایک بڑی سورت ہو گئی اس لئے میں نے اسے بڑی دوسرے امر کا جواب سات سورتوں میں رکھ دیا۔

اس بیان سے نہایت روشن اور ایسی وضاحت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ برارة انفال کا جزو نہیں اور جدا سورت ہے۔ حضرت عثمان کی شان تو نہایت اعلیٰ اور ارفع ہے اس سے تو معمولی سے معمولی بھج کا آدمی بھی اس نتیجہ پر بلا تردید اور یقینی طور پر آ جاتا ہے کہ دونوں علیحدہ علیحدہ ہیں۔ اس لئے کہ اس بیان سے دو مقدمے ثابت ہوتے ہیں۔

(۱) اگر اخضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسی آیات نازل ہوتیں جو کسی سورت کی مجموعتیں تو انھیں آپ اُسی وقت اُس سورت میں لکھا دیتے۔ (۲) برارة کو جو بعد میں نازل ہوئی ہے سورہ انفال میں جو پہلے نازل ہوئی ہے نہیں لکھا یا۔

ان دونوں مقدموں سے صاف یہ نتیجہ ملتا ہے کہ برارة انفال کا حصہ نہیں ورنہ آپ اے حسب معمول ضرور انفال میں لکھاتے۔ اور جب نہیں لکھا یا تو ثابت ہوا کہ انفال کا جزو نہیں۔ اب جبکہ حضرت عثمان کو ان دونوں باتوں کا خود ہی اقرار ہے تو اس کے بعد بھی دوسری طرف جانا یعنی دونوں سورتوں کے مضمون مشابہ ہونے سے استدلال کرنا۔ بعلاطحت عثمان کی شان تو اس سے نہایت اعلیٰ انصاف ہے۔ معمولی سمجھ کا آدمی بھی ایسا نہیں کر سکتا۔ اور یہ بھی خیال غلط ہے کہ اخضرت کو برارة کے انفال میں لکھانے کا وقت نہیں ہا۔ کیونکہ برارة سے ہجری میں نازل ہوئی ہے۔ اس کے نازل ہونے کے بعد ایک سال سے زیادہ کا وقت آپ کو بلا۔ علاوہ ازیں جس طرح قرآن کی تبلیغ آپ پر فرض تھی اسی طرح یہ بھی فرض تھا کہ قرآن کے ہر حصہ کو اپنی اپنی جگہ مرتب کر دیں۔ اب خود اس بیان سے یہ ثابت ہو گیا کہ یہ دونوں ایک نہیں ہیں۔ ہاں اگر یہ دونوں متصل یکے بعد دیگرے بھی نازل ہوتیں تو اس وقت میں بھی ایسا وہم ہو سکتا تھا کہ یہ دونوں شاید ایک ہوں۔ ان میں تو

یہ بھی نہیں ہے۔ بلکہ ایک اول میں نازل ہوئی ہے اور دوسرا بعده میں۔ اس درمیان میں اور بہت سی سورتیں نازل ہوئیں تو اس لئے یہاں یہ بھی وہم نہیں ہو سکتا۔ اب رہی یہ بات کہ ان دونوں کامضین مشابہ ہے اس لئے دونوں ملادی ٹھنڈیں۔ اس میں چند باتیں قابل غور ہیں۔

(۱) دو میں مشابہت مضمون سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ ایک ہوں۔ قرآن میں اکثر ایسی سورتیں ہیں کہ ان کے مضامین میں مشابہت ہے۔ (۲) یہ مشابہت اُس وقت کا آمد ہو سکتی تھی جبکہ اس کا فیصلہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا ہوتا۔ اور جب خود آنحضرت نے اس کو انفال میں نہیں لکھا یا اور اس کا نام علمی متنقل رکھ دیا تو اب مشابہت کیا کار آمد ہو سکتی ہے۔ اب تو اگر دونوں کامضین بھی بالکل متفق ہو جاتا تو ایک نہیں ہو سکتیں۔ علاوه اس کے یہ بات خود بھی غلط ہے کہ حضرت عثمانؓ نے ان دونوں کو سبع طواں میں داخل کیا۔ بلکہ یہ ترتیب رسولؐؓ نے قائمؓ کی تھی اور اسی ترتیب سے خود آنحضرت اور نیز صحابہ قرآن کو پڑھتے تھے۔ جیسا اوس ثقہنے کے بیان سے ثابت ہوا ہے۔ یہ نامکن ہے کہ حضرت عثمانؓ اس سے ناقص ہوں اور یہ ان کو معلوم نہ ہو کہ برادرۃ مستقل علیحدہ سورت ہے۔ اب واقفیت کے بعد بھی حضرت عثمانؓ کا یہ کہنا کہ یہ ترتیب میری قائمؓ کردہ ہے مسلمان اس کے سمجھنے سے قاصر ہیں خصوصاً حضرت عثمانؓ کا ایسے وقت میں یہ کہنا جبکہ ہزاروں صحابہ اس سے واقع ہے۔ علاوه اس کے ان روایات کی رو سے جو قرآن کے جمع کے بارے میں ہیں یہ ہرگز ثابت نہیں ہوتا کہ حضرت عثمانؓ نے خود اپنی رائے سے قرآن کی کوئی ترتیب قائمؓ کی تھی۔ بلکہ ان روایات سے محض یہ ثابت ہوتا ہے کہ خلیفہ اول نے اپنے عہد میں جو قرآن لکھا یا اتحاد حضرت عثمانؓ نے اس کی نقلیں کرائے ملک میں شائع کیں۔ چنانچہ حضرت عثمانؓ کی جمع کے واقع کو بخاری نے بھی نقل کیا ہے۔ اسے دیکھو اس میں ایک حرف بھی ایسا نہیں جس سے یہ معلوم ہو سکے کہ حضرت عثمانؓ نے کوئی ترتیب اپنی طرف سے دی ہے بلکہ مخفف نقل کرایا تھا۔ اب ابن عباسؓ کی یہ روایت بخاری کی اس صحیح روایت کے بھی مخالف ہوئی۔ بہر حال یہ روایت کیا بمحاذ مسند اور کیا بمحاذ مضمون ہرگز صحیح اور قبولیت کا درج نہیں رکھتی۔ رہا یہ امر کا انفال اور توبہ جب دو مستقل اور جدا جلا سورہ ہیں تو اور دیگر سورتوں کی طرح ان دونوں بسم اشکر ہوں نہیں لکھی گئی۔ میں کہتا ہوں کہ قرآن کے نقل اور لکھنے میں مسلمانوں نے چونکہ صاحبِ شریعت کا پورا اتباع کیا ہے اور جس طرح صاحبِ شریعت نے لکھا یا اُسی طرح لکھا۔ اپنی رائے سے اُس میں کسی قسم کا تبدل و تغیر نہیں کیا۔ اس وقت تک بھی قرآن میں ایسے الفاظ ہیں جو موجودہ قواعد خط اور تحریر کے خلاف ہیں۔ لیکن وہ حروف چونکہ صاحبِ شریعت کے سامنے اسی طرح لکھے گئے تھے اس لئے مسلمانوں نے اُسے بھی دیے ہیں قائمؓ رکھا اور قواعد خط کے موافق اُس میں تبدل و تغیر پسند نہیں کیا جبکہ ہم مسلمانوں

کا یہ یقین ہے کہ یہ قرآن رسول خدا کے عہد میں اسی طرح لکھا گیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لکھایا اور مقبرہ را قعات اور روایتوں نے بھی ہمارے اس یقین کو مرد پہنچا کر اور زیادہ تحریک اور روشن کر دیا۔ تو اب ہمارے لئے اس کہنے کو کوئی امر مانع نہیں کہ آنحضرت نے انفال اور برارة میں چونکہ اسم اللہ نہیں لکھائی اس لئے نہیں بکھی گئی۔ اس کے بعد ہمیں اس امر کے دریافت کرنے کی ضرورت نہیں رہتی اسی صاحبِ شریعت نے یہاں کیوں بسم اللہ نہیں لکھائی۔ ہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ صاحبِ شریعت کو یہاں اسی طرح وحی ہوئی اور اس سورت میں وحی الہی کے وقت بسم اللہ نہ تھی۔ اس سے صاف معلوم ہوا کہ برارة میں بسم اللہ نازل نہیں ہوئی۔ ورنہ کوئی وجہ نہیں کہ بسم اللہ چھپا ہوئی جاتی۔ اور یہاں نازل نہ کرنے کی مصلحت کو وہی حکیم مطلق خوب جانتا ہے جس نے اپنی مصلحت کاملہ سے اپنے بندوں کے لئے قرآن نازل کیا۔ انسان کی عقل کرۂ ارضی کے گرد حرکت سے عاجز ہے تو علویات پر اس کا حاوی ہونا جس درجہ پر ہے وہ ظاہر ہے۔

اشتباه کی تیسری روایت زید بن ثابت کی حدیث سے جسے بخاری وغیرہ نے نقل کیا ہے معلوم ہوتا ہے کہ معمر کیامہ کے بعد فاروق اعظم کی رائے سے خلیفہ اکبر نے زید کو ملا کر حکم دیا کہ تمام قرآن کو جمع کرو۔ اگر قرآن جمع نہ ہوا تو یہ نہیں کہ معمر کیامہ کی طرح چند اور جلد قرار قرآن اگر شہید ہوئے تو قرآن کا اکثر حصہ تلف ہو جائے گا۔ زید نے خلیفہ اکبر کے حکم سے تمام قرآن تلاش سے جمع کیا اور لکھا۔ اسی جمع کردہ قرآن کی چند لفظیں خلیفہ سوم نے اپنے عہد میں کرا کے مختلف جگہ بھی بھیجیں۔ اس واقعہ سے ثابت ہوتا ہے کہ پورا قرآن رسول خدا کے عہد میں لکھا ہوا نہ تھا ورنہ خلیفہ اکبر ایسا نہ کرتے۔ زید بن ثابت کی دو حدیث یہ ہے جس کو امام بخاری نے بھی روایت کیا ہے۔ میں اسے بخاری سے نقل کرتا ہوں۔

أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَرْسَلَ إِلَيَّ أَبُو بَكْرُ الصَّدِيقِ مَقْتُلَ أَهْلِ الْيَمَامَةِ فَإِذَا أُمَرْتُ بِالْخَطَابِ عَنْهُدَةً قَالَ أَبُو بَكْرٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِنَّ أُمَرْتَ أَتَأْنِي فَقَالَ إِنَّ الْقُتْلَ قَدْ أَسْخَرَ يَوْمَ الْيَمَامَةِ بِقُرْءَانِ دِلْيَى أَخْشَى إِنِّي سَخَّرْتُ الْقُتْلَ بِالْقُرْءَانِ بِالْمَوَاطِنِ فَيَذَهَبُ كَثِيرٌ مِنَ الْقُرْآنِ وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَأْمُرَ بِجَمِيعِ الْقُرْآنِ قُلْتُ إِنَّمَا كَيْفَ تَفْعَلُ شَيْئًا لَمْ يَقْعُلْهُ سُولُّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَعْرِهَدْ أَدَالِلَةَ حَيْرَنَمَ يَزَلُّ عُمُرُ رِجَاعِنِي حَتَّى شَرَحَ اللَّهُ صَدِرِي لِذِلِّكَ وَرَأَيْتُ فِي ذِلِّكَ الَّذِي رَأَى عُمَرُ قَالَ زَيْدًا قَالَ أَبُو بَكْرٌ إِنَّكَ رَجُلٌ شَابٌ عَاقِلٌ لَا نَتَهَاكَ وَقَدْ كُنْتَ تَكْتُبُ التَّوْحِيدَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَبَيَّنَ الْقُرْآنَ فَاجْمَعَهُ فَوَاللَّهِ لَوْ كَلَّفْتُ فِي نَفْلٍ جَبَلٍ مِنَ الْجِبَالِ مَا كَانَ أَنْقَلَ عَلَى مِمَّا أَمْرَنِي بِهِ مِنْ جَمِيعِ الْقُرْآنِ قُلْتُ كَيْفَ تَفْعَلُونَ شَيْئًا لَمْ يَقْعُلْهُ

سَوْلُ اَنْتَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هُوَ اَنْتَ خَيْرٌ مِّنْ يَرَى جَعْنَى حَتَّى شَرَحَ اللَّهُ
صَدِّرَتِي لِلَّذِنِ فِي شَرَحِ لَهُ صَدِّرَتِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَتَبَقَّعَتِ الْقُرْآنَ اَجْمَعُهُ مِنَ الْعُصُبِ
وَالْعِنَافِ وَصَدِّرَتِي دِرِ الرِّجَالِ حَتَّى وَجَدَتِي اُخْرَ سُورَةَ التَّوْبَةَ مَعَ اَنِّي خَزَنَيْهَا اَلْا نَصَارَى لِنَرِ
اَحْدُهَا مَعَ اَحَدٍ غَيْرِهِ لِقَدْ جَاءَ كَعْدَ سَوْلٍ مِنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَتَّى خَاتَمَتِ بِرَاءَةَ
وَكَانَتِ الصُّفْفَ عِنْدَ اَبِي بَكْرٍ حَتَّى تَوْفَاهُ اللَّهُ تَعَالَى عِنْدَ عُمَرَ حَيَاَتُهُ ثُمَّ عِنْدَ حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ.

ترجمہ:- زید کا بیان ہے کہ یامروں سے لڑائی کے زمانہ میں خلیفہ اکبر نے مجھے بلوایا میں حاضر
ہوا عمر بھی اس وقت وہاں تھے خلیفہ نے فرمایا کہ عمر نے مجھ سے کہا۔ یامروں کی لڑائی میں بہت سے قاری
قرآن شہید ہوئے ہیں۔ اسی طرح اور چند مقام پر اگر قرار شہید ہوئے تو مجھے خوف ہے کہ قرآن کا اکثر حصہ
تلخ ہو جائے گا۔ میں مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ قرآن کو جمع کرائیں۔ میں نے عمر سے کہا جو کام رسول خدا
نے نہیں کیا وہ تو کرنے کو کہتا ہے۔ عمر نے جواب دیا واقعی یہ عمل ہے۔ اسی بارے میں مجھ سے اور عمر سے
گفتگو ہوا کی۔ پھر میں بھی سمجھا کہ عمر کی رائے صحیح ہے اور مصلحت اسی میں ہے۔ اس تمام واقعہ کے بیان
کے بعد خلیفہ زید سے فرمایا۔ تو جو ان سمجھدار معتبر ہے اور وہی بھی لکھتا تھا۔ اس لئے مناسب یہ ہے
کہ توتلاش کر کے قرآن کو جمع کر۔ زید کہتے ہیں کہ اس قدر بھاری کام میرے متعلق کیا کہ اس سے بھاری
پہاڑ کا اپنی جگہ سے منتقل کرنا مجھ پر آسان تھا۔ خلیفہ سے میں نے عرض کیا۔ جو کام رسول خدا نے نہیں
کیا وہ کرو گے۔ خلیفہ نے فرمایا میں یہ بہتر ہے۔ مجھ سے اور خلیفہ سے اس میں بحث ہوا کی۔ پھر میں بھی سمجھا
کہ ان دونوں کی رائے واقعی درست ہے۔ اس پر میں نے کھجور کی پتیوں اور پتھر کے ٹکڑوں اور آدمیوں
کے سینوں سے قرآن کو جمع کیا اور لکھا۔ سورہ توبہ کا آخر (لقد جاءكم الله) محض ابو خزینہ النصاری کے
پاس ملا۔ میرالکھا ہزار ندی بھر خایہ اکبر کے پاس رہا اُن کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پھر ان کے بعد
ان کی بیٹی حضرت رضی اللہ عنہا کے پاس رہا۔

اس حدیث پر بحث سے پہلے چند بتوں کا بیان مناسب ہے جن سے اس واقعہ پر بہت کچھ
روشنی پڑے گی۔

(۱) خلیفہ اول کی خلافت کا زمانہ دو برس تین مہینے گیارہ روز ہے۔ کیونکہ سہ شنبہ ۱۰ ربیع الاول
اللہ کو آپ سند خلافت پر فروکش ہوئے۔ اور ۲۲ ربیع الاول ا آخرہ سالہ دو شنبہ کا دن گزرنے پر
غما و مغرب کے درمیان رفیق اعلیٰ سے واصل ہوتے۔

(۲) یمامہ ملک نجد میں ایک شہر ہے۔ اس میں قبیلہ بنو ہنفہ کا ایک شخص جس کا نام سیلمہ
تحتم عی نبوت ہوا۔ اللہ کے آخریں خلیفہ اول نے خالد بن ولید کو اس کے مقابلہ کے لئے روادہ

فرمایا۔ اور انعام کا نہایت خوزیری اور طفین کے بہت سے آدمی کام آنے کے بعد صداقت کی فتح اور کذب کی شکست ہوئی۔ علامہ قسطلانی نے لکھا ہے کہ گیارہ سو مسلمان شہید ہوئے اور بعض کا بیان ہے کہ چودہ سو مسلمانوں نے جام شہادت پیا جس میں ستر قرآن کے قاری تھے اور تین منزوں مهاجرین اور انصار مدینہ کے اور تین سو مہاجرین بیرونِ مدینہ تھے اور باطل پرستوں کے چودہ ہزار آدمی تلوار کے گھاٹ آتارے گئے۔

تاریخ المخلفار میں ہے۔ ثُدَّ سَارَ خَالِدٌ بِجُمُوعِهِ إِلَى الْيَمَامَةِ لِقَاتَلِ مُسَيْلِمَةَ الْكَذَابِ فِي أَدَاءِ خَرْعَانِ الْجَمَاعَةِ وَدَامَ الْحَصَارُ أَيَّامًا۔ یعنی خالد سالم کے آخر میں مسیلمہ کے مقابلہ کے لئے معہ فوج کے روانہ ہوئے۔

کامل ابن اثیر میں ہے۔ قَدْ اَخْتَلَفَ فِي تَارِيخِ حَرْبِ الْمُسَلِّمِينَ هُوَ لَاءُ الْمُرْتَدِينَ فَقَالَ ابْنُ اسْحَاقَ كَانَ فَتْحُ الْيَمَامَةِ وَالْيَمَنِ وَالْعَرَبِينِ دَيْنَ بَعْثَةً اِلَى الشَّامِ سَنَةً اُشْتَقَ عَشْرَةً وَقَالَ ابْنُ مَعْشِيرٍ وَغَيْرُهُمْ فَتْحُ الرِّزْرِدَةِ كَلْمَهَا الْخَالِدِيَّةِ غَيْرَةً سَنَةً اُحَدَى عَشَرَةَ۔ یا مہ دغیرہ کے مرتدین سے جنگ میں سورخین کا اختلاف ہے۔ ابن اسحق کے نزدیک سالہ ہمیں یہ جنگ ہوئی۔ اور ابو معشر وغیرہ کے نزدیک سالہ ہم میں۔ بہر حال اس میں کلام نہیں اور یہ امر یقینی ہے کہ یا مہ کی جنگ کا خاتمه سالہ ہم کے خاتمه پر ہوا اور اس جنگ میں زید بن ثابت بھی شریک تھے۔

(۳) مشہور قرار سے سالم مولیٰ ابو حذیفہ کے سوا کوئی قاری اس میں شہید نہیں ہوا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عہد میں چار شخصوں کو تعلیم قرآن کی اجازت دی تھی اور لوگوں سے فرمایا تھا کہ ان چار سے قرآن پڑھیں۔ ابن مسعود۔ سالم مولیٰ ابی حذیفہ۔ معاذ بن جبل۔ ابی بن کعب۔ جن میں سے سالم شہید ہوئے اور تین موجود تھے۔

(۴) زید بن ثابت نے آنحضرت کے عہد میں ہی قرآن جمع کیا تھا۔

قَالَ سَالِتُ اَنَسَّ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ جَمِيعِ الْقُرْآنِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ارْبَعَةٌ كُلُّهُمْ مِنَ الْاَنْصَارِ ابْنُ كَعْبٍ وَمُعاذُ بْنُ جَبَلٍ وَزَيْدُ بْنُ ثَابَتٍ وَابْرَازِيدَ بْنَ عَبَّادٍ تَرْجِمَهُ :- بخاری میں انس سے ہے۔ رسول خدا کے عہد مبارک میں انصار سے چار نے قرآن جمع کیا تھا۔ ابی۔ معاذ۔ زید۔ ابو زید۔

اسی کے ساتھ زید بن ثابت کو پورا قرآن حفظ بھی تھا۔ منجملہ اور حفاظات کے یہ بھی ہیں۔

بخاری کی یہ روایت صحیح ہے جس کی صحت کو علمانے بھی تسلیم کیا ہے۔

(۵) ازالۃ المخالفج ۲ ص ۲۷ میں شاہ ولی اللہ صاحب تکھتے ہیں کہ جمع کرد قرآن راجھضور آنحضرت سلی اللہ علیہ وسلم و ترتیب دادہ بود آنرا لیکن تقدیر مسا عاشر شروع آن نشد آخر ج آبُو عَمَرٍ وَعَنْ مُحَمَّدٍ نَبِيٍّ

نَعْبُ الْقُرْطَبِيُّ قَالَ كَانَ مِنْ جَمِيعِ الْقُرْآنِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ حَيٌّ
عَثَمَانُ بْنُ عَفَانَ وَعَلَيْهِ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَعَبْدُ اللَّهِ أَبْنُ مَسْعُودٍ مِنَ الْمَهَاجِرِينَ وَسَالِمُ مَوْلَى
أَبِي حُذَيْفَةَ.

حضرت عثمان نے آنحضرت کی زندگی میں قرآن کو ترتیبے جمع کیا تھا لیکن اس کی اشاعت
زہری۔ محمد بن کعب سے روایت ہے کہ آنحضرت کی زندگی میں قرآن جمع کرنے والوں میں عثمان علی
ابن مسعود، ابو حذیفہ زہری ہیں۔

(۶۱) یہ امر معلوم ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم قرآن لکھواتے اور رہت سے صحابے نے اسے
پورا لکھا اور جمع کیا جیسا بھی ہم نے ثابت کیا ہے۔

(۷۱) ہم تمام مسلمانوں کا یہ اعتقاد ہے کہ قرآن کسی حالت اور کسی وقت میں تلف نہیں ہو سکتا جس
قد قرآن ہے وہ قیامت تک بعینہ محفوظ رہے گا۔ خواہ دنیا میں ایک مسلمان بھی باقی زر ہے اور کسی
مسلمان کو کبھی یخیال و تم خطرہ کے طور سے بھی نہیں ہو سکتا کہ قرآن کا تلف ہونا ممکن ہے مسلمان جانتے
ہیں، جس طرح آنتاب و ماتتاب قیامت تک اپنے اسی آب و تاب سے زندہ رہیں گے اسی طرح یہ
چشمہ ہدایت بھی قیامت تک باقی رہے گا۔ کیونکہ یہ اُس خدا کا وعدہ ہے اُسی مکمل اتفاق ہے۔
مُنْحَنِ نَزَّلْنَا إِلَيْكُمْ رَبِّ الْأَنْبَاءِ لَحَافِظُوكُمْ

(۸) اگر یہ امر صحیح مان یا جائے کہ آنحضرت کے عہد میں قرآن جمع نہیں ہوا تھا بلکہ اُس کے اجزاء
صحابہ کے پاس لکھے ہوئے منتشر تھے اور بعض اجزاء ایسے صحابہ کے پاس بھی تھے جو قاری اور کاتب ہی
نہ تھے جیسے خزیدہ یا ابو خزیدہ۔ اور اسی لئے اس کے جمع کرنے میں تلاش اور سوال کی ضرورت تھی۔
اور بلا جمع کئے صحابہ کی شہادت یا قراءہ کی شہادت سے اس کے تلف ہونے کا خوف تھا۔ تو ایسی
حالت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد تمام مسلمانوں خصوصاً صحابہ اور خلیفہ کا
پہلا فرض یہ تھا کہ قبل اس کے کہ صحابہ مدینہ سے کسی جنگ کے لئے یا کسی دوسری غرض سے جدا
ہوں۔ قرآن جمع کیا جاتا۔ کیونکہ اول تواریخی ہی انسان کی موت و جیات کا کچھ اعتبار نہیں اور
جنگ کے موقع میں تو ہر وہ شخص جو جنگ کے لئے نکلتا ہے وہ اپنے کو یقیناً موت کا شکار جانتا
ہے اور آنحضرت کی وفات کے بعد تو اسلام اور مسلمانوں کے لئے ایسا ناٹک وقت تھا کہ اُس کو
کے حالات اور واقعات کی رو سے اسلام اور مسلمانوں کا باقی رہنا ایک ایسی بات ہے جو انسانی
عقل سے باہر ہے۔ اب ایسی حالت میں حاملانِ قرآن کا جنگ کے لئے نکلنہ کیا اس امر کو نہیں
 بتاتا کہ ان میں سے ضرور کچھ کام آئیں گے۔ اور کیا کوئی معمولی سمجھ کا شخص بھی ایسا خیال کر سکتا
ہے کہ بلا جانوں کی قربانی کئے ان کو کامیاب اور فتح نصیب ہوگی۔ خصوصاً اُس حالت میں جبکہ

فریق مقابل کی تعداد اور سامانی حرب زیادہ ہو۔ اب ایسی صورت میں بلا قرآن جمع کئے ہوئے خلیفہ کا حاملہ قرآن کو جنگ کے لئے بھیج دینا دیدہ و دالستہ قرآن کو تلف کرنا ہے اور یہ وہ امر ہے کہ مخالف و موانع کوئی بھی کسی مسلمان کی نسبت ایسا خیال نہیں کر سکتا۔ قرآن ہی وہ شے ہے جس پر اسلام کی عمارت قائم ہے اور اسی کی حفاظت کے لئے مسلمانوں نے قربانیاں کیں اور آج بھی اس کیلئے سرکف ہیں۔ پھر جوبات کے خلیفہ اول اور فاروق عظیم نے جنگ یا مارہ کے بعد کی جبکہ ہزاروں صحابہ اور حاملان قرآن شہید ہو گئے اور ایسا ہونا بھی ضروری تھا۔ اُس کا وقت اس کے قبل تھا جبکہ تمام صحابہ موجود تھے۔ نہ اس وقت۔ علاوہ اس کے جنگ یا مارہ کے بعد قرآن کے جمع کرنے سے اور وہ بھی اس صورت سے کہ مختلف چیزوں سے وہ لکھا ہوا ملا اور یہ تحریریں مختلف لوگوں کے پاس سے برآمد ہوئیں۔ یہ خیال زیادہ ممکن ہے کہ قرآن کا کچھ حصہ تلف ہو گیا ہو اور وہ اُن کے پاس ہو جو شہید ہو گئے تھے۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ تمام قرآن زید کو یاد تھا مگر وہ مجھن اپنی یاد سے لکھنا نہیں چاہتے تھے تا و قدریکہ وہ لکھا ہوا بھی نہ لے۔ اس لئے وہ لکھا ہوا ہی تلاش کرتے اور اس سے نقل کرتے اپنی یاد پر نہ لکھتے۔ اب ایسی حالت میں یہ ناممکن ہے کہ قرآن کا کچھ حصہ رہ گیا ہو۔ کیونکہ زید کو خود تمام قرآن یاد تھا۔ تو اس کے متعلق میں کہوں گا کہ اگر مجھ نکھے ہوئے ہی کی تلاش تھی تو یہ غلط ہے اس لئے کہ اس بیان میں زید خود کہتے ہیں کہ میں نے قرآن کو لکھے ہوئے اور لوگوں کی یاد دروں فوں سے معلوم کر کے لکھا ہے۔

(۹) جنگ یا مارہ کے بعد جمع قرآن کی ضرورت جب محسوس ہوئی اور اس وقت تک فاقہ قرآن غیر مجموع تھا اور جنگ یا مارہ میں قرار کے شہید ہوتے سے قرآن کے تلف ہونے کا اندیشہ ہوا۔ تو اس کے لئے یہ ضروری تھا کہ اُس وقت جو قرار سے زندہ تھے خصوصاً وہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تعلیم کی اور اپنے ہی وقت میں اجازت دی۔ اور انہوں نے عہد نبھای میں بھی لوگوں کو قرآن پڑھایا اور رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن کی یاد پر وثوق کیا۔ ان تمام قراءات اور حفاظات کو جمع کیا جاتا اور اُن کی مجلس کے متعلق یہ کام کیا جاتا نہ تنہا زیدی کی جوانی میں بھی نہیں ہیں جن کو رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عہد میں اجازت دی تھی۔ لیکن ان حفاظات اور قرار سے کسی کو بھی شرکیں نہیں کیا۔ کیونکہ اس وقت میں سالم مولیٰ ابی حذیفہ تو جنگ یا مارہ میں شہید ہو گئے تھے اور معاذ بن جبل میں تھے اور ابن مسعود عہم عراق میں شرکیے تھے جو محرومِ اللہ، بھری میں بہ سر پرستی خالدار وانہ ہوئی تھی اور ابو الدرب عاصم جنہوں نے رسولِ خدا سے پورا قرآن یاد کیا تھا وہ بھی اس میں شرکیہ نہ تھے اور عمر بن اعاشر جو ہرات میں قرآن ختم کر رہتے تھے اور پورا قرآن اُن کے پاس لکھا ہوا تھا وہ بھی باہر تھے۔ حالانکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی یہ عادت تھی کہ جب انھیں کوئی ضرورت پیش آتی تو اس میں وہ اہل الرائے اور اہل علم سے مشورہ کرتے اور مہاجرین اور انصار سے خصوصاً عمر، عثمان، علی، عبدالرحمن بن عوف، معاویہ، ابی

زید کو ضرور بلکر مشورہ کرتے۔ تجرب ہے بقول راوی یہ اس قدر عظیم الشان کام کہ جس میں حضرت عمرؓ سے بحث مباحثہ ہوا زید سے مباحثہ ہوا۔ مگر ان ارباب شورہ سے مشورہ بھی نہیا گیا حالانکہ یہ انھیں کے کرنے اور مشورے کا ہی کام تھا اس پر بھی ان کو نہ بلایا گیا۔ جو لوگ اس سے واقف ہیں اور جنہوں نے یہ کام کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ کسی مرتب نکھلی ہوئی کتاب کی صحیح نقل کرنے میں کس قدر اہتمام کی ضرورت ہوتی ہے۔ اول اس کتاب کے مختلف فنون جمع کئے جاتے ہیں۔ پھر ان میں سے تمام سے اس کا مقابلہ کر کے اس کی صحیح کی جاتی ہے اور اس پر بھی مختلف طور سے اس پر مختلف وقتوں میں مختلف اشخاص نظر ڈالتے ہیں جب بھی پورا صحیح نسخہ تیار نہیں ہوتا۔ آج کل ہی دیکھو قرآن کے سینکڑوں نسخے موجود ہیں اور ہزاروں حفاظتیں یہیں اس پر بھی اگر آج کوئی صحیح نقل کرنا چاہیے تو کس قدر اہتمام کرنا ہوگا۔ پھر کیا تنہیا ایک شخص آج بھی اس کام کو انجام دے سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہرگز نہیں۔ اور جیسا کہ قرآن تمام بیجا الکھا ہوا بھی نہ تھا تو اس وقت میں اول تو قرآن کا تلاش کرنا پھر اس سے صحیح نقل کرنا۔ خصوصاً اس حالت جبکہ تحریر کے ایسے قواعد اور اس قدر سہروتیں بھی نہ تھیں جو آج ہیں۔ کس قدر مشکل کام ہے اور کس قدر اہتمام کو چاہتا ہے اور پھر تلاش کرنا اور ایسے لوگوں سے دریافت کرنا کہ جن میں بعض ایسے بھی ہونگے جو مردینہ سے باہر ہوں تو ایسی حالت میں اس کے لئے کس قدر مدت کی ضرورت ہوگی۔ اور جیکہ اس زمان میں بھی قرآن کے برابر کوئی ایسی کتاب جس میں تلاش اور صحت کی ضرورت ہو ایک شخص ایک سال یا ایک سال جو چھینٹیں میں نہیں لکھ سکتا۔ باوجودے کہ آج کل پہلے کے اعتبار سے بہت ساں ایسا مہیا ہے جس کی وجہ سے بہت آسانی ہو گئی ہے۔ تو تنہا زید کا اس وقت میں اتنی مدت میں لکھو دینا دنیا کے اُن واقعات میں سے ہے جن کو مجرہ کہتے ہیں کیونکہ سالہ ہجری یعنی جنگ یمانہ کے بعد سے جبکہ خلافت کے نو مہینے گزر چکے تھے۔ زید نے قرآن جمع کرنا شروع کیا اور خلیفہ اول ہی کے عہد میں اُسے پورا کر لیا تو یہ تمام کام ڈیڑھ سال میں ہوا اس لئے کہ خلافت صدیقی کا کل زمان دوسال تین ہیں ہے۔ اب اس سے نو مہینے نکالنے کے بعد ڈیڑھ سال رہ جاتا ہے۔

(۱۰) ابی بن کعب تمام قراءت قرآن کے سردار ہیں جن کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اقرئہ کوئی مامی فرمایا یعنی صحابہ میں ابی تمام سے زیادہ فارمی ہیں۔ خلیفہ دوم نے عام اعلان دے دیا تھا ممن آزادان نے سأَلَ عَنِ الْقُرْآنِ فَلَيَاتِ ابْيَا جو قرآن کے متعلق دریافت کرنا چاہتے وہ ابی سے پوچھئے یعنی اُن سے زیادہ کوئی واقعہ نہیں۔ (حاکم ازاد ص ۲۲۳ ج ۲)

ابی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ہی آپ کی اجازت سے قرآن کی تعلیم دیتے اور قرآن پڑھنے والوں کی جماعت کو رسول خدا ان کے متعلق کرتے۔ انہوں نے عہد نبوی میں تمام قرآن کو جمع

کیا تھا اور کاتب وحی بھی تھے۔ تجھب ہے کہ ان کی موجودگی میں زید تو اس کام کے لئے بلاستے گئے اور زید کا اس کے لئے انتخاب ہوا اور خلیفہ اول نے اس کام کے لئے اُبی کونہ بلا یا حالانکہ یہ اُبی وقت مدینہ میں تھے اور زید سے عمدہ اس کام کو انجام دے سکتے تھے۔ اور زید کے اعتبار سے اس کے زیادہ مستحق تھے اور یہ نہیں تو یہ ضروری تھا کہ دونوں کو بلا یا جاتا اور دونوں کے متعلق یہ کام کیا جاتا۔ ان کے ہوتے ہوئے تنہا زید کے یہ کام پُسرد کرنا معمولی شخص سے بھی یہ بعید ہے۔ اور خلیفہ اول اور فاروق عظیم کی فراست اور دُور اندرشی سے تو نہایت ہی بعید ہے۔

(۱۱) عہدِ نبوی میں جب قرآن جمع نہیں کیا گیا تھا اور خلیفہ اول ہی نے اسے جمع کرایا تھا تو جمع کرنے کے بعد خلیفہ اول اور خلیفہ ثانی پر ضروری تھا کہ تمام بلاد اسلامیہ میں اس کی اشاعت کرتے اور اس کی نقلیں کر کے ہر جگہ بھوata تے اور اسی کے ساتھ یہ بھی ضروری تھا کہ مسلمان خود اس کی نقل کرتے اور تمام بلاد اسلامیہ میں اس طرح اس کی نقلیں موجود ہوتیں۔ کیونکہ تجربے اور مشاہدے سے یہ امر متفق ہے کہ مفید اور ضروری کتاب کو ہر شخص نقل کرتا ہے اور اس طرح سے وہ ہر جگہ پہنچ جاتی ہے۔ چونکہ قرآن سے زیادہ مفید اور ضروری مسلمانوں کے نزدیک کوئی کتاب نہیں اس لئے یہ ضروری تھا کہ اس قرآن کی نقلیں تمام بلاد میں پھیل جاتیں۔ مگر کہیں تاریخ سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ کسی مسلمان نے اس کی نقل کی ہو یا خلیفہ نے اس کی نقل بھجوائی ہو۔ حالانکہ خلیفہ دوم نے اپنے عہد میں جا بجا قرآن کے معلم صحیح اور اس قدر اہتمام کیا کہ تمام عمال کے نام احکام جاری کر دئے کہ ہر سال اپنے اپنے یہاں سے ان لوگوں کی فہرست بھیجا کر یہاں جو قرآن پڑھیں تاکہ ان کا بیت المال سے ذلیفہ مقرر کیا جائے اور دیگر بلاد اسلامیہ میں انھیں معلم بناؤ کر تعلیم کے لئے بھیجا جائے جس پر صرف ابو موسیٰ اشری نے اپنے یہاں سے تین سو سے زیادہ کے نام لکھ کر بھیجے۔ (کنز العمال ج ۲۱۶)

ایک بار یزید بن ابی سفیان نے جو ملک شام میں خلیفہ دوم کی طرف سے گورنر تھے فاروق عظیم رضوی کو لکھا کہ یہاں مسلمان بہت زیادہ ہو گئے ہیں اور ملک شام کے تمام شہر مسلمانوں سے معمور ہیں اس لئے اب اس کی ضرورت ہے کہ آپ ایسے لوگوں کو یہاں بھیجیں جو انھیں قرآن کی تعلیم دیں اور مسائل بتائیں۔ خلیفہ نے اس پر انصار کے اُن پانچ شخصوں کو طلب کیا جنہوں نے عہدِ نبوی میں قرآن جمع کیا تھا۔ یعنی معاذ بن جبل، عبادۃ بن الصامت، ابی بن کعب، ابو الیوب، ابو الدرداء۔ اور ان سے تمام واقعہ بیان کر کے کہا کہ تم سے تین کی مجھے ضرورت ہے۔ تاکہ میں انھیں تعلیم قرآن کے لئے ملک شام میں بھیجوں۔ اب تم باہم قرڈا لو جس کا نام نکلے وہ جائے۔ انہوں نے عرض کیا کہ قرعدا لئے کی ضرورت نہیں کیونکہ ابو ایوب نہایت بوڑھے ضعیف ہیں اور ابی بیمار ہیں اس لئے یہ دونوں جاہی نہیں سکتے۔ پس معاذ، عبادۃ، ابو الدرداء روانہ کئے گئے۔ جن میں سے عبادۃ حفص میں، ابو الدرداء دمشق میں

معاذ فلسطین میں گئے۔ طاعون عمواس میں معاذ کا انتقال ہو گیا۔ پھر عبادۃ ان کی جگہ تمص فلسطین آگئے اور بیہر ان کا انتقال بھی فلسطین میں ہوا اور ابوالدردار دمشق ہی میں رہے اور وہاں ہی ان کا انتقال ہوا۔ (کنز العمال ج ۱ ص ۲۷۸ ج ۲ ص ۲۱۳)

ابوموسی اشری جب بصرہ کے حاکم بن اکر یہاں بدل دئے گئے تو خلیفہ دوم نے ان کے نام پر مجاز بھیجا کہ قرآن کی تعلیم دو۔ پہلے سال ابوموسی نے حسب قانون اپنے یہاں سے ان کی فہرست بھیجی جنہوں نے قرآن پڑھا تھا اس کو دیکھ کر خلیفہ نے خدا کی حمد کی۔ دوسرے سال ابوموسی نے جو فہرست بھیجی اُس میں پہلے سے بھی زیادہ نام تھے۔ پھر تیسرا سال بھی فہرست روانہ کی۔ (کنز العمال ج ۲ ص ۲۲۰)

ابوموسی اشری کہتے ہیں جب میں قرار بصرہ کے پاس گیا تو تمیں سوقاری میرے پاس وہ آئے جنہوں نے تمام قرآن پڑھا تھا۔ (مسلم ج ۱ ص ۲۹۴) ابوموسی اشری بصرہ متصرف ہیں گئے تھے۔۔۔

ابوسفیان کو جو قریش سے تھا اس پر مقرر کیا کہ تمام دیہات اور گاؤں میں دوڑہ کرے اور خانہ بدوش بدودوں اور اُن کے لذکوں کا قرآن میں امتحان لے اور قرآن لئے جس کو کچھ بھی قرآن یاد نہ ہو اسے سزا دے۔ چنانچہ ابوسفیان اپنے اس دوڑے میں ایک بار قبیلہ بنی نہران میں گئے۔ اور زید النخل کے چپازاد بھائی اُدس بن خالد کا امتحان یا اس کو قرآن بالکل یاد نہ تھا۔ اس پر ابوسفیان نے اس کو اس طرح ادا کر دہ مر گیا۔ (اغانی ج ۱۶ ص ۵)

اس سے ثابت ہوا کہ حضرت عمر نے قرآن کی تعلیم جری تاکم کی اور شہر اور گاؤں دونوں میں مدارس تاکم کئے جن کی نظیر آج بھی نہیں ہے۔

طبقات القراء میں ابوالدردار کے حال میں ہے کہ ابوالدردار اصلیح کی نماز سے فارغ ہوتے تو ای وقت سے قرآن پڑھنے والوں کا ہجوم ہوتا۔ دس دس آدمیوں کی جماعت آپ جدا ہدا تاکم کرتے اور ہر جماعت پر ایک نگران مقرر کرتے۔ جب کسی جماعت کا کوئی شخص غلطی کرتا تو اس جماعت کا نگران اُسے بتاتا۔ اور اگر نگران سے غلطی ہوتی تو ابوالدردار اُسے خود بتلتے۔ لیکن حفاظ قرآن کی جماعت کی نگرانی براہ راست ابوالدردار کرتے۔ ایکبار آپ نے اپنے حلقة درس کے طلباء کی شمار کرائی تو ایک وقت میں سولہ سو سے کچھ زائد طلباء تھے۔ عبد اللہ بن مسعود کو فاروق اعظم نے اہل کوفہ کی تعلیم کے لئے بھیجا۔ اسرار الافوار میں ہے کہ فہریں ابن مسعود کے حلقة درس میں ایک وقت میں چار ہزار طلباء شریک ہوتے۔ جناب امیر جب کوفہ میں داخل ہوئے اور ابن مسعود میں اپنے شاگردوں کی جماعت کے استقبال کے لئے باہر نکلے تو کوفہ کا تمام میدان بھر گیا اور جہاں تک نظر کام دتی تھی طلباء ہی نظر آتے تھے۔ جناب امیر نے فرمایا۔ ابن مسعود نے کوفہ کو علم سے ببریز کر دیا۔ فاروق اعظم نے اپنے عہد میں تراویح کی جماعت کا مرضیان میں حکم دیا جس کی وجہ سے ہر مسجد میں

ایک بار قرآن رمضان میں پڑھا جائے لگا۔ اور نیز خلیفہ دوم نے خاص لکھانے کے لئے مدرسے قائم کئے تھے۔ اور لکھنے کا اس قدر اہتمام تھا کہ جو لڑکے کفار کے گرفتار ہو کرتے وہ بھی ان مدرسون میں داخل کئے جاتے۔ سلیمان ابو عامر کا بیان ہے کہ میں جب گرفتار ہو کر مدینہ آیا تو مجھے معلم کے سپرد کیا گیا تاکہ وہ لکھنا سکتا۔ معلم نے مجھے میم لکھنے کو کہا۔ جب میں نے اُسے اچھی طرح سے لکھا تو کہا کہ گئے کی آنکھ کی طرح گول لکھ۔ (مجموع البلدان لغت حاضر)

تعجب ہے کہ خلیفہ دوم نے اشاعت قرآن میں سعی کا کوئی درج فرو گذاشت نہیں کیا اور اس وقت کے مسلمانوں کے ذوق و شوق نے بھی طلب کے تمام منازل طے کر دئے تھے۔ ایک حدیث کی طبق میں مہینوں کے راستے پیادہ پا بھر کے پیاسے طے کرتے۔ اور ناقابل برداشت مصائب کو بھی ان کے ذوق و شوق کے آگے شکست فاش اٹھانی پڑتی لیکن وہ قرآن جو آسمانی کتاب تھی اور تمام خوبیوں اور اخلاق کا منبع تھی جس پر اُن کا ایمان تھا جس کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے توجیح نہیں کرایا اور خلیفہ اول نے جمع کرایا۔ مگر کسی نے اس جمع شدہ کی طرف توجہ نہ کی۔ کیا یہ بات کوئی موافق اور مخالف باور کر سکتا ہے کہ اس وقت کے مسلمان ایسی بے اعتنائی سے پیش آئے خصوصاً اس حالت میں جبکہ آج بھی مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ قرآن کے متعلق اگر کسی کتاب کا مسلمان کو علم ہو کر فلاں جگہ قرآن کے متعلق فلاں کتاب ہے تو اسے نقل کراتے ہیں خواہ اس میں ان کو جانی مالی قربانی پڑے۔ بلکہ درسرے علم کے متعلق بھی مسلمانوں کی بھی کوشش ہے۔ ان راقیات سے ہر نصف سمجھہ دار کے نزدیک یہ امر نہایت روشنی میں آ جاتا ہے کہ قرآن الحضرت کے عہد میں جمع تھا اور تمام بلا دا اسلامیہ میں وہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں تھا اسی لئے انہیں اس کے واسطے کہیں طلب کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ اور خلیفہ کو اس کی ضرورت تھی کہ وہ قرآن کی لقیں سمیتے۔ ورنہ اگر قرآن جمع شدہ ہر مگذلتا تو خلیفہ دوم ضرور اس کی نقلیں بھجواتے اور یہ ناممکن تھا کہ وہ اس قدر توجہ نہ کرتے۔ کیونکہ علاوه اور باتوں کے اُس وقت تمام فیصلوں کا دار و مدار قرآن پر ہی تھا اور یہی قانون ملکی اور مدنی تھا تو اس لئے بھی ہر حاکم اور ہر قاضی کے پاس اس کا ہونا ضروری تھا۔ اور جب کہ خلیفہ اول اور دوم کی یہ عادت تھی کہ معمولی ہدایتیں اور حکام بھی لکھا کر عمال اور حاکموں کو دیتے تو کیا یہ ممکن تھا کہ اصل قانون ان کے ہمراہ نہ کیا جاتا اور پر گز، صوبہ، ملک اس سے خالی رہتا۔ چنانچہ اسی کو علامہ ابن حزم، کتاب الفصل میں لکھتے ہیں۔

مَاتَ سَرْسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْإِسْلَامُ قَدِ اِنْتَشَرَ وَظَهَرَ فِي جَمِيعِ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ
مِنْ مُنْقَطِعِ الْبَحْرِ الْمَعْرُوفِ بِحَرْقَالْقَلْزَمِ مَا يَلِلًا إِلَى سَوَاحِلِ الْيَمَنِ كُلُّهَا إِلَى بَحْرِ فَارَسَ أَلَى مُنْقَطِعِ
مَا يَلِلًا إِلَى الْفَرَاتِ ثُمَّ عَلَى صَفَرَةِ الْقَرَاتِ إِلَى مُنْقَطِعِ الشَّامِ إِلَى بَحْرِ الْقَلْزَمِ وَفِي هَذِهِ الْجَزِيرَةِ مِنْ

المدن والقرى مالا يعرف عدده إلا الله عز وجل كاليمن والبحرين وعمان ونجد وجبل طيء وبلاد مصر وربيعة وقضاعة والطائف ومكة كلهم قد أسلم وبذل المسايد ليس منها قديمة ولا قرية ذلة إلا غرب الأقدب قرائبة ما القرآن في الصلوات وعلم الصبيان والرجال والنساء وكتب وفات رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا ذلك ليس منهم اختلاف في شيء أصلاب كلهم أمة واحدة ودين واحد مقالة واحدة ثم ولـ ابو بكر ستين وستة أشهر فغزى فارس والروم فتحوا إيمانه وزادت قراءة الناس للقرآن وجمع الناس المصايف كأبي دعمر وعثمان وعلي وزيد وأبي زيد وأبي منصور دسـاـيـرـاـ النـاسـ فـلـمـ يـقـيـنـ بـلـدـ الـآـرـقـةـ المصـاـيـفـ ثمـ مـاتـ رـضـيـ اللـهـ عـنـهـ وـاـنـسـلـمـونـ كـمـاـ كـانـوـاـ لـاـ اـخـتـلـافـ بـيـنـهـمـ فـيـ شـئـيـاـ صـلـاـءـةـ وـاـحـدـةـ وـمـقـالـةـ وـاـحـدـةـ ثـمـ مـاتـ اـبـوـ بـكـرـ وـولـيـ عمرـ فـتـحـتـ بـلـادـ الـفـرـسـ طـلـوـاـ وـعـرـضـاـ فـتـحـتـ الشـامـ كـلـهـاـ الـجـزـيرـةـ وـمـصـرـ كـلـهـاـ وـلـمـ يـقـيـنـ بـلـدـ الـآـرـقـةـ وـبـيـنـهـ الـصـاحـفـ وـقـنـ الـإـيمـانـ الـقـرـآنـ وـعـلـمـ الصـبـيـانـ فـيـ الـمـكـاتـبـ شـرـقـاـ وـغـرـبـاـ وـبـيـنـهـ كـذـلـكـ عـشـرـةـ أـعـوـامـ وـشـهـرـاـ وـالـمـؤـمـنـونـ كـلـهـمـ لـاـ اـخـتـلـافـ بـيـنـهـمـ فـيـ شـئـيـ بـلـ مـلـهـ وـاـحـدـةـ وـمـقـالـةـ وـاـحـدـةـ وـاـنـ لـمـ يـكـنـ عـنـدـ الـمـسـلـمـيـنـ أـذـمـاتـ عـمـرـ مـائـةـ الـفـ مـصـحـفـ مـنـ مـصـرـ إـلـيـ الـعـرـاقـ إـلـيـ الشـامـ إـلـيـ الـيـمـنـ فـمـاـ بـيـنـ ذـلـكـ فـلـمـ يـكـنـ أـقـلـ ثـمـ ولـيـ عـثـمـانـ فـزـادـتـ الـفـتوـحـ وـالـسـعـ الـمـرـفـلـوـرـاـمـ أحـدـ اـحـصـاـمـهـ اـهـلـ الـإـسـلـامـ مـاـقـدـ رـوـبـيـنـ كـذـلـكـ إـشـنـىـ عـشـرـ عـامـاـ حـتـىـ مـاتـ وـبـيـوـتـهـ حـصـلـ الـاـخـلـافـ۔

(۲۵ ص ۵)

ترجمہ:- جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو اس وقت تمام عرب کا جزیرہ مسلمان ہو گیا تھا جو مغرب میں بحر قلزم سے لے کر سواحل یمن سے گزرتا ہوا مشرق میں بحر فارس پر ختم ہوتا ہے اور بحر فارس سے دریائے فرات پر گزرتا ہوا شام کے کنارے کنارے بحر قلزم پر ختم ہوتا ہے۔ اور اس جزیرہ عرب میں اس قدر کثیر شہر اور مواضعات ہیں کہ جن کی شمار کا علم خدا ہی کو ہے۔ جیسے میں بحیرہ روم، نجد، قبیله تھے دوپہاڑ، آجا، سلی، قبائل مصر، ربیعہ، قضاعہ کے قبیبات طائفہ کے، مدینہ غرضکیہ تمام جزیرہ مسلمان ہو گیا تھا اور اس میں کوئی شہر اور گاؤں اور آبادی ایسی زیستی جیسا سجدہ ہو اور ان تمام مسجدوں میں پاپخوں وقت نماز میں قرآن پڑھا جانا تھا اور مسلمان پسند پختوں اور عورتوں اور مردوں کی قرآن کی تعلیم دیتے تھے آنحضرت کی وفات کے وقت مسلمانوں میں کسی امر میں اختلاف نہ تھا۔ بلکہ تمام کا ایک مزہب ایک بات تھی۔ پھر حضرت ابو بکر غلیظہ ہوئے اور ڈھانی سال غلیظہ رہے۔ فارس اور روم سے جہاد کیا۔ یہاں کواز سر نفتح کیا اور اب قرآن کو جانے والے اور زیادہ ہو گئے اور بہت سے لوگوں نے قرآن لکھا تھا جیسے ابی عثمان، عمر، علی، ازید، ابو زید اور

ابن مسعود اور دیگر بلاڈ اسلامیہ میں اور سہت لوگ تھے جنہوں نے قرآن لکھا تھا۔ غرض کوئی خبر مسلمانوں کا ایسا نہ تھا جس میں قرآن کے نئے لکھے جوئے نہ ہوں۔ پھر خلیفہ اول کا انتقال ہوا اور مسلمانوں کی بدستور وہی حالت تھی لیعنی ان میں کسی قسم کا اختلاف نہ تھا۔ پھر حضرت عمر خلیفہ ہوئے اور فارس، شام، جزیرہ اور مصر کو فتح کیا اور ان تمام بلاڈ اسلامیہ میں مسجدیں بنائی گئیں اور قرآن لکھنے کے اور بدستور قرآن پڑھایا جاتا تھا اور دو سال پہلے ہمیشہ یہی حالت رہی کہ کسی میں کچھ اختلاف نہ تھا۔ تمام کا ایک مذہب ایک خیال تھا اور عہد عمر میں ایک لاکھ سے کم نسخے قرآن کے مسلمانوں کے پاس نہ ہوں گے۔ پھر حضرت عمر کا انتقال ہوا اور حضرت عثمان خلیفہ ہوئے اور فتوحاتِ اسلام بہت زیادہ ہوئیں اور اسی کے ساتھ تمام باتوں میں زیادتی ہوئی۔ مثلاً قرآن، مساجد وغیرہ پہلے سے اور زیادہ ہوئیں اور اس زمانے میں قرآن کے اس قدر نسخے لکھنے کے اور مسلمانوں کے پاس موجود تھے۔ کران کی خوار و شوار تھی اور یہی مالت اتفاق کی بارہ سال رہی۔ جب حضرت عثمان کا انتقال ہوا اُسی وقت سے اختلاف شروع ہوا۔

اب میں اس حدیث زہری پر دو طرح سے غور کرتا ہوں۔ اول اس حدیث کی سند میں دوسرے اس کے مضمون اور معانی پر۔

زہری کی حدیث کی سند اس میں شک نہیں کہ محدثین نے بااتفاق اس حدیث کو صحیح ائمہ اور اسی وجہ سے بخاری ترمذی وغیرہ حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث شہری۔ اس روایت کا راوی تنہا زہری ہے۔ زہری کے سوا اسی نے اسے روایت نہیں کیا البتہ زہری سے چند نئے اسے روایت کیا ہے اس لئے یہ روایت محدثین کے یہاں خبر آتا ہے۔ لیعنی وہ روایت جس کا راوی کسی مرتبہ میں محض ایک ہی ہو۔ زہری اگرچہ محدثین کے یہاں نہایت معتبر قابلِ دلوقت اور راستباز اور امین ہے اور تمام کتب صحاح میں اس کی روایت ہے لیکن اسی کے ساتھ یہ مذہج تھا۔ لیعنی اپنے کلام کو حدیث میں اس طرح ملکر بیان کر دیتا تھا کہ سننے والے کو یہ علوم ہوتا تھا کہ یہ

ام البر المحدث لیث بن سعد کی دفاتِ شیعہ میں ہوئی ہے۔ یہ صرف کے امام اور امام داد الہجوہ مالک بن انس کے ہم سبق اور رفیق و صدقی تھے۔ انہوں نے امام ابک کو ایک مکتب ارسال کیا ہے۔ مکتب کیا ہے۔ ایک سیسی قیمت ملی دینیقدہ (لاراہم) نے اپنی تالیفات میں اس کو محفوظ کیا ہے۔ علامہ ابن قیم نے کتاب *اعلام المؤقعن عَنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ* میں (حقیقت کے صفحہ ۲، سے ۷، تک) اور علامہ محمد بک الحضری نے تاریخ التشرییع الاسلامی میں (صفر ۱۸۹ تک ۱۹۹) نقل کیا ہے۔ اس مکتب میں امام لیث نے اپنے استاد امام زہری کے متعلق جانکشان کیا ہے اپنی کے الفاظ سے نقل کرایہں لکھا ہے:-

وَكَانَ يَكُونُ مِنْ أَيْنِ شَهَابَ إِنْتِلَافَ كَثِيرًا ذَلِيقِيَّةً وَإِذَا كَاتَبَ بَعْضُنَا، فَرُتَّمَا كَتَبَ إِلَيْهِ فِي
الشَّرِّ الْوَاحِدِ عَلَى فَضْلِ رَأْيِهِ وَعِلْمِهِ بِثَلَاثَةِ أَنْوَعٍ، يَنْقُضُ بَعْضُهَا بَعْضًا وَلَا يَشْعُرُ بِالذِّي
إِلَيْهِ أَعْلَمُ صَفْرَهُ (۱)

بھی حدیث ہے۔ اور دونوں میں کوئی فرق نہیں رکھتا تھا۔ چنانچہ اصول حدیث کی کتابوں میں زہری کے متعلق اس کو لکھتے ہیں۔ المعتصر من المختصر ص ۲۵ میں ہے۔ وَيَحْتَلُّ أَنْ يَكُونَ مِنْ كَلَامَ الزَّهْرِيِّ فَإِنَّهُ كَانَ يَخْتَلِطُ كَلَامَهُ بِالْحَدِيثِ دَلِيلًا كَقَالَ اللَّهُ مُوسَى تَبَعَّ عُقْبَةً إِفْصَلَ كَلَامَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ كَلَامِكَ۔ اور شاید یہ زہری کا اپنا کلام ہونہ حدیث کیونکہ زہری کی یہ عادت تھی کہ وہ حدیث میں اپنا کلام بھی بلا دیتے تھے۔ اسی واسطے موسیٰ نے زہری سے کہا کہ حدیث سے اپنے کلام کو علیحدہ رکھو ملایا ذکر، تو ایسی حالت میں یہ فیصلہ مشکل ہے کہ اصل واقعہ کس قدر ہے اور امام زہری نے اپنی طرف سے بھی کوئی تحریک کی ہے یا نہیں۔ اس کے سوا بھی جو نکری ایک شخص تنہا زہری کا بیان ہے اور ایک ایسے امر کے خلاف ہے جو تواتر سے ثابت ہے اور تمام اہل اسلام کا اس پراتفاق ہے تو اس لئے یہ آن کشیر شہادتوں کے مقابلہ میں نہیں انا جاسکتا۔ جیسا مسلمانوں کا عام اصول ہے کہ خبر احادیث یقینی کے مقابلہ میں ہرگز لائق وثوق نہیں ہے۔ اور ممکن ہے کہ یہاں کسی راوی سے بیان میں غلطی ہوئی ہو۔ بہر حال تنہا زہری کی روایت سے ہم آن روایات کو نہیں چھوڑ سکتے جن سے ثابت ہے کہ بہت سے لوگوں نے آنحضرتؐ کے عہد میں قرآن جمع کیا تھا۔

زہری کے بیان میں اختلاف زہری کی اس روایت میں اضطراب یعنی اختلاف ہے میں یہاں زہری کی انھیں روایتوں کا اختلاف دکھاتا ہوں جو بخاری میں زہری سے ہے۔ اس حدیث کی زہری سے جس قدر روایتیں ہیں جو نکر آن میں صحیح اور معتبر بخاری کی سندیں ہیں اس لئے ان سندوں کے اختلاف سے نازرین خود فیصل کر سکیں گے کہ یہ حدیث کہاں تک وثوق کے قابل ہے۔ بخاری کی کتاب الاخلاک میں ابن شہاب زہری سے ابراہیم بن سعد نے روایت کی ہے۔

بخاری میں سورہ براءۃ کی تفسیر میں اسی روایت کے زہری سے شیعیت راوی ہے لیکن زہری کے ان دلوں میں اگر دوں کی روایت میں یہ اختلاف ہے۔

(ابقیہ محفوظ)

مَضِيَّ مِنْ رَأْيِهِ فِي ذَلِكَ، فَهَذَا الظَّنِّي يَدْعُونِي إِلَى شَرْكِ مَا انكَرْتُ قَرْيٌ إِيَّاهُ ۚ ۖ
ابن شہاب زہری کا سوال میں بہت اختلاف ہوا کرتا تھا، جب ہم ان سے زبان پرچھتے یا ہم یہ سے کوئی لکھ کر ان سے لکھتے کرتا تو۔ با درج ذہیلہ راست اور علم کے ایک ہی شے کے متعلق آن کا جواب تین فرماء ہوا کرتا تھا اور ایک دوسرے کا ایسے کو احساس نہیں ہوا کرتا تھا کہ پہلے کا لکھ پئے ہیں اور ان کی کیا رائے تھی۔ میں نے ایسے ہی سکرا تو ان کی وجہ سے آن کو چھوڑا تھا جس کو تم نے پسند نہ کیا تھا۔

ابو الحسن زید عفی اثر مفر

مکتب ازاول تا آخر شایان مطالعہ ہے

ابراهیم کی زہری سے روایت

قَدْ أَسْتَحْرِيْوْمَا إِلَيْمَامَةِ بُقْرَاعِ الْقُرْآنِ۔
معکر کی مامہ میں بہت قارئ قرآن شہید ہوئے
مِنَ الْعُسْبِ وَالْرِقَاعِ وَالْلِخَافِ دَصْدُورِ
الرِّجَالِ۔

شیعہ کی زہری سے روایت

- (۱) قَدْ أَسْتَحْرِيْوْمَا إِلَيْمَامَةِ بِالنَّاسِ
معکر کی مامہ میں بہت لوگ کام آئے
(۲) مِنَ الْرِقَاعِ وَالْأَكَافِ وَالْعُسْبِ وَ
صَدُورِ الرِّجَالِ۔
ابراهیم کی روایت میں بجا ہے اکناف کے لغاف ہے۔

فَوَجَدَتُ مِنْ سُوْرَةِ التَّوْبَةِ
مَعَ خَرَبَيْمَةَ أَوْ إِنِّي خَرَبَيْمَةَ
اس کی روایت میں یہ لفظ نہیں
اس کی روایت میں یہ نہیں

(۳) حَتَّىٰ وَجَدَتُ مِنْ سُوْرَةِ التَّوْبَةِ أَيْتَيْنِ
مَعَ خَرَبَيْمَةَ الْأَنْصَارِيِّ
۴۱، لَمْ رَأَدْهُمَا مَعَ أَحَدٍ غَيْرِهِ
۴۲، فَالْحَقْتَهُمَا فِي سُوْرَةِ قَهْرَمَانِ

زہری کی روایت کا واقعات اور دوسری صحیح روایتوں کے خلاف ہونا (۱) تاریخ اور صحیح

روایات بلکہ خود سخاری کی روایت سے ثابت ہے کہ زید نے آنحضرت کے عہد میں قرآن جمع کیا تھا۔ معاشر ابن قتبہ میں ہے۔ زید نے تمام قرآن لکھا تھا اور اس قرآن کو اخیر میں آنحضرت کو تمام و مکال سنایا تھا۔ اس قرآن کی ترتیب وہی تھی جو آج بھی قرآن کی ہے۔ ترددی میں زید سے ہے کہ ہم نے آنحضرت کے روپ برداری قرآن کو جمع کیا تھا اور نیز تمام محدثین کا اس پر بھیاتفاق ہے کہ زید قرآن کے حافظ تھے اور پورا قرآن آپ کو یاد تھا۔ خلیفہ اول نے جب زید کو جمع قرآن کا حکم دیا اور یہ فرمایا کہ اس تلاش کر کے لکھو تو اس وقت زید کا جواب یہ ہونا چاہیے تھا کہ قرآن جمع شدہ ہمارے پاس موجود ہے اور مجھے یاد ہے اس کی تلاش کی ضرورت نہیں۔ باوجود زید کے حافظ اور جامع قرآن ہونے کے جو متعدد روایات سے ثابت ہے اور تمام مورثین اس پر تتفق ہیں۔ تمام کتب جمال اس کی شاہد ہیں جس کے خلاف میں ضعیف سی بھی روایت اور قول نہیں۔ پھر زید کا قرآن کو تلاش سے لکھنا جیسا اس روایت سے ثابت ہوتا ہے ایک ایسا امر ہے جس کے باور کرنے کے لئے کوئی ضعیف سی ایسی وجہ بھی نہیں کہی جاسکتی جس کو کوئی فہمیدہ انسان صحیح مان سکے چنانچہ علام ابن عبد البر نے بھی استیعاب میں زہری کی روایت کی اس مخالفت کو بیان کیا ہے میں یہاں اس مخالفت کو انھیں کے الفاظ میں لکھتا ہوں۔

ذَآمَّا حَدَّيْثُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابَتَ أَحَدُ الَّذِينَ جَمَعُوا الْقُرْآنَ عَلَى عَدْدٍ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَصَّعَهُمْ وَقَدْ عَارَضَهُ قُوْمٌ مُجَاهِدِيْثُ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ عَيْنِهِ بْنِ السَّبَّاقِ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابَتٍ أَنَّ ابْنَ بَكْرًا مَرَأَهُ فِي حِينٍ مَقْتُلَ الْقُرْآنِ بِالْيَمَامَةِ بِجَمِيعِ الْقُرْآنِ قَالَ فَجَمِيعَتِ الْقُرْآنَ مِنَ الرِّفَاعِ وَالْعُسْبِ وَصَدُّ وَرِالْرِجَالِ حَتَّى وَجَدَتُ أُخْرَاءِيْهِ مِنْ تَوْبَةَ مَعَ سَرْجُلٍ يُقَالُ لَهُ حُزَيْمَةً أَوْ أَبُو حُزَيْمَةَ قَالُوا فَلَوْ كَانَ زَيْدًا قدْ جَمِيعَ الْقُرْآنَ عَلَى عَيْنِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا مُلَاهَ مِنْ صَدِّرَةِ دَمَّا احْتَاجَ إِلَى مَادَّكَهُ۔ (استیعاب جلد اول ص ۱۹)

مجھے صرف یہاں اس قدر کہنا ہے کہ زید کا حافظ ہونا اور تمام قرآن کا انحضرت کی حیات میں لکھنا صحیح روایتوں سے معلوم ہے۔ چنانچہ ابن عبد البر کو بھی اس کا اقرار ہے تو زید اگر غلیظہ اول کے عہد میں جمع قرآن کی خدمت پر ماورے ہوتے تو اپنی یاد اور اپنے قرآن سے لکھتے تھے کہ دوسرا اشیار ہے۔ اور زید وہ عذر کرتے جو اس حدیث میں زید کی طرف نسبت کیا گیا۔ پس معلوم ہوا کہ یہ روایت یا تربیے اصل ہے، یا درمیان کے راویوں کے بیان کی غلطی ہے۔ ممکن ہے کہ زید کے پاس چونکہ ایسا لکھا ہوا قرآن تھا جس کو آخر میں انھوں نے آنحضرت کو منایا تھا۔ اس لئے غلیظہ اول نے اس کی کوئی نقل اپنے لئے کرانی ہوا اور زید نے اُسے حضرت ابو بکر کے لئے نقل کیا ہو جیسا کہ الرمال کی ایک حدیث سے بھی اس کا پتہ چلتا ہے میکن روآت نے اپنی غلطی سے اس واقعہ کو کچھ کا کچھ کر دیا۔ اور راوی حدیث چونکہ انسان تھے اور انسان بھی وہ جزوی تھے، اس لئے اُن سے دہم خطہ کا ہونا بعید نہیں۔ جیسا علامہ ابن حزم کتاب الفصل میں لکھتے ہیں:-

وَأَمَّا قَوْلُهُمْ أَنَّهُ قَدْ رُوَى بِأَسَانِيدٍ صَحَّحَ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمِنَ التَّابِعِينَ الَّذِي نُعَظِّمُ وَنَأْخُذُ دِينَنَا عَنْهُمْ قَرَاوَافِي الْقُرْآنِ قِرَاءَاتٍ لَا تُسْتَحِلُّ بَخْنُ الْقِرَاءَةِ بِمَا فَهَدَاهَا حَقٌّ وَخَنْ دَانٌ بِلَغَنَا الْعَالَيَةِ فِي تَعْظِيمِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَنَهْرُبُنَا إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مُحَجَّبِهِمْ فَلَنَا بَعْدُ عَنْهُمُ الْوَهْمُ وَالْخَطَاءُ وَلَا نَقِلُّهُمْ فِي شَيْءٍ فَمَا قَالُوا هُوَ۔ (ج ۲ ص ۳۷)

ترجمہ:- اور لوگوں کا یہ خیال کہ نہایت صحیح سندوں سے صحابہ اور تابعین سے ایسی قراءہ۔ قرآن میں مردی ہیں جن کا پڑھنا درست نہیں۔ اس میں مشک نہیں کہ یہ خیال صحیح ہے اور صحابہ نہیں ان اللہ علیہم کی تمام مسلمان بے انتہا عزت و تعظیم کرتے ہیں اور اُن کی محبت کو باعث نجات سمجھتے ہیں۔ میکن اسی کے ساتھ ہم انھیں دہم، نسیان، خطے سے معصوم نہیں جانتے۔ اُن سے اس قسم کے امور ممکن ہیں۔

۲۱) بخاری اور نیز دیگر روایات سے ثابت ہے کہ آنحضرت کی حیات مبارک میں بہت سے صحابہ نے قرآن جمع کیا تھا۔ چنانچہ اُن میں چار کے نام تو بخاری ہی نے اس کی روایت سے نقل کئے

میں اور ایک طویل فہرست پہلے میں بھی ان کے ناموں کی دے چکا ہوں۔ علام ابن سعد نے بھی طبقات قسم ثانی ج ۲۳۱ میں بعض ایسے صحابہ کے نام شمار کئے جنہوں نے آنحضرت کی زندگی میں پورا قرآن جمع کیا تھا جنابنگہ میں بیہاں اُن کی عبارت لکھتا ہوں:-

عَنْ زَيْنِ الْشَّعَبِيِّ قَالَ جَمِيعُ الْقُرْآنَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيَّرَ رَهْطًا مِّنَ الْأَنْصَارِ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَأَبْيَانُ بْنُ كَعْبٍ وَزَيْنُ الدِّينُ بْنُ ثَابِتٍ وَأَبُو الْدَّرَادَاءِ وَأَبُو زَيْدٍ وَسَعْدُ بْنُ عَبْدِ الدِّينِ قَالَ قَدْ كَانَ يَقْرَئُ عَلَى الْمُجْمِعِ بْنِ جَارِيَةَ سُوْرَةً أَوْ سُورَتَانِ حِينَ قِضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

ترجمہ:- حافظ ابن سعد طبقات میں علمائے شعبی اور محمد بن سیرین اور محمد بن کعب کی روایت سے روایت کرنے ہیں کہ آنحضرت کے عہد مبارک میں انصار میں سے جھے افراد معاذ بن جبل، ابی شبن کعب، زید بن ثابت، ابوالدردار، ابو زید، سعد بن عبید نے پورا قرآن جمع کیا تھا۔ البته مجمع بن جاریۃ کو دو سورت یا ایک سورت جمع کرنے کو باقی تھی جو آنحضرت کا انتقال ہو گیا۔

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَيِّدِنَّى قَالَ جَمِيعُ الْقُرْآنَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْيَانُ بْنُ كَعْبٍ وَزَيْنُ الدِّينُ بْنُ ثَابِتٍ وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَانَ وَعَمِيمُ الدَّارِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرْطَبِيِّ قَالَ جَمِيعُ الْقُرْآنِ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسَةٌ مِّنَ الْأَنْصَارِ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ عَبَادَةُ بْنُ الصَّاصِمِ أَبْيَانُ بْنُ كَعْبٍ أَبُو أَيْوبٍ أَبُو الْدَّرَادَاءِ.

اب جبکہ یہ امر ثابت ہے کہ آنحضرت کے عہد ہی میں قرآن جمع ہو گیا تھا اور بہت سے صحابہ نے اسے جمع کیا تھا۔ تو پھر حضرت عمر کا حضرت ابو بکر سے یہ کہنا ایسی ارائی آن تا مر جمیع القرآن۔ یعنی میری رائے ہے کہ آپ قرآن کے جمع کرنے کو فرمائیے۔ اور اس کے جواب میں حضرت ابو بکر کا یوں فرمانا کیف تَفْعَلُ شَيْئًا لَمْ يَفْعُلْهُ رَسُونُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔ جو کام آنحضرت نے نہیں کیا وہ تو کیونکر کرے گا، کیونکہ صحیح ہو گا۔ اور یہ اس غلط ہے یا نہیں۔

(۲۴) سام مونی ابو حازیف کے سوا مشہور قرار سے کوئی قاری اس جنگ میں شہید نہیں ہوا۔ اور عامر ان مسلمانوں کی تعداد جو اس جنگ میں شہید ہوئے۔ چڑواہ سوتاک بیان کی جاتی ہے جن میں چھ تسویہ جریں اور انصار ہیں۔ یہ تعداد اُس وقت کے مسلمانوں کے لحاظ سے کچھ بھی زیادہ نہیں ہے۔ کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جنہاً الوداع میں جبکہ ایک لاکھ چوبیں ہزار مسلمان تھے تو اگر یہی مان لیا جائے کہ اُس وقت تمام مسلمان اسی قدر تھے۔ گو کہ یہ امر کسی طرح صحیح نہیں ہے۔ مگر اس پر بھی چورہ مسلمان اس تعداد کے مقابلہ میں کسی شمار میں نہیں سکتے اور اس اقو میں جو ستر قرار کی شہادت بیان کی جاتی ہے اُن کے متعلق محدثین اور مورثین کا یہی بیان ہے کہ اُن میں سے ہر ایک پورے قرآن کا حافظ نہ تھا بلکہ قرآن کے کچھ اجزاء اُن کو یاد تھے۔

قاریٰ قرآن کے اگر یہی معنی ہوں تو پھر ہبھا جرا و رانصار سے جو اس میں شہید ہوئے وہ سب قاری تھے۔ کیونکہ مسلمانوں میں خصوصاً اُس عہد میں کوئی بقدر مسلمان بھی ایسا نہ ہو گا جسے قرآن کچھ بھی یاد نہ ہو قواب زید بن ثابت کا اس روایت میں یہ کہنا کہ اَنَّ الْقَتْلَ قَدْ أَسْتَحْرَى وَمَا الْيَامَةُ بِقُوَّةٍ^۱ القرآن ہر اعتبار سے ملطھ ہو گا کیونکہ قاریٰ قرآن کے اگر یہی معنی ہوں کہ جسے پورا قرآن یاد تھا تو وہ بھی اس لڑائی میں سالم مولیٰ ابی حذیفہ کے سوا کوئی شہید نہیں ہوا۔ اور اگر قاریٰ قرآن کے یہ معنی ہوں جسے قرآن کا کچھ حصہ یاد ہو خواہ وہ ایک دو سورت ہی ہوں تو اس معنی کی رو سے تمام مسلمان قاریٰ قرآن تھے۔ اور جزیرہ عرب میں جس قدر مسلمان تھے وہ تمام ہی قاریٰ تھے۔ پھر ان کی تعداد کے اعتبار سے بھی چودہ سو مسلمان کچھ زیادہ نہ تھے۔ اور اگر کہا جائے کہ مشہور قرار سے تو سالم ہی شہید ہوئے لیکن ان کے سوا اور بھی پورے قرآن کے حافظ اس لڑائی میں ایسے شہید ہوئے جو مشہور نہ تھے۔ تو اس صورت میں اصل واقعہ روشنی میں آجائے گا۔ یعنی صحابہ میں بہت سے صحابیٰ قرآن کے حافظ تھے۔ مگر اس پر بھی اس تعداد کا زیادہ ہونا مشکل ہے۔ بہر حال یہ بیان واقعات کے بالکل خلاف ہے۔

(۲۴) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اُتھی تھے اس لئے آپ کو اس کی ضرورت نہ تھی کہ قرآن لکھا کر پنے پاس رکھتے۔ البتہ صحابہ کو پورا قرآن حرف بحرف لکھایا اور اس لکھانے کا نہایت اہتمام کیا اور اکثر صحابہ نے آپ کے عہد میں آپ سے پورا قرآن لکھ کر جمع کیا۔ تواب خلیفہ دوم کا جمع کے لئے شورہ دینا ایسا امر نہ تھا جس میں خلیفہ اول اور زید کوتائل ہوا اور مباہش کی نوبت آئی۔ اور حضرت عمر سے یہ فرمایا۔ کیف تَفَعَّلُ شَيْئًا لَمْ يَفْعَلْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔ کیا آنحضرت نے قرآن لکھنے کا حکم نہیں دیا۔ کیا آپ کے عہد میں لکھ کر قرآن نہیں پڑھایا جاتا تھا؟ کیا خلیفہ اول اور زید اس سے ناواقف تھے؟ کیا اس کا صاف اور صحیح جواب صرف یہی نہ تھا کہ بلاشبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن جمع کرایا۔ اور آپ کے امر سے صحابہ نے لکھا۔ اس کے علاوہ اگر یہ مان بھی یا جائے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن جمع نہیں کرایا۔ تو کیا حفاظت کے لئے جمع کرنا ایسا امر ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے منشار کے غلاف ہو۔ کیا خود آنحضرت ایسے امور کو نہیں لکھاتے تھے جن کا استھفاظ اور اہتمام مقصود ہوتا تھا۔ ابو شاہ صحابیٰ نے فتح کہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ سن کر جب آپ کی خدمت میں یہ درخواست کی کہ اسے لکھا دیجئے تو کیا آپ نے یہ نہیں فرمایا اکتبُوا لِأَنِّي شَاهٌ یعنی ابو شاہ کو لکھ دو۔ قَالَ أَبُو دَاوُدٌ فَتَبَّعَهُ الْمُؤْمِنُ یعنی خطبۃ النبی صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔ یعنی ابو شاہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ لکھانے کی درخواست کی (ابو داؤد) کتاب الدیات۔ اور کیا حضرت ابو بکر خود اپنے عمال کو ہدایت نہیں لکھا دیتے تھے۔ اور کیا آنحضرت نے قرآن کے لکھنے کا حکم نہیں دیا تھا۔ اور کیا حضرت عبد اللہ بن عمر نے جب

مدیشوں کے ضائع ہونے اور اپنے بھول جانے کی شکایت کی تو انہیں لکھنے کا حکم نہیں دیا۔
پھر کیا ابو بکر ان تمام واقعات سے ناواقف تھے۔ یا للغیث۔

یہ سوال وجہ بجا گئے خود اس واقعہ کے اصل ہونے کے لئے قوی شہادت ہے۔ اور جو امر کہ عام اتفاق سے ثابت ہے۔ اور آفتاب سے زیادہ روشن ہے اس پر غبار ڈالنا اور چھپانا ناممکن ہے۔

(۵) خلیفہ اول نے یہ قرآن اگر لکھایا ہوگا تو بیت المال کے روپے سے لکھایا ہوگا۔ کیوں کہ خلافت سے چٹا ہینے بعد خلیفہ کے مصارف کا مکمل بیت المال کیا گیا تھا اور بیت المال سے وہ اپنے ضروری مصارف خورنوش کے مطابق لیتے تھے۔ جیسا کہ خلیفہ اول کے حالات میں موجود ہوتے ہیں۔ اور نیز اس واقعہ سے بھی اس کا پورا ثبوت ملتا ہے کہ آپ کی بی بی نے ایک روز جب شیرینی کی فراوش کی توجہ و بحاجت دیا کر میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ بی بی نے کہا۔ اجازت ہو تو روز مرہ کے صرف سے کچھ بچا کر جمع کروں۔ فرمایا۔ بہتر۔ کچھ روز میں چند پیسے جمع کر کے دیئے۔ اور کہا مٹھائی لادو۔ خلیفہ نے پیسے کے کفر فرمایا کہ یہ خرچ ضروری سے زیادہ ہیں لہذا بیت المال کے ہیں اور بیت المال میں جمع کر کے اپنے وطیفہ سے اسی قدر کم کر دیا۔

اس واقعہ سے پتہ چلتا ہے کہ خلیفہ کے پاس اپنا ذاتی سامان کیا تھا اور بیت المال میں انہیں کس قدر احتیاط تھی۔ اس نے یہ ضروری ہے کہ اس قرآن کے مصارف بیت المال سے ادا کئے گئے ہوں گے۔ اور یہ قرآن چونکہ بیت المال کا حق تھا اسی نے یہ ان کی دفات کے بعد خلیفہ اول کے ورثا کو نہیں دیا گیا بلکہ بیت المال میں رہا۔ اور خلیفہ دوم کے پاس پہنچا۔ اگر خلیفہ اول کا اپنا ہوتا تو ضرور ان کے ورثا کو ملتا۔ لیکن یہاں دو باقی اس واقعہ کو غلط ٹھیراتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ خلیفہ اول نے بیت المال کی جو اشیاء چھوڑیں اور وہ خلیفہ دوم کو سپرد کی گئیں۔ اُن کی نہرست میں اس قرآن کا نام نہیں ہے اور خلیفہ اول نے جن چیزوں کے سپرد کرنے کو فرمایا تھا اس میں اس قرآن کا نام نہیں پیدا۔ تاریخ الخلفاء میں ہے۔

قالَ أَبُو بَكْرٍ لِمَا احْتَضَرَ لِعَائِشَةَ يَا بَنِيَّةَ إِنَّا وَلَيْسَنَا أَمْرَ الْمُسْلِمِينَ فَلَمَنَا خُذْ لَنَا دِيْنَا إِنَّا
وَلَادِرُهَا وَلِكُنَّا مِنْ جَرِيَّشَ طَعَاهِهِمْ فِي بُصُّونَا وَلَسْنَا مِنْ حُشْ شِيَاهِهِمْ عَلَى ظَهُورِنَا
وَإِنَّهُ لَمْ يَبْقَ لَنَا عِنْدَنَا مِنْ فِي الْمُسْلِمِينَ قَلِيلٌ وَلَا كَثِيرٌ إِلَّا هُدَى الْعَبْدُ الْحَبِشِيُّ وَهَذَا الْعَيْنُ
النَّاضِرُ وَجَرِدِيُّ هَذَا الْقَطِيْفَةُ فَإِذَا مِمَّ نَابَعَتِيْ بِهِنَّ إِلَى عُمَرَ۔

ترجمہ: حضرت ابو بکر نے نزع کے وقت فرمایا کہ میں میں خلیفہ بنایا گیا۔ میں نے بیت المال سے روپی نہیں لیا مگر بقدر موٹا کھانے اور موٹا پہنچنے کے اور اب میرے پاس بیت المال کا سوا اس

غلام جب شی اور بانی لائے کی اذشی اور اس پر انی چادر کے کچھ نہیں۔ میرے بعد اس کو عمر کے پاس بھیجننا۔ اگر واقعی کوئی قرآن بیت المال کے حرف سے اس اہتمام سے لکھا گیا تھا تو بیت المال کی فہرست میں اس کا نام ضروری ہوتا۔ اور خلیفہ اول اس کے سپرد کرنے کو اہتمام سے فرماتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ خلیفہ دوم کے بعد یہ قرآن خلیفہ سوم کی تحریل میں ہونا چاہیئے تھا نہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہما کے پاس۔ کیونکہ یہ خلیفہ کی اپنی ذاتِ ملک نہ تھی۔ اب بعد نہیں بلکہ یہ امر نہایت قریب تر ہے کہ احتمالات اور امکانات کے ورطہ میں غوط لگانے والے جدت آفرینی کی یوں داد دیں کہ یہ قرآن خلیفہ اول کا ذاتی تھا۔ اپنے خاص روپے سے لکھا یا تھا۔ اور خلیفہ دوم کو آخر دقت میں انہوں نے ہبہ کر دیا تھا اور بیت المال کا نہ تھا تاکہ خلیفہ دوم کی وفات کے بعد خلیفہ سوم کی نگرانی میں پہنچتا۔ اُن کی اس جدت اور نکتہ آفرینی کی میں بھی دل سے قدر کرنے کو اور داد دینے کو تیار ہوں۔ مگر وہ ہبہ نامہ جس کی رو سے یہ ہبہ ثابت کیا جائے اگر کسی سند میں لکھا ہیں اور خلیفہ اول کی آمدی میں اس قدر قوت اور زور دکھائیں جو اس بار کی مشتعل ہو سکے تو البتہ قابل تسلیم ہے اور بلا اس کے یہ خیال آفرینی واقعیت کی سطح پر رُونا نہیں ہو سکتی بلکہ تاریخ سے تو یہ ثابت ہے کہ نہ خلیفہ اول کے پاس اپنا ذاتی اس قدر مال تھا جس سے قرآن لکھاتے اور بیت المال سے اپنے مصارف کے لئے جو کچھ وہ لیتے تھے اس میں نہ اس کی گنجائش تھی۔ الفرض اس قرآن کے لکھائے کی دوہی صورت ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ اس صحیحہ وغیرہ کی قیمت خلیفہ اول اپنے پاس سے حرف کریں دوسرے یہ کہ بیت المال سے دیں۔ اور واقعات ان دونوں صورتوں کے مخالف ہیں۔

(۵) اس روایت میں یہ کہنا کہ سورہ برارة کا آخر ابو خزیرہ انصاری کے ہے اسی دوسرے کے پاس نہ تھا ایک ایسی پہلی اور چیستان ہے جس کی گرہ کٹائی نامکن ہے۔ پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ سورہ برارة پوری ایک وقت میں کامل آخر زمانہ میں نازل ہوئی۔ جس کو آخر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ میں پڑھا۔ حضرت ملی رفے نویں سال جج میں تین مقامات میں یعنی عذمنی یا کہ میں لوگوں کو تمام و کمال سنایا۔ آخر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے یاد کرنے کا خاص حکم دیا۔ زید کو تمام قرآن یاد کھا ہوا تھا۔ ابی بن کعب کے پاس بھی تمام قرآن لکھا ہوا اور یاد تھا۔ حضرت علی کرم اللہ علیہ و جہ کو سورہ برارة یاد تھی۔ چنانچہ انہوں نے مک میں جا کر سنائی اور زید کے قرآن لکھنے کے وقت یہ لوگ مدینہ میں موجود تھے۔ پھر اب زید کا یہ کہنا کہ ابو خزیرہ کے سوا کسی کے پاس یہ آیت نہ تھی وہ بات ہے جس کے ماننے کے لئے کسی طرح کوئی مسلمان تیار نہیں ہو سکتا۔

الحاصل نہیں کہ اس روایت میں چھ امر تو ایسے ہیں جو واقعات کی رو سے سچائی کے معیار

میں صحیح نہیں اُترتے اور وہ بالکل غلط ہیں۔

(۱) جنگ یا ماریں بہت سے قرآن کے قاری شہید ہوئے۔

(۲) زید نے آنحضرتؐ کی حیات میں قرآن جمع نہیں کیا تھا۔

(۳) زید پورے قرآن کے حافظ نہ تھے۔

(۴) آنحضرتؐ نے پورا قرآن جمع نہیں کرایا تھا۔

(۵) حضرت عثمانؓ نے آنحضرتؐ کے عہد میں قرآن جمع نہیں کیا تھا۔

(۶) ابو خزیرہ انصاری کے سوا کسی کے پاس سورہ برارة کا آخر لکھا ہوا نہ تھا۔ اور سات تین ایسی ہیں جو شب دروز کے تجربہ اور صحابہ اور مسلمانوں کے حالات کے اعتبار سے بعید نہیں اور یہ دونوں ان کی اجازت نہیں دیتے۔

(۷) ڈبڑھ سال میں زید کا نام و مکالم قرآن کو تلاش کر کے لکھ دینا۔

(۸) حضرت عمرؓ کا یہ خیال کرنا کہ قرآن ضائع ہو جائے گا۔

(۹) قرآن جمع کرنے کے پہلے قاریانِ قرآن کو لڑائی میں بھیجننا۔

(۱۰) قرآن کے جمع کرنے کو محض زید کے متعلق کرنا۔ باوجود یہ خود مدینہ میں ان سے بہتر قاری بھی موجود تھے۔

(۱۱) اس قرآن جمع شدہ کا حضرت حفصہ کے پاس رہنا ذخیلہ سوم کے۔

(۱۲) خلیفہ اول اور دوم کا اپنے عہد میں اس قرآن کی نقلیں ملک میں شائع نہ کرنا۔

(۱۳) مسلمانوں میں سے ایک مسلمان کا بھی اس قرآن کی نقل نہ لینا۔

اس کے علاوہ زہری کی روایت کا اختلاف اور نیز زہری کی یہ تنہار روایت بہت سی اُن روایات کے مخالف ہے جو اپنی کثرت کی وجہ سے تواتر کے مرتبہ میں پہنچ گئے ہیں۔

یہ عجیب ہات ہے کہ جو واقعہ نہیا یت ہی بلے اصل اور سراسر غلط اور جس قدر بے بنیاد ہوتا ہے اُسی تدریشمہور اور زبانِ زرع عام و خواص ہو جاتا ہے۔ خلیفہ اول کے جمع قرآن کے واقع نے شہرت کا یہ درجہ پایا ہے کہ آج محدثین اور مورثین اور ہر مسلمان کی زبان اور قلم پر ہے۔ اور انتہا یہ ہے کہ بخاری جیسے ناقداً و محقق کی تحقیق کی روشنی بھی اس شہرت کے آگے ماند پڑ گئی۔ گرچہ بھی حق حق ہے اور باطل باطل جھوٹ اور فریب گو مشہور ہو جائے۔ قبول کر لیا جائے لیکن انجام کا رجحان کی روشنی غالب آکر اسے محکر دیتی ہے اور وہ ظاہر ہو کر رہتا ہے۔

یہ بھی مشہور ہے کہ خلیفہ سوم نے اپنے عہد میں خلیفہ اول کی جمع کردہ قرآن کی چند نقلیں کر کے مختلف بلاد میں پھیلیں۔ اور یہ حکم دیا کہ اس کے سوا جو لکھے ہوئے قرآن ہیں وہ ضائع کر دیئے

جائیں اور اب سے اس قرآن کے موافق پڑھا پڑھایا جائے۔ چنانچہ کتب حدیث اور تواریخ میں یہ واقعہ مذکور ہے اور یہاں میں بھی ترمذی سے اسے نقل کرتا ہوں۔

عَنْ أَشِنِّ إِنَّ حَدِيفَةَ قَدِيمَةَ عَلَى عُثْمَانَ وَكَانَ يَغَازِي أَهْلَ الشَّامِ فِي فَتْحِ أَرْمِينِيَّةَ وَأَذْرِ بَعْيَانَ مَعَ أَهْلِ الْعِرَاقِ فَرَأَى حَدِيفَةَ اخْتِلَافَهُمْ فِي الْقُرْآنِ فَقَالَ لِعُثْمَانَ بْنِ عَفَانَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَدْرِكْ هَذِهِ الْأُمَّةَ قَبْلَ أَنْ يَخْتَلِفُوا فِي الْكِتَابِ كَمَا اخْتَلَفَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ حَفْصَةَ أَنَّ أَرْسِلِي إِلَيْنَا بِالصَّحْفِ لَنَسْخُهَا فِي الْمَصَاحِفِ فَتَمَرَّدَهَا إِلَيْهِ فَأَرْسَلَ حَفْصَةَ إِلَيْهِ عُثْمَانَ بِالصَّحْفِ فَأَرْسَلَ عُثْمَانَ إِلَيْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَمَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْجَارِثِ بْنِ هَشَامٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزَّبِيرِ أَنَّ نَسْخَوَا الصَّحْفَ فِي الْمَصَاحِفِ وَقَالَ لِلرَّهْطِ الْقُرَشِيِّينَ الْخَلَفَةُ مَا اخْتَلَفُتُمْ أَنْتُمْ وَزَيْدٌ بْنُ ثَابِتٍ فَاكْتُبُوهُ بِلِسَانِ قُرْيَشٍ فَإِنَّمَا نَزَّلَ بِلِسَانِهِمْ حَتَّى تَحْكُمَ الصَّحْفَ فِي الْمَصَاحِفِ وَيَعْتَدَ عُثْمَانُ إِلَيْكُلِّ أَفْقِيِّ مُصْحِّفٍ مِنْ تِلْكَ الْمَصَاحِفِ الَّتِي نَسْخَوَا قَالَ الزُّهْرِيُّ وَحَدَّثَنِي خَارِجَةُ بْنُ زَيْدٍ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ فَقَدِّثْ أَيْةً مِنْ سُورَةِ الْأَخْرَابِ كَمَا أَسْمَعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فِيهِمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ كَمَا تَسْتَهِنُهَا فَوَجَدَ تَهَامَعَ خَزِيمَةَ بْنَ ثَابِتٍ وَأَبِي خَزِيمَةَ فَالْحَقْتُمُهُمَا فِي سُورَتِهِمَا - هَذَا حَدِيثٌ حَنْصَبِيُّ وَهُوَ حَدِيثُ الزُّهْرِيِّ وَلَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِهِ - حج ۲ ص ۱۳۲

ترجمہ:- انس کا بیان ہے کہ حدیفہ آرمینیہ اور آذربیجان کے غزوہ سے واپس ہو کر حضرت عثمان کے پاس آئے اور کماکار لوگوں میں قرآن کی قرات میں بہت اختلاف ہے۔ قبل اس کے لوگ یہود اور نصاری کی طرح گراہ ہوں آپ اس کی تلافی اور انظام کر دیجئے۔ حضرت عثمان نے حضرت حفصہ کے پاس کہلا بھیجا کر صحیفے میرے پاس بھیجو تو اکیں اس کی نقلیں کراؤ۔ پھر میں اسے تعلیم داپس دوں گا چنانچہ حضرت حفصہ نے وہ صحیفے بھیجوئیے۔ حضرت عثمان نے زید، سعید، عبد الرحمٰن، عبد الله کو اس پر امور کیا کر دہ نقل کریں۔ اور فرمایا کہ اگر باہم اختلاف ہو تو قریش کے لغت میں لکھو اور اسے ترجیح دو اس نئے کو انہیں کی زبان میں قرآن نازل ہوا ہو ان لوگوں نے نقلیں کیں اور حضرت عثمان نے ان میں سے ہر ایک کو ایک ایک طرف بھیجو۔ زہری کہتے ہیں کہ زید کے بیٹے خارجہ کا بیان ہے کہ مجھے میرے باپ زید نے کہا کہ سورہ احزاب میں اس آیت کو جسے میں نے آنحضرت کو پڑھتے سننا تھا نہیں پایا اور وہ آیت یہ ہے۔ مَنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهُ عَلَيْهِ فِيهِمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ اس کو تلاش کیا تو خزیمہ یا ابو خزیمہ کے پاس میں نے اس کو اپنی جگہ

سورہ میں لکھ دیا۔

زہری کی اس حدیث سے یہ پانچ باتیں ثابت ہوتی ہیں :-

(۱) حذیفہ بن الیمان کو آرمینیہ اور آذربیجان کے غزوہ میں جب یہ معلوم چوا کہ مسلمانوں میں قرآن میں اختلاف ہے تو والپی کے بعد حذیفہ نے خلیفہ سوم سے درخواست کی کہ اس کا انتظام کریں اور اس اختلاف کو روکیں۔

(۲) خلیفہ سوم نے حذیفہ کے مشورہ سے زید، سعید، عبدالرحمن، عبدالرشد کو اس پر مقرر کیا کہ وہ خلیفہ اول کے لکھائے ہوئے قرآن کی نقلیں کریں اور اگر کسی لفظ میں اختلاف ہو تو لغتِ قریش کے موافق اُسے لکھیں۔

(۳) ان نقل شدہ قرآن کا ایک ایک نسخہ ہر طرف رواندگی۔

(۴) اس قرآن میں سورہ احزاب کا اخیر نہ تھا جس کو خزیمہ یا ابو خزیمہ کے پاس سے تلاش کر کے لکھا۔

(۵) حضرت عثمان نے سوا اس کے حضرت ابو بکر کے قرآن سے نقل کرانی اُنی طرف سے اور کوئی امر جدید نہیں کیا۔ میں یہاں چند امور کی تینیقح کرتا ہوں جس سے حضرت عثمان کے اس جمع قرآن کی روایت پر بہت کچھ روشنی پڑے گی۔

متفرقہ (۱) آذربیجان والوں نے جو معاہدہ خلیفہ دوم کے عہد میں سلطنت عربیں کیا تھا۔ وہ خلیفہ سوم کے زمانہ میں تواریخ دیا۔ اس پر خلیفہ سوم نے ۷۰۰ میں ولید بن عقبہ کو آذربیجان پر یقین کیا اور ولید نے پھر دوبارہ اُسے فتح کیا۔ اور فتح میں ہی حضرت عثمان نے قرآن لکھائے۔ اگرچہ ابن خلدون اور کامل ابن اثیر وغیرہ مورثین نے لکھائے کہ سنت میں یہ قرآن لکھائے گئے مگر علام ابن حجر شارح بخاری فتح الباری میں لکھتے ہیں کہ یہ فلسطینے۔ درحقیقت یہ ۷۰۰ میں ہوا ہے۔ چونکہ خلیفہ دوم کا انتقال سلطنت کے آخر میں یعنی ۷۰۵ءی ابوجہر سے میں ہوا تو یہ اختلاف جس کی خبر حضرت حذیفہ نے حضرت عثمان کو دی تھی نیا نہ تھا یعنی خلیفہ سوم کے عہد میں پیدا نہ ہوا تھا کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک سال کی مدت میں ایسا نہیں ہو سکتا بلکہ دراصل یہ اختلاف قراءت صوابیں تھا اور صحابہ میں سے جو ملک میں تعلیم قرآن کے لئے روانہ کئے گئے تھے انہوں نے اپنی اپنی قراءۃ کے موافق قرآن پڑھا یا تو وہ اختلاف اُن کے شاگردوں میں رہا۔ اور خلیفہ اول اور دوم کے عہد میں برابر یہ اختلاف تھا جس کی خبر حذیفہ نے خلیفہ سوم کو دی۔ مگر تعجب ہے کہ ان دونوں خلفاء نے اس کی طرف توجہ نہ کی اور یہ ناممکن ہے کہ اس اختلاف کا علم ان دونوں خلفاء کو نہ ہوا ہو۔ خصوصاً خلیفہ دوم کو جو اپنے عہد میں تمام باتوں کی خبر رکھتے تھے۔ حالانکہ خلیفہ اول اور دوم کو اس کا بہت

زبان خیال تھا کہ مسلمانوں میں کسی طرح سے اختلاف نہ ہو، اور اسی وجہ سے ان کے عہد میں کسی قسم کا اختلاف مسلمانوں میں نہیں ہوا۔ جیسا شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی ازالۃ الغفار کے مقصید دوم صفحہ ۱۲۶ میں لکھتے ہیں۔ لہذا درین عصر اختلاف مذہب و تشتت آراء واقع نشد بہم بریک مذہب متفق دبریک راہ جمع و آن مذہب خلیفہ درائے او بودا اور یہی علامہ ابن حزم نے لفظ میں لکھا ہے۔ اسی کے ساتھ یہ امر بھی زیادہ توجہ کے قابل ہے کہ ۲۵ تک مالک اسلامیہ میں قرآن کی جس قدر اشاعت ہوئی وہ خلیفہ دوم کی توجہ سے ہوئی۔ انہوں نے معلم صحیح و فلسفہ مقرر کئے۔ پھر ضروری ہے کہ ان تمام معلمانوں نے خلیفہ کی پدایت کے موافق قرآن کی تعلیم دی ہوگی۔ کیونکہ فاروق عظیم کی یہ عادت تھی کہ معلمان کو روادہ کرتے وقت ضروری ہدایت کر دیتے تھے۔ خصوصاً ایسے امور سے سختی کے ساتھ روکتے تھے جس کی وجہ سے مسلمانوں میں اختلاف ہو جس کا لازمی اخیر ہونا چاہیئے تھا کہ اُس عہد میں قرآن میں ایسا اختلاف نہ ہوتا جس کے رفع کرنے کی ۲۵ تک میں خلیفہ سوم کو ضرورت پیش آئے۔

(۲) ۲۵ تک تمام مالک اسلامیہ میں قرآن کی اشاعت جس قدر بھی ہوئی تھی وہ آن صحابہ نے کی تھی جنہوں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن یاد کیا تھا۔ اور آپ سے مُنا اور پڑھا اور لکھا تھا اور جن قرار اور حفاظ صحابہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے کافلوں سے بارہ قرآن مُنا۔ آپ کی زبان مبارک سے قرآن کو لیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مُنا یا اور خود آنحضرت نے بھی آن پروٹوک واعتماد کر کے انہیں قرآن پڑھانے اور تعلیم کی اجازت دی اور آنحضرت کے عہد میں ہزاروں کو انہوں نے قرآن پڑھا دیا تو ان حفاظ اور قرار نے آنحضرت سے جس طرح قرآن مُنا اور یاد کیا وہ بھی اور کسی حالت میں بھی اُس کے خلاف نہیں کر سکتے تھے۔ آن صحابہ کی تو پڑی شان ہے۔ آج بھی اگر کسی مسلمان کو اس کا یقین ہو جائے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں کام اس طرح کیا ہے اور فلاں بات کو یوں فرمایا ہے یا قرآن کا فلاں حرفاً اس طرح پڑھا ہے تو وہ بھی اُس کے خلاف ہرگز نہ کرے گا اور اسی پر قائم رہے گا خواہ اُسے مالی اور جانی دونوں قربانی کرنی پڑیں۔ اب جن صحابہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن یاد کیا تھا اور اسی طرح جن لوگوں نے ان صحابہ سے قرآن کھما پڑھا تھا اگر ان میں باہم اختلاف تھا تو خلیفہ سوم کے کہنے سے وہ اُس قرأت اور قرآن کو نہیں چھوڑ سکتے تھے جس کو انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یا اپنے اساتذہ، صحابہ کلام سے یا اور سیکھا ہو لکھا تھا اور یہ نامکن تھا کہ خلیفہ سوم ان سے اُن کے اُس قرآن کو جو انہیں پہنچا تھا لے کر ضائع کر دیتے اور ان کے دلوں سے اُس نقش کو بسادیتے جو ان کے اساتذہ کرام صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اُن کے پاک دلوں پر کیا تھا جن کو اُس وقت کے مسلمانوں کی حالت سے واقفیت ہے اور جن

حضرات نے اُن مقدس اصحاب کی تازیغ کے دیکھنے کا شرف حاصل کیا ہے اُن کو اس امر کے باور کر لے کئے تاریکی کا کوئی پردہ حائل نہیں کر غلیظہ سوم کے اختیار سے بلکہ غلیظہ دوم و سوم کے اختیار سے بھی یہ بات خارج تھی۔ بلکہ کوئی قوت بھی ایسی نہ تھی جو اُسے اُس قوائی کو چھڑا کے جو آخرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یا اُن کے اُستادوں سے اُنہیں سمجھی ہے دوسری قوائی کو راجح کرتے اور اس خلاف کو اٹھا دیتے۔

(۳) مالک اسلامیہ میں آج بھی جو قرآن لکھے ہوئے ہیں اور جس قدر قرآن کے قاری ہیں اس وقت بھی اُن کی سندیں موجود ہیں اور ہر قاری آج بھی قرآن کو اُسی طرح پڑھتا ہے جس طرح اُس نے اُسے اپنے اُستاد سے سنائے۔ اور جو اختلاف قرارہ قرار صحاہ میں تھا وہ آج تک بھی اُن کے شاگردوں میں ہے اور ہر شخص اُسی طرح پڑھتا ہے جس طرح اُسے پہنچا ہے۔ جو شخص تمام دنیا میں سفر کر کے مسلمانوں کی قوائی کو مختلف ملکوں میں ٹھنڈے گا وہ ضرور اس اختلاف کو دیکھنے کا پھر غلیظہ سوم نے وہ کس اختلاف کو مٹایا جو اس روایت میں بیان کیا گیا ہے اور یہ اختلاف ایسا نہیں ہے جس سے کسی فتنہ کا نتھ ہو۔ یہ معوریِ لب و لہجہ وغیرہ کا اختلاف ہے۔ بلکہ یہ اختلاف سروکائنات کے عہد میں بھی تھا جس کو خود آخرت بھی جانتے تھے۔ اور آپ ﷺ کے حضور میں یہ اختلافات پیش بھی کئے گئے مگر آپ نے اس کو جائز رکھا۔ پھر جس کو آخرت نے جائز رکھا تو کیا کوئی مسلمان خصوصاً صحاہ میں کونا جائز رکھیں گے؟ ہرگز نہیں دوسرے مشاہدہ اور تجربہ سے یہ ثابت ہو گیا کہ قرآن کے اس اختلاف کی وجہ سے آج تک مسلمانوں میں کوئی فتنہ یا گراہی نہیں ہوئی جس کا خطہ اس روایت میں بیان کیا گیا ہاں ممکن ہے کہ قرآن کی رسیم خط میں اختلاف ہو اور حضرت مثنا نے قرآن کی رسیم خط قائم کی ہو۔

(۴) مسلمان قرآن کے پڑھنے میں محض لکھے پر اعتماد نہیں کرتے بلکہ اس میں اس کی ضرورت ہے کہ وہ قرآن ایسے شخص کر سنائیں جس کی سند کا سلسہ آخرت تک ہو۔ اور بلا ایسے شخص کے سنائے اور سند حاصل کئے قرآن پڑھنا درست نہیں۔ اور اس میں مسلمانوں نے اس قدر اعتیاد کی ہے کہ قرآن کے سوا حدیث میں بھی اُسی شخص کا اعتبار ہے جس نے سند حاصل کی ہو اور آخرت صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کی سند ہو۔ جو شخص آج بھی بلا سند حاصل کئے محض اپنی قابلیت کے اعتقاد پر لکھی ہوئی کتابوں کو دیکھ کر حدیث پڑھانا چاہے تو اس کی حدیث کا اعتباً نہیں اور کوئی مسلمان اس سے حدیث نہیں پڑھے گا۔ اور ایسا شخص قابلِ سزا ہو گا۔ جو لوگ قرآن پڑھتے اور حدیث کی قابلیت رکھتے ہیں لیکن سند نہیں رکھتے تو وہ بھی سند یافتہ کے حلقوں درس میں برسوں رہ کر اور سنا کر سند حاصل کرتے ہیں تب وہ اس حق ہوتے ہیں کہ لوگ اُن سے پڑھیں۔

ورہ نہیں۔ آج تک جس قدر قرار ہوئے اور ہیں وہ تمام اپنی قرائت اور قرآن کی سند آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں جس سے اس امر میں کسی قسم کا شبہ نہیں رہتا کہ مسلمانوں کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جس طرح سے قرآن پہنچا ہے اور صحابہ نے جس طرح انہیں پڑھایا تھا وہ آج تک بلا کسی تغیر و تبدل کے برابر پڑھتے چلے آئے ہیں اور اُسی طرح مسلمانوں میں اس کاررواج ہے۔ جو اختلاف صحابہ کے قراءتوں میں تھا وہ اب بھی ان کے شاگردوں میں دیسے ہی محفوظ ہے۔ قراء صحابہ کی قراتیں ہم تک بتوتر پہنچی ہیں۔ جویں شہر کی اصلاح گنجائش نہیں۔ اب ان متواتر اور یقینی باتوں پر اس ایک شخص کی خبر کا کیا اثر پڑ سکتا ہے۔ اور ایسی ظنی اور دہمی باتوں سے ہم یقین اور توواتر کو کسی طرح نہیں چھوڑ سکتے اور جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تمام قرات صحابہ کی سندیں آج تک رائج ہیں اور صحابہ نے جس ملک میں تعلیم دی اور وہاں کے باشندوں کو جس طرح سے پڑھایا آج تک وہاں کے باشندے اُسی طرح پڑھتے ہیں۔ تو پھر غلیفہ سوم کے اختلاف قراءت کے شانے کی روایت کا پورا پورا حال معلوم ہو جاتا ہے اور اس کی صحت اور صداقت کا پایا جوہ ہے وہ ہر شخص پر ظاہر ہو جاتا ہے۔ چنانچہ علامہ ابن حزم کتاب الفصل میں لکھتے ہیں۔ فَلَوْرَأَمَ عَثَانَ مَادَكُرُوا مَا قَدَرَ عَسْلَى ذَالِكَ — یعنی جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان تے تمام قرات مشاکر ایک قرات رکھی یہ ان کی غلطی ہے۔ یہ امر حضرت عثمان کے اختیار میں نہ تھا۔ اور جب ہم اس وقت دیکھو رہے ہیں کہ قرات صحابہ کا اختلاف قرات اس وقت بھی ان کے شاگردوں میں برابر چلا آ رہا ہے تو پھر حضرت عثمان نے کس اختلاف کو مٹایا۔

(۵) زید نے غلیفہ اول کے عہد میں ان صحائف میں تمام قرآن نقل کیا تھا مگر تعجب ہے۔ بارہ تیرہ سال تک یہ دیسے ہی جز دان میں رکھا رہا۔ کسی نے نہ دیکھا۔ اور اگر دیکھا بھی تو کسی کو اس کا پتہ نہ چلا کہ سورۃ احزاب سے ایک آیت اس میں لکھنے سے رہ گئی۔ جس کا پتہ اس وقت غلیفہ سوم کے عہد میں نقل کرتے وقت ہوا۔ اور تعجب ہے کہ آنحضرتؐ کے عہد مبارک سے غلیفہ سوم کے عہد تک سورۃ احزاب کی اس آیت کو کسی نے نہیں لکھا سوائے خزیر کے اور کسی پاس نہ نکلی۔ اگر انھا ف سے دیکھا جائے تو یہی ایک بات اس روایت کی صداقت اور عدم صداقت کی عمدہ دلیل ہے۔ علاوہ اس کے زید نے غلیفہ اول کے عہد میں جب نہایت کوشش اور سعی سے قرآن جمع کیا۔ اور زید کو قرآن یاد بھی تھا۔ تو اس وقت سورۃ احزاب کی آیت کا لکھنے سے رہ جانا ایک ایسی بات ہے جو انسانی فہم سے بالاتر ہے۔ اور جب زید کے لکھنے اور حفظ کی بھی مالت ہے تو ممکن ہے کہ اس میں اور بھی بعض آیات چھوٹ گئی ہوں۔ اگر زید تیسری بار پھر نقل کرتے تو ممکن تھا کہ وہ پھر زید کو یاد آ جاتیں۔ مسلمانوں کے یہاں ایسی روایات

کی جو وقت ہے وہ اسے خوب جانتے ہیں جن کو ایسی روایات میں دل ہے کیا مخفی زید کے لئے اور ان کی یاد کے بھروسے اور ثوہ پر قرآن مان لیا گیا ہے۔ اور کیا مخفی زید کے کہنے اور لکھنے سے قرآن میں کسی آیت کا اضافہ ممکن تھا۔ این خیال سوت و محال است و جنون۔ ہزاروں قرآن کے نئے بلکہ لاکھوں اس وقت مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہوں گے اور اس سے بھی بہت زیادہ حفاظت قرآن موجود تھے۔ اور مسلمانوں کے چھوٹے بڑے۔ مرد۔ عورت۔ اوتی۔ اعلیٰ کی زبان پر قرآن کا حرف حرف برق کی طرح روان تھا۔ مسجدیں اور نمازیں اس کی صدائے گوشہ رہی تھیں۔ اس پہنچیں^{۲۵} سال میں بلکہ سینتیں^{۲۶} سال میں جس قدر قرآن کی اشاعت ہو گئی تھی وہ زید اور غلیفہ سوم کی سعی سے بے نیاز تھی۔ اور اتنے مسلمانوں کے دلوں سے کسی حرف یا قرار کا دھو دینا کسی انسان کا کام نہیں تھا۔

ہم مسلمانوں کا اعتقاد ہے کہ قرآن کے الفاظ خدا کے الفاظ ہیں اور وحی الہی کے جو نظر تھے آنحضرت نے بعینہ انہیں الفاظ کو پہنچایا۔ اُن آسمانی الفاظ کے بجائے دوسرا لفظوں کو رکھنا خواہ دوہ آسمانی لفظوں کے ہم معنی ہی کیوں نہ ہوں نہ آنحضرت میں ممکن ہے اور نہ کوئی مسلمان ایسا کر سکتا ہے۔ آنحضرت کی نبوت سے ۷۲^{۲۷} تک یعنی اڑتیس سال کی درست میں تمام اسلامی شہروں میں اس کی اشاعت مکالی عروج تک پہنچ گئی تھی۔ اور مسلمانوں کے سینون اور سفینوں دونوں میں قرآن کا ہر ایک لفظ آفتاہ و ماہتاہ کی طرح چمک رہا تھا۔ رمضان میں سلاں دنیا کی ہر مسجد میں کم سے کم ایک بار ضرور پڑھا جاتا تھا۔ پنجگانہ نمازیں۔ آخرات میں۔ روزانہ تلاوت میں اس کا مول تھا۔ اس وقت قرآن کی یہ حالت نہ تھی کہ اس سے مسلمان ناواقف ہوں۔ یا جو قرآن مسلمانوں کے دلوں۔ زبانوں۔ صحیفوں۔ تعلیم گاہوں میں داخل ہو گیا تھا اس پر شک و شبہ کا پردہ کوئی ڈال سکے۔

اب ایسی حالت میں غلیفہ سوم کا ان لوگوں کو جو قرآن لکھنے پر مقرر کئے گئے تھے یہ بڑا یہ بڑا کرنا (اگر کسی لفظ میں تمہیں اختلاف ہو تو ایسی صورت میں وہ لفظ لکھنا جو قریش کے یہاں مستعمل ہے۔ کیونکہ قرآن قریش ہی کی نفت میں نازل ہوا میسا اس روایت میں ہے۔ وَقَالَ لِلرَّهْمَنِ الْقَرِيشِينَ الشَّلَاثَةَ مَا اخْتَلَفْتُمُ وَذَيْدَ بْنَ شَابِطَ فَالْكَبُوْرَةُ بِإِسْلَامِ قَرِيشِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَنْهَا مِنْهُمْ یعنی غلیفہ سوم نے ان لوگوں میں سے جو قرآن لکھنے پر مقرر کئے گئے تھے قریشوں کو کہا کہ تم سے اور زید سے اگر کسی لفظ میں اختلاف ہو تو اپنی زبان کا لفظ لکھنا کیونکہ تمہاری ہی زبان میں قرآن اترا ہے) اس روایت کے اعتبار کو مسلمانوں سے کیا مخالفین اسلام کی نظر میں بھی کھو دیتے ہے۔ اور جو شخص مسلمانوں کی حالت اور قرآن کی تاریخ سے واقف ہے

وہ ہرگز کسی مالت میں اس کے لئے تیار نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ قرآن اس ہی روایت کے موافق جب قریش کی نفات میں نازل ہوا ہے قریش کی زبان کے سوا کسی دوسری زبان کا لفظ اس میں نہیں۔ اور یہ بھی ظاہر ہے کہ قرآن جن الفاظ میں نازل ہوا ان ہی الفاظ میں آنحضرتؐ نے پہنچایا اور مسلمانوں نے وہی الفاظ یاد کئے۔ لکھے۔ پھر کیا یہ ممکن ہے کہ زید جوانصار سے ہیں نہ قریش سے ان کے قرآن میں کوئی ایسا لفظ ہو جو قریشی نہیں یعنی وہ درحقیقت قرآن کا لفظ نہیں یا ان کو قرآن کے الفاظ کے بجائے دوسرے لفظ یاد ہوں۔ حالانکہ زید وہ شخص ہیں جو ۷۱ سال تک برابر قرآن پڑھاتے رہے۔ قرآن کا درس دے کر کئی ہزاروں کو قرآن کا حافظ بنایا۔ عہد مبارک میں وحی یعنی قرآن لکھتے تھے۔ آخر سال میں حضرت جبریل سے جو آنحضرتؐ نے دوبار قرآن کا دور کیا تھا تو اس میں یہ زید برابر کے شریک تھے۔ تمام قرآن آنحضرتؐ کے عہد میں یاد کیا تھا۔ اور لکھا تھا فلیفہ اول و دوم نے ان کے مقابلہ میں کسی کو ترجیح نہ دی اور انہیں پر اپنا زیادہ اعتناد ظاہر کیا اسی لئے انہیں کوتہا قرآن لکھنے پر مقرر کیا۔ اور اس وقت کسی قریشی کو اس کام میں ان کا شریک نہ کیا۔ اور نہ یہ ہدایت کی کہ قریش کی زبان میں لکھنا۔ اب ایسی صورت میں، فلیفہ سوم کا زید کے ساتھ ان کو یعنی سعید۔ عبد الرحمن۔ عبد اللہ جو قریش سے ہیں شریک کرنا۔ اور یہ فرمانا کہ تم تینوں سے اور زید سے اگر کسی لفظ میں اختلاف ہو تو وہاں زید کا اعتبار نہ کرنا۔ بلکہ اپنی زبان کے موافق لکھنا۔ حالانکہ تینوں شخصوں نے مشہور قرار سے ہیں اور نہ زید کی مثل ماہر ہیں اور نہ اس قابل ہیں کہ زید کے مقابلہ میں ان کا پلہ بھاری ہو۔ کیونکہ آنحضرتؐ کی وفات کے وقت سعید اور عبد اللہ نوں سال کے تھے۔ عبد الرحمن دس برس کے اور آنحضرتؐ سے انہوں نے کچھ نہیں پڑھا تھا۔ اور زید نے تمام قرآن آنحضرتؐ سے پڑھا تھا۔ پھر ایسی صورت میں زید سے یہ تینوں اگر قرآن کے کسی لفظ میں اختلاف کریں تو بمقابلہ زید کے پھر بھی ان کا اعتبار ہونا مسلمان اس کے سمجھنے سے قاصر ہیں۔ اور کیا یہ ممکن ہوا کہ زید نے جن الفاظ کو آنحضرتؐ سے خود سننا تھا۔ اور آنحضرتؐ نے خود تعلیم فرمایا۔ ان الفاظ کو چھوڑ کے فلیفہ کی ہدایت کے موافق ان تینوں کے بتائے ہوئے لفظوں کو لکھتے۔ ہرگز نہیں اور کیا کوئی مسلمان اس کا یقین کر سکتا ہے کہ فلیفہ نے زید کو اس قسم کی ہدایت کی ہوگی کہ تم نے جن الفاظ کو آنحضرتؐ سے سنا۔ آنحضرتؐ نے جن الفاظ کو تمہیں تعلیم دیا۔ جن الفاظ کو تم اب تک پڑھتے رہے۔ اور ایک بڑی جماعت کو تم نے تعلیم کیا۔ ان الفاظ کو تم محفوظ اس لئے چھوڑ دینا کہ وہ قریش کی لغت کا نہیں۔ اور قرآن قریش کی لغت میں نازل ہوا ہے۔ میں کہتا ہوں۔ زید نے اگر آنحضرتؐ سے قرآن میں عربی کے سوادوڑی زبان کا لفظ بھی سنایا پڑھا ہوتا تو پھر تمام عالم کے کہنے سے بھی وہ اس لفظ کو کسی طرح چھوڑ

نبیس سکتے تھے۔ خواہ ان کو یوں سمجھایا ہی جاتا کہ قرآن عرب کی زبان میں نازل ہوا ہے اور یہ لفظ عربی نہیں۔ کیونکہ کسی لفظ کا قرآن میں آنحضرتؐ کی زبان سے سن لینا یا آپ سے تعلیم مانا ایک ایسی مفہوم اور مستلزم دلیل ہے کہ قرآن کی تمام عمارت اسی پر قائم ہے نہ کسی قیاس اور گمان پر۔ اور کیا ایسے قیاسات سے کہ قرآن عربی میں نازل ہوا ہے یا قریش کی زبان میں نازل ہوا ہے قرآن کا کوئی درج اپنی جگہ سے متزال ہو سکتا ہے۔ اور مسلمانوں کے اس یقین میں جوانوار بنت سے حاصل ہوا ہے کسی قسم کی تاریکی کا دھبہ پڑ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اس کے علاوہ تمام قرآن کا قریش کی نفات کے موافق ہونا خود صحیح نہیں۔ بلکہ قریش کے سواد و سرے الفاظ بھی قرآن میں ہیں۔ پھر جب یہ بات خود ثابت نہیں اور غلاف ہے تو یہ کس طرح ممکن ہے کہ حضرت عثمانؓ قرآن کے متعلق ایک غلط بات فرمائیں اور زید بن ثابت اُسے تسليم کر لیں۔ اور اگر حضرت عثمانؓ نے ایسا فرمایا تھا اور واقعی یہ امر صحیح بھی تھا کہ قرآن قریش کی زبان میں نازل ہوا ہے تو پھر یہ ضروری تھا کہ یہ موجودہ قرآن جو اس وقت تمام مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہے اور حضرت عثمانؓ کا لکھا ہوا ہے اس میں کوئی لفظ غیر قریش کا نہ ہوتا۔ حالانکہ اس میں قریش کے سوابھی دیگر اہل عرب کے نفات ہیں اب موجودہ قرآن کو اس روایت کے اس معیار پر باپنحو اور دیکھو کر یہ وہی قرآن ہے جس کو حضرت عثمانؓ نے فرمائی تھی لکھایا تھا۔ یادیساہیں۔ اور اسی سے معلوم ہو سکتا ہے کہ یہ روایت کس درجہ قابل تسليم ہے۔

(۷) قرآن اگر قریش ہی کی زبان سے مخصوص ہے تو یہ ایسی بات نہیں جس کو صرف حضرت عثمانؓ ہی جانتے ہوں بلکہ یہ وہ امر ہے جسے اس وقت کا ہر قرآن داں جو عرب کا باشندہ تھا جانتا ہوگا۔ خصوصاً خلیفہ اول اور دوم تو ہرگز اس سے ناداقف نہ ہوں گے۔ پھر جو قرآن زید سے خلیفہ اول نے بہ مشورہ خلیفہ دوم لکھایا تھا ضرور وہ قریش ہی کی زبان میں لکھایا ہوگا۔ اور ضرور خلیفہ اول اور دوم کی نظر سے گذرا ہوگا۔ اب یہ ناممکن ہے کہ اس قرآن میں کوئی اس زبان کا لفظ ہو جس میں قرآن نازل نہیں ہوا۔ کیونکہ اول توزید نے خود ہی اس قرآن میں ایسے لفظ نہ لکھے ہوں گے۔ اور اگر غلطی سے لکھے بھی ہوں تو خلیفہ اور دوم نے ضرور اس کی اصلاح فرمائی۔ اس غلطی سے زید کو متتبہ کیا ہو گا تاکہ پھر یہ غلطی نہ ہو کہ قریش کے نفات کے سواد دیگر اہل عرب کی نفات کا کوئی لفظ قرآن شریف میں لکھا جائے اور اس اصلاح اور تنبیہ کے بعد ناممکن ہے کہ اس قرآن شریف میں جو خلیفہ اول کے وقت میں لکھا گیا تھا پھر ایسا لفظ ہوتا جو قریش کی نفات سے نہ ہوا اور دیگر اہل عرب کے نفات سے ہوتا اور اگر یہ تسليم بھی کر لیا جائے کہ خلیفہ اول اور خلیفہ دوم کی تائید اور تنبیہ کے باوجود زید سے پھر بھی ایسی غلطی ہوئی ہو کہ کوئی لفظ قریش

کے نفات کے سوا کا ایسارہ گیا ہو جس پر زید کی نظر کسی وجہ سے نہ پڑی ہو لیکن غلیفہ سوم کے عہد میں جب قرآن شریف کے نقل کی خدمت زید کو ملی اور سعید اور عبد الرحمن عبد اللہ بن ازیز کا (جو بطور قریش سے ہیں) اس لئے تقریر ہوا۔ کہ جب کسی لفظ میں اختلاف ہو تو لفت قریش کے موافق اسے لکھیں اور سپر حسب علم غلیفہ سوم کے ان لوگوں نے لکھا تو اب ایسی عالت میں یہ غیر ممکن تھا کہ قرآن شریف میں کوئی ایسا لفظ رہ گیا ہو جو قریش کے نفات سے نہ ہو۔ مگر واقع۔ اس کے خلاف ہے اور قرآن شریف میں اس وقت بھی ایسے الفاظ ملتے ہیں جو قریش کے نفات کے سوا دیگر اہل عرب کی نفات سے ہیں جس سے صاف اس امر پر روشنی پڑتی ہے کہ یہ روایت قابلِ احتجاج نہیں ہے۔

(۸) زید کا یہ بیان کہ سورہ احزاب کی اس آیت کو جسے میں نے آنحضرتؐ کو پڑھتے میں تھا نہیں پایا۔ اور تلاش کے بعد خزیمہ یا ابو خزیمہ کے پاس سے ملی یہ وہ بات ہے جو بالکل خلاف عقل ہے اس لئے کہ زید کے پاس خود اپنا ذاتی لکھا ہوا قرآن ایسا صحیح موجود تھا جس کو زید نے جانب بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود آپؐ کی زندگی کے اس آخری رمضان میں مسنا یا تھا جس میں آپؐ نے دو مرتبہ قرآن شریف حضرت جبریلؐ سے دور فرمایا تھا علاوہ اس کے اور دوسرے صحیح یہی معاذ بن جبل، ابی بن کعب، زید بن ثابت، ابو دردار، ابو زید، محمد بن عبید، عثمان بن عفان، تیسم داری، عبادۃ بن صامت، ابوالیوب کے پاس بھی پورا قرآن شریف جانب بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھا یا ہوا موجود تھا سپر یہ بات کسی طرح قابل تسلیم نہیں ہو سکتی کہ تلاش کے بعد محض ابو خزیمہ یا خزیمہ کے پاس ملی بلکہ یہ ایک ایسی ناقابلی تبیول بات اس روایت میں ہے جو اس روایت کو معیار صحیح سے گردانی نہ کرنے کے لئے کافی ہے باخصوص جبکہ اس کے خلاف پورے قرآن شریف کے عہد نبوی میں لکھے جانے کے متعلق اس کثرت سے روایتیں موجود ہیں جو تو اتر کے مرتبہ کو پہنچ ٹھیکی ہیں۔

(۹) اشتباہ کی تیسرا روایت جو بخاری کی ہے اس میں زید کا بیان ہے کہ میں نے کمحور کے پتوں اور پتھر کے مکڑوں اور آدمی کے سینے سے قرآن جمع کیا اور لکھا یعنی کسی آیت یا کسی سورہ کو محض لکھتے ہوئے مکڑوں پر اعتاد کر کے خلیفہ اول کے عہد میں قرآن میں نہیں لکھا یا تھا بلکہ حفاظ صحابہ پر بھی آیت اور سورہ پیش کی گئی تھی اس کے بعد لکھا گیا تھا۔ تواب حیرت ہے کہ ایسی عالت میں جب سورہ احزاب حفاظ پر پیش کی گئی کس طرح اس کے آخر کی آیتیں لکھنے سے رہ گئیں جو غلیفہ سوم کے عہد میں نقل کے وقت معلوم ہوئیں، کیا حفاظ صحابہ کی جماعت میں سب کو ایک قلم یا آیت ذہول ہو گئی تھی اور کسی کو سورہ احزاب کی آخری آیتیں

یاد نہ تھیں جس کی وجہ سے مصحف صدیقی ناقص رہا۔ اور خود زید کو بھی جو مصحف صدیقی کے کاتب تھے اور قرآن کے حافظ تھے وہ بھی اس کو سارے حفاظ صحابہ کے ساتھ بھول گئے تھے۔ ایسے واقعہ پر کوئی آنکھ بند کر کے صحبت کی مہر کر دے مگر کوئی ذی ہوش اور صاحب بصیرت ایسے ناقابل قبول واقعہ پر ایک منٹ کے لئے اعتماد نہیں کر سکتا ہے۔ بالخصوص یہ کہ عہد صدیقی میں حفاظ صحابہ پر پیش کر کے قرآن جمع کیا جاتا ہے اور غفار راشدین رحمہم اللہ موجود ہیں اور چاروں قرآن کے حافظ ہیں پھر بھی مصحف صدیقی میں سورہ احزاب کی آخری آیتیں لکھی نہیں جاتی ہیں یہ سورہ ناقص رہتی ہے حالانکہ خلیفہ اول اور خلیفہ دوم کو قرآن کی حفاظت اور اس کی صحبت اور اس کے لفظ لفظ کی درستگی کا جس قدر اہتمام تھا اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ بات ایسی فلاف درایت معلوم ہوتی ہے جس کو کوئی ذی علم جو حفاظ صحابہ اور غفار راشدین کی زندگی سے علم رکھتا ہو ہرگز صحیح نہیں سمجھ سکتا ہے۔

(۱۰) اس روایت میں جس قرآن کو حضرت حفصہؓ کے پاس سے فلیفہ سوم نے طلب کیا تھا وہی قرآن ہے جس کے متعلق بخاری کی حدیث میں زید کا بیان یہ ہے کہ میرا لکھا ہوا قرآن زندگی پھر خلیفہ اکبر کے پاس رہا۔ ان کے بعد عمر رضی اللہ عنہ کے پاس پھر ان کے بعد ان کی بیٹی حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس رہا۔ مگر اتنے زمانہ تک جن صاحبوں کے پاس یہ قرآن رہا آیا اس طرح رہا۔ جس طرح مسلمان تبرکات قرآن اپنے گھروں میں رکھتے ہیں۔ میرے نزدیک صحابہ کرام خصوصاً غفار راشدین اور ازواج مطہرات کے متعلق ایسا خیال ایسی بد فتنی ہے جو بعض الظن اثم کے مصدق ہے۔

بہر حال ان بزرگوں کی زندگی پر نظر رکھتے ہوئے یہ ماننا پڑتا ہے کہ ضرور اس قرآن سے تلاوت کی جاتی ہوگی کیونکہ جناب بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم سے کہ یاد سے دیکھ کر تلاوت کو وہی فضیلت ہے جو فرض نماز کو نفل پر۔ صحابہ کرام کی ذات سے بالکل مستبعد ہے کہ اس علم کے بعد ان کی خواہش اور کوشش نہ ہو۔ کہ دیکھ کر تلاوت کریں بالخصوص غفار راشدین اور ازواج مطہرات۔ پس باوجود اس کے کم صحف صدیقی فلیفہ سوم کے عہد تک ہمیشہ ایسے لوگوں کے پاس رہا جو حافظ تھے اور جو بغواستہ حدیث مذکور باوجود حافظ ہونے کے دیکھ کر تلاوت فرماتے ہوں گے مثلاً حضرت ابو بکر پھر اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ وغیرہ باوجود حافظ ہونے کے فضیلت مذکور کی بناء پر ضرور دیکھ کر تلاوت فرماتے ہوں گے اسی طرح حضرت حفصہؓ بھی باوجود حافظ ہونے کے دیکھ کر تلاوت فرماتی ہوں گی۔ تو ایسی والت میں سورہ احزاب کے آخر کی آیتوں کے متعلق کسی کو خبر نہ ہو اور اس غلطی کا اتنے دنوں تک رد بانا اور فلیفہ سوم کے عہد میں زید کو اس

کے نقل کے وقت معلوم ہونا ایک ایسی بات ہے جو انسان کی فہم سے بالاتر ہے کہ ایک حافظ نہیں بلکہ تین تین حافظوں نے اس زمانہ تک جس قرآن میں تلاوت کی ہوا س میں ایسی غلطی رہ گئی ہو۔ اور پھر خصوصیت یہ کہ ان تین حافظوں میں دو تو غلغاء راشدین کے سراج حضرت ابو بکر و عمر بن عبد الرحمٰن سے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ جو حضرت عمرؓ کے گھر میں پی ہوں اور ان کی تربیت میں نشوونما پائی ہوا س پر بھی غلطی رہ جائے اور کسی کو خبر نہ ہو۔ میرے نزدیک ایسے اختلاف قرآن کے مثابے کے لئے جس کو خود حضور نے سن کر سمجھ کر جائز رکھا تھا اور غلیفہ سوم کا قرآن شریف کی نقل پر زید کو مأمور کرنا۔ اور اس کی نقل کے لئے باوجود دیکھ خود زید کے پاس اپنا لکھا ہوا۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا ہوا قرآن موجود تھا۔ حضرت حفصہؓ کے پاس سے قرآن شریف طلب کرنا اور باوجود اس کے کہ بہت سے صحابہ رضی اللہ عنہم کے پاس پورا قرآن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھا ہوا موجود تھا۔ سورہ احزاب کی آخری آیتوں کا مخفض خزیمہ یا ابو خزیمہ کے پاس ملنا ایسی باتیں ہیں جو یا تو بالکل بے اصل ہیں یا درمیان کے کسی راوی کے بیان کی وجہ سے غلطی ہے جو اقتضاء بشریت سے بعید نہیں ہے۔ بہر حال یہ تمام روایات بمقابلہ اس تو اتر اور توارث کے جس سے قرآن ہمیں ملا ہے لائق اعتبار نہیں واللہ اعلم بالصواب۔

عبداللطیف رحمانی

ہمارے ہال مذہبی دینی اور عارفانہ کلام کی خوبصورت ترین کتابیں دستیاب ہیں

آج ہی آئیں اور اپنی مطلوب کتب خرید رہا ہیں

رسول اکرم کی صتنیں، مولانا محمد صدیق ہزاروی

بیہقی السسراء (امام ابو الحسن السطنوی اتفاقی)

ہرشت پہشت، مجموعہ خواجہ جگان

کلام یا ہم، حضرت سلطان باہور عزیز

کلام بلمٹے شاہ، حضرت بلمٹے شاہ اللہ علیہ

کلام خواجہ غلام فرید خواجہ غلام فرید کوئٹہ مسٹن ٹرین

کلام شاہزادیں رحمة اللہ علیہ، خواجہ شاہ حسین

کلام یا فرید، حضرت بابا فرید القیم خود گنج نکر رحمة اللہ علیہ

شجاعیات عکاف، مولانا محمد صدیق ہزاروی

قرآن تعلیم، مولانا عبد الجبار قادری

قرآن علوم، مولانا عبد الجبار قادری

بزم اولیاء، مولانا عبد الجبار قادری

بڑھت و زخمیز، علامہ ارشد القادری

زیر وزیر، علامہ ارشد القادری

تبیغی جماعت، علامہ ارشد القادری

زرن لہ، علامہ ارشد القادری

نقش کریما، علامہ ارشد القادری

روگرسوس نسخہ ۱۲۰۰ء۔ ۱۲۱۰ء۔ لاہور

